

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تذکرہ

محمد شفیع صاحب
مکسڈولٹی

تالیف

خواجہ امجد علی صاحب

سورتنی اکیڈمی

۲ رڈی - ۱۶/۵، ناطقہ آباد نمبر ۲، کراچی

پاکستان میں جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب — تذکرہ محدث سورتی

تالیف — خواجہ رضی حیدر

کتابت — محمد اظہر القدوس ہاشمی اور غلام محی الدین

پروف ریڈنگ — مولانا شرف الحمادی اور محمد یوسف عثمانی

ترمیم و آرائش — محمد علی خان اور وصی حیدر غمار

نگران طباعت — مصباح الدین انصاری

اشاعتی ادارہ — سورتی ایکسٹری کرچی

ناشر — ولی حیدر ذاکر

مطبع — فیڈ پرنٹنگ پریس ناظم آباد، کرچی

تعداد اشاعت — ایک ہزار

قیمت — ۳۰ روپے (تیس روپے)

محل اشاعت ستمبر ۱۹۸۱ء ستمبر ۱۹۸۱ء



ملنے کا پتہ — * سورتی ایکسٹری، ۲۰ ڈی ۱۶، ناظم آباد، کرچی

* مکتبہ قادریہ، اندرون لوہاری گیٹ، لاہور

* دربار گولڑہ شریف، یو این ڈی

* سید لیاقت علی بکسیر نزد تحصیل سلی بھیت (یو پی) بھارت



اویس دوران
حضرت شاہ فیصل رحمن گنج مراد آبادی

کے نام
جن کی ذاتِ ستودہ صفت

چودھویں صدی ہجری کے علماء و مشائخ کا مرکز رہی ہے



تفصیل

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| تأثرات | مفتی عبد القیوم علی گڑھی |
| تقریظ | مولانا فیض احمد فیض خشتی گولڑوی |
| کچھ تذکرہ کے بارے میں | ڈاکٹر محمد مسعود احمد |
| کچھ اپنے بارے میں | خواجہ رضی حیدر |

خاندانی حالات

| | |
|----|----------------------------|
| ۲۹ | پہلے بزرگ کی ہندوستان آمد |
| ۳۲ | راندریکا محل وقوع |
| ۳۲ | مولانا محمد طیب سورتی |
| ۳۶ | جہاد آزادی ۱۸۵۷ء اور سورت |
| ۳۹ | مولانا محمد طیب کی وفات |
| ۴۱ | مولانا وصی احمد محدث سورتی |
| ۴۲ | شجرہ نسب |

آغازِ تعلیم

| | |
|----|--|
| ۴۳ | درود دہلی اور مدرسہ حسین بخش |
| ۴۴ | مدرسہ فیض عام کانپور |
| ۴۶ | استاذ العلماء مولانا لطف اللہ علی گڑھی |

محدث سورتی کی خدمات

- ۷۷ _____ مدرسۃ الحدیث کا قیام
 ۸۰ _____ اصلاح عقائد کی جدوجہد
 ۸۲ _____ علم فقہ اور محدث سورتی
 ۸۷ _____ فتاویٰ
 ۱۰۰ _____ اصلاح ندوۃ العلماء
 ۱۲۴ _____ ہندوستان میں ترک تقلید کی تحریک
 ۱۳۰ _____ جامع الشواہد کی اشاعت
 ۱۳۹ _____ ایک غلط بیانی کا ازالہ
 ۱۴۲ _____ جامع الشواہد کا عکس

تبلیغی سفر

- ۱۷۷ _____ عظیم آباد (پٹنہ)
 ۱۷۹ _____ امرتسر
 ۱۸۰ _____ لاہور
 ۱۸۲ _____ سیالکوٹ
 ۱۸۳ _____ کلکتہ

معمولات

- ۱۸۹ _____ وظیفہ روز و شب

بیعت و خلافت

- ۵۱ _____ گنج مراد آباد روانگی
 ۵۳ _____ حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی

آغاز تدریس

- ۵۹ _____ مدرسہ فیض عام سے وابستگی

تکمیل طب

- ۶۱ _____ لکھنؤ روانگی

دورہ حدیث

- ۶۳ _____ سہارنپور روانگی
 ۶۴ _____ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری
 ۶۸ _____ سند حدیث
 ۶۹ _____ علماء کے وفد کی قیادت

پیلی بھیت آمد

- ۷۱ _____ شادی اور پیلی بھیت میں قیام
 ۷۲ _____ پیلی بھیت کا پیش منظر
 ۷۵ _____ حافظ العلوم سے وابستگی

- ۲۲۲ _____ فضل احمد شاہ مانامیاں
 ۲۳۲ _____ مولانا فضل احمد صوفی
 ۲۴۲ _____ مولانا حکیم قاری احمد سہیلی بھیتی

برادر خورد

- ۲۵۶ _____ مولانا عبداللطیف سورتی
 ۲۵۷ _____ مولانا عبد الرحمن
 ۲۵۸ _____ مولانا عبدالحی
 ۲۵۸ _____ مولانا حافظ محمد ابراہیم
 ۲۵۹ _____ مولانا عبدالحسان
 ۲۵۹ _____ مولانا عبد السجان
 ۲۶۰ _____ مولانا عبد الحمید

مدرستہ الحدیث سیلاب کی زد میں

- ۲۶۲ _____ از سر نو تعمیر کی اپیل

تلامذہ

- ۲۶۶ _____ مولانا امجد علی اعظمی
 ۲۶۷ _____ مولانا حبیب الرحمن سہیلی بھیتی
 ۲۶۷ _____ مولانا سید خادم حسین محدث علی پوری
 ۲۶۸ _____ قاضی خلیل الدین حسن حافظ سہیلی بھیتی
 ۲۶۹ _____ مولانا سید محمد محدث کچھوچھوی
 ۲۷۰ _____ مولانا سید سلیمان اشرف بہاری

وصال

- ۱۹۱ _____ علالت اور غفلت
 ۱۹۲ _____ فاضل بریلوی کا اظہارِ حزن
 ۱۹۴ _____ تدفین
 ۱۹۷ _____ مزار مبارک

شعرا کا ہدیہ عقیدت

- ۱۹۸ _____ یاسورتی محدث
 ۲۰۰ _____ چراغِ راہ شریعت
 ۲۰۱ _____ یادگار محدث
 ۲۰۲ _____ یادِ محدث
 ۲۰۳ _____ سنت کے حامی
 ۲۰۵ _____ زرین قلم
 ۲۰۶ _____ چراغِ مسلم
 ۲۰۷ _____ عرسِ سورتی

اولاد و امجاد

- ۲۰۹ _____ سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد
 ۲۱۹ _____ حنیف النساء
 ۲۲۰ _____ کریم النساء
 ۲۲۲ _____ حلیم النساء
 ۲۲۲ _____ عقیف النساء

| | | |
|-----|-------|---|
| ۳۰۱ | _____ | اعلحضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی |
| ۳۰۵ | _____ | حضرت مولانا ارشد حسین رامپوری |
| ۳۰۶ | _____ | حکیم خلیل الرحمن خاں سیلی بھیتی |
| ۳۰۸ | _____ | حضرت مولانا دیدار علی شاہ محدث الوری |
| ۳۱۰ | _____ | حضرت شاہ جی محمد شیرمیاں سیلی بھیتی |
| ۳۱۳ | _____ | حضرت مولانا عبد العلی آسی مدراسی |
| ۳۱۷ | _____ | شیخ الاسلام مولانا عبد القادر بدایونی |
| ۳۱۸ | _____ | حضرت مولانا شاہ عبد الکریم گنج مراد آبادی |
| ۳۲۰ | _____ | قد علم سید پیر علی شاہ گولڑوی |

تصانیف

| | | | |
|-----|-------|--|----|
| ۳۲۳ | _____ | حاشیہ مدارک | ۱ |
| ۳۲۳ | _____ | حاشیہ بیضاوی (قلمی) | ۲ |
| ۳۲۲ | _____ | حاشیہ جلالین (قلمی) | ۳ |
| ۳۳۵ | _____ | تعلیقات سنن نسائی | ۴ |
| ۳۲۷ | _____ | تعلیقات شرح معانی الآثار | ۵ |
| ۳۳۰ | _____ | تعلیقات شروح اربعہ ترمذی | ۶ |
| ۳۳۵ | _____ | شرح سنن ابی داؤد (قلمی) | ۷ |
| ۳۳۷ | _____ | شرح مشکوٰۃ المصابیح (قلمی) | ۸ |
| ۳۳۸ | _____ | انوار حصن حصین | ۹ |
| ۳۳۹ | _____ | التعلیق المجلی بلانی مینۃ المصلی | ۱۰ |
| ۳۴۱ | _____ | (الف) امام بقالی اور مکتوب اعلحضرت | |
| ۳۴۲ | _____ | (ب) بعد از نماز ترک استقبال قبلہ اور مکتوب اعلحضرت | |

| | | |
|-----|-------|--|
| ۲۷۳ | _____ | مولانا ضیا الدین مدنی منظر العالی |
| ۲۷۴ | _____ | مولانا ضیا الدین سیلی بھیتی |
| ۲۷۵ | _____ | مولانا ظفر الدین بہاری |
| ۲۷۷ | _____ | حکیم عبد الجبار خاں |
| ۲۷۸ | _____ | مولانا عبد الحق محدث سیلی بھیتی |
| ۲۷۹ | _____ | مولانا عبد الحق کرگھنوی |
| ۲۸۰ | _____ | مولانا عبد الحئی سیلی بھیتی |
| ۲۸۱ | _____ | مولانا عبد العزیز خاں محدث بجنوری |
| ۲۸۱ | _____ | مفتی عبد القادر لاہوری |
| ۲۸۲ | _____ | مولانا عبد القادر میاں سیلی بھیتی |
| ۲۸۲ | _____ | مولانا عزیز الرحمن |
| ۲۸۳ | _____ | مولانا قاری غلام محی الدین منظر العالی |
| ۲۸۵ | _____ | حافظ محمد احسن کانپوری |
| ۲۸۵ | _____ | مولانا محمد اسماعیل محمود آبادی |
| ۲۸۸ | _____ | مولانا محمد شفیع بیسپوری |
| ۲۸۹ | _____ | مولانا مشتاق احمد کانپوری |
| ۲۹۱ | _____ | مولانا مصباح الحسن بھونڈوی |
| ۲۹۲ | _____ | مولانا نثار احمد کانپوری |
| ۲۹۴ | _____ | حافظ یعقوب علی خاں |
| ۲۹۷ | _____ | محدث سورتی کے دیگر تلامذہ |
| ۲۹۸ | _____ | حضرت مولانا احمد حسن کانپوری |

معاصرین

شیخ وقت محدث سورتی

پروفیسر مفتی محمد عبد القیوم علیگرہی نبیرہ استاد اعلیٰ
حضرت مولانا مفتی محمد لطف اللہ علیگرہی (سابق سربراہ شعبہ دینیات
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی - بھارت)۔

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ الشَّيْءَ يَكْرُمُ فِتْنَى الصَّلَاحِ

حضرت مولانا شاہ ولی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات خواجہ
رضی حیدر زید لطفکم نے مرتب فرمائی ہے۔ حضرت محدث سورتی کو استاد اعلیٰ حضرت مولانا لطف اللہ
علی گڑھی قدس سرہ العزیز سے شرف تلمذ حاصل رہا اور شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب
گنج مراد آبادی نور اللہ مقدس سے سعادت بیعت حاصل ہوئی۔ دونوں ہی گرامی قدر شخصیتیں علم و
عمل اور دانش و تقویٰ کی سپیکر جمیل تھیں۔ ادھر استاد مترم اور شیخ مکرم کے خزانے علم و عمل
سے بھر پور ادھر گرامی قدر شاگرد اور ارادتمند کے دامن طلب میں وسعتیں ہی وسعتیں اور
گنجائش ہی گنجائش۔ اب کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ محدث سورتی نے ان دونوں بزرگوں سے
کیا کیا پایا اور انہوں نے سعادت شاگرد اور ارادتمند کو کیا کیا بخشا۔

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد زباغبان

بلبل چہ گفت گل چہ شنید و صبا چہ کرد

تذکرہ محدث سورتی کا مطالعہ کرنے والا اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہے کہ محدث سورتی علم

| | | |
|-----|---------------------------------------|-----|
| ۳۴۲ | تشریح حدیث | (ج) |
| ۳۴۸ | تقبیل ابہامین | (د) |
| ۳۵۰ | ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہے | (ہ) |
| ۳۵۱ | حدیث منقطع کا حجت ہونا | (و) |
| ۳۵۲ | اہل علم کے عمل سے حدیث قوی ہو جاتی ہے | (ز) |
| ۳۵۳ | فائدہ جلیبہ | (ح) |
| ۳۵۴ | الذره فی عقد الایدی تحت السره | ۱۱ |
| ۳۵۶ | کشف الغمار عن سینۃ العامہ | ۱۲ |
| ۳۵۹ | انہار شریعت | ۱۳ |
| ۳۵۹ | انفع الشواہد | ۱۴ |
| ۳۶۰ | حاشیہ مقامات حریری | ۱۵ |
| ۳۶۱ | حاشیہ شافیہ | ۱۶ |
| ۳۶۱ | حاشیہ ملاحسن (قلمی) | ۱۷ |
| ۳۶۳ | میبذی | ۱۸ |
| ۳۶۳ | دیگر حواشی | ۱۹ |
| ۳۶۳ | کتابیات | |
| ۳۶۴ | اخبارات و رسائل | |



کے اعتبار سے ہر فن میں درک تاملہ خصوصیت سے حدیث میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے اور سلوک و معرفت میں شیخِ وقت کے مرتبے پر فائز تھے۔ محدثِ سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً پندرہ سال تک حافظ الملک حافظ رحمت خان روہیلہ مرحوم کے قائم کردہ مدرسہ میں صدر مدرس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد اپنے قائم کردہ مدرسہ الحدیث میں بیس سال خدمات انجام دیں۔ حضرت کے فضل و کمال کی شہرت نہ صرف برصغیر بلکہ دوسرے ممالک تک پھیل چکی تھی اطراف و اکناف عالم سے تشنگانِ علم و معرفت کا سہ طلب لیکر ہفرموتے اور سیراب ہو کر واپس جاتے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ بے شمار ہستیوں نے محدثِ سورتی سے اکتسابِ فیض کیا اور عالم کے گوشے گوشے تک انوار و برکات کو پہنچایا۔ محدث صاحب صرف علم و معرفت کے میدان کے شہسوار ہی نہ تھے بلکہ سیاست میں بھی آپ نے نمایاں کردار ادا کیا چنانچہ انگریزی تسلط قائم ہونے سے ملک کو بالخصوص ملتِ اسلامیہ کو جو نقصانات پہنچنے کے اندیشے تھے اس کے دفیو کے لئے آپ نے اکابرِ ملتا کے ایک وفد کی قیادت فرمائی جس نے مسلسل تین ماہ پورے ملک کا دورہ کر کے دنیا اور مذہبی مدارس کا ایک نظام قائم فرمایا۔ محدث صاحب نے اچھا خاصہ ذخیرہ اپنی تصانیف و تصنیفات کا بھی چھوڑا جو آنے والی نسلوں کے لئے مشعلِ راہ اور وسعتِ علم کی نشانی ثابت ہوں گی۔ میں عزیزم خواجہ رضی جیدر سلمہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم ترین ہستی کی سوانح حیات کو مرتب فرما کر بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبولیتِ دوام عطا فرمائے۔

تقریظ

حضرت مولانا فیض احمد حسینی
شیخ الحدیث دیبا رہا ایسہ گوثرہ شریف ضلع راولپنڈی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء و علی الہ المجتبیٰ۔ آبا بعد زیر نظر کتاب ایک ایسی مایہ ناز شخصیت کی سوانح حیات ہے جن کے علم و فضل اور دینی خدمات کا اعتراف تقریباً برصغیر کے ہر صاحبِ علم و دانش کو ہے جزا ما اللہ تعالیٰ عن المسلمین خیر الجزاء۔ عزیز محترم خواجہ رضی جیدر صاحب نے جنہیں نسبی لحاظ سے حضرت محدثِ سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق ہے جس محنت و جانفشانی سے اس خدمت کو سرانجام دیا وہ بجا طور پر تحسین و آفرین کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہبل شاذ اپنے حبیبِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل مؤلف کو موصوف کو بہتر جز اعطا فرمائے اور اس کا برخیز میں تعاون کرنے والوں کو نیک جزا دے۔

آمین ثم آمین



کچھ تذکرہ کے بارے میں


بائیں

سب کہاں کچھ لارڈ گل میں نمایاں ہو گئیں
خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ نہاں ہو گئیں
علمائے اہلسنت میں ایک سے ایک بڑھ کر جلیل و جمیل ہے — ان کے چہرے دیکھنے دکھانے
کے لائق ہیں — ۱۸۵۷ء کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور بعض مورخوں نے ان حسین چہروں
کو چھپانے اور ان پر خاک ڈالنے کی کوشش کی اور بہت سے چہرے چھپ گئے۔ مگر
اب یہ خاک اکسیرین کر سامنے آرہی ہے۔

خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے
یہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل

فاضل جلیل مولانا وصی احمد محدث سورتی انہیں جلیل القدر علماء اہل سنت میں تھے جن کے
اذکار سے تاریخ کے اوراق ایک عرصہ تک خالی رہے۔ فاضل مولف خواجہ رضی مجدد صاحب کا ہم کو ممنون
ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس طرف توجہ فرما کر تاریخ و سوانح کے ایک نامعلوم گوشے کو روشن کیا۔

محدث سورتی ۱۸۳۲ء میں رائدر (ضلع سورت، بھارت) میں پیدا ہوئے یعنی انقلاب
۱۸۵۷ء سے تقریباً بیس سال قبل۔ ۱۸۷۷ء میں آپ دہلی آئے یہاں مسجد فتحپوری میں قیام کیا، ان دنوں
راقم کے بڑا بچہ حضرت مفتی محمد مسعود شاہ محدث دہلوی مجدد مذکور میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔
ممکن ہے کہ محدث سورتی نے ان سے بھی استفادہ کیا ہو۔ مسجد فتحپوری میں قیام کے بعد محدث سورتی مدرسہ
حسین بخش (دہلی) پہنچے۔ وہاں کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد ۱۸۷۹ء میں مجاہد جنگ آزادی مولانا غایت احمد
کاوردی کے مدرسہ فیض عام (کانپور) چلے گئے، جہاں ان کو مولانا لطف اللہ علی گڑھی جیسا استاد و کامل ملے۔
مولانا احمد حسن کانپوری محدث سورتی کے ہم سبق رہے۔ مولانا علی گڑھی کے فاضل و کمال کا اس اندازہ



پہلی سے بائیں میں واقع حضرت محدث سورتی کے مزار کا بیرونی منظر

لگایا جاسکتا ہے کہ پیر مرہ علی شاہ گولڑوی مولوی عبدالحق حقانی دہلوی مولانا شبلی نعمانی مولانا عبدالملک اور نواب حبیب الرحمن خاں شیروانی ان کے تلامذہ میں تھے۔

محدث سورتی ۱۳۸۶ھ میں مدرسہ فیض عام سے فارغ ہوئے اور گنچ مراد آباد (ضلع ناٹو دیوپی) پہنچے۔ جہاں فاضل کامل و عارف اکمل مولانا فضل الرحمن گنچ مراد آبادی کی صحبت سے مستفیض و مستفید ہوئے اور سبیت و خلافت سے نوازے گئے۔ مولانا گنچ مراد آبادی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے سند حدیث حاصل تھی، آپ کے تلامذہ میں مولانا محمد علی نوگیری، مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا اشرف علی تھانوی، پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری اور مولانا دیدار علی الوری جیسے فضلا شامل تھے۔

۱۳۹۳ھ میں محدث سورتی دارالعلوم مظاہر العلوم (سہارنپور) پہنچے جہاں مولانا احمد علی سہارنپوری سے درس حدیث لیا اور تقریباً ۱۳۹۵ھ میں سند حدیث لی۔ اس مدرسہ میں پیر مرہ علی شاہ گولڑوی اور مولانا دیدار علی الوری آپ کے ہم سبق رہے۔ مولانا سہارنپوری کے تلامذہ میں حاجی املا اللہ مہاجر کی، مولانا محمد احسن نانوتوی، مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا محمد فاروق چریا کوٹی جیسے علماء شامل تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد محدث سورتی کانپور پہنچے جہاں مدرسہ فیض عام میں درس تدریس اور فتویٰ نویسی کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ یہاں آپ آٹھ سال رہے۔ نسائی شریف کا حاشیہ بھی لکھنا شروع کیا۔ ۱۳۹۶ھ میں شادی کے بعد کانپور سے پبلی بھیت (یو۔ پی) تشریف لائے اور یہاں مدرسہ حافظ العلوم میں صدر مدرس ہو گئے۔ پندرہ سال تک درس و تدریس میں معروف رہے پھر اپنے مدرسہ الحدیث کے نام سے اپنا الگ مدرسہ پبلی بھیت میں قائم کیا اور درس حدیث کا آغاز کیا اس کے ساتھ مجدّد کبیر میں آٹھ عمر تک اہمیت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ درمیان میں دو سال کے لئے قاضی عبدالوحید کی دعوت پر مدرسہ خفیہ (پنڈ) چلے گئے لیکن دو سال بعد پھر اپنے مدرسہ میں آ گئے۔

محدث سورتی نے تحریک ندوۃ العلماء میں بھی حصہ لیا۔ ۱۳۹۵ھ میں مدرسہ فیض عام (کانپور) میں اس کا آغاز ہوا۔ امام احمد رضا بھی اس کے ایک اجلاس میں شریک ہوئے اور اصلاح نصاب کے سلسلے میں ایک مقالہ پڑھا لیکن جب ندوۃ العلماء کا مزاج اور کردار بدلاتو پہلے امام احمد رضا علیہ رحمۃ ہوئے اس کے بعد محدث سورتی بھی نہیں بلکہ ندوۃ العلماء کے خلاف مستقل ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس سے قبل محدث سورتی نے پاک و ہند اور حجاز میں مولانا نذیر حسین کے زیر اثر چلنے والی ہم کا بھی تعاقب کیا تھا اس

سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب جامع الشواہد لکھی۔ ۱۳۹۵ھ سے ۱۳۹۶ھ تک اس کے ۲۱ ہزار نسخے شائع ہو چکے تھے۔

المختصر محدث سورتی نے پاک و ہند میں حنفیت کے تحفظ و دفاع اور مسلک اہلسنت و جماعت کے فروغ و اشاعت کے لئے مقدور بھر کوشش کی فقہ و حدیث میں ان کو بڑا تجربہ حاصل تھا جس پر ان کی تصانیف و حواشی گواہ ہیں ان کے تلامذہ میں بہت سے صاحب فضل و کمال ہوئے۔ بیشتر کو امام احمد رضا نے خلافت و اجازت سے نوازا۔ تلامذہ میں یہ حضرات قابل ذکر ہیں: مولانا محمد ظفر الدین بہاری، مولانا مفتی منیر الدین مدنی، مولانا مشتاق احمد کانپوری، مولانا انصار احمد کانپوری، مولانا سید محمد محدث کچھوی، مولانا خادم حسین محدث علی پوری، سید سلیمان اشرف بہاری وغیرہ وغیرہ۔

محدث سورتی کھلے اجاب بھی بڑا وسیع تھا جس میں امام احمد رضا خاں بریلوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان کے علاوہ یہ حضرات اجاب میں شامل تھے۔ مولانا محمد عبدالقادر بدایونی، مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا عبدالکریم گنچ مراد آبادی، مولانا ارشد حسین رامپوری، مولانا عبدالعلی آسی، پیر مرہ علی شاہ گولڑوی اور مولانا دیدار علی الوری وغیرہ۔

محدث سورتی کی اولاد میں صرف ایک صاحبزادے تھے یعنی مولانا عبدالاحد پبلی بھیتی ان کے علاوہ پانچ صاحبزادیاں بھی تھیں۔ فاضل مولعت نے ان کا بیٹا علیہ علیہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے مولانا عبدالاحد کے صاحبزادے شاہ فضل احمد موٹی نے قابل قدر سیاسی و ملی خدمات انجام دیں ۱۹۲۵ھ میں انہوں نے وصال فرمایا۔ دوسرے صاحبزادے قاری احمد پبلی بھیتی نے بھی قابل ذکر سیاسی خدمات انجام دیں۔ وہ مسلم لیگ میں شامل تھے۔ ۱۹۳۲ھ میں قرارداد پاکستان آل انڈیا سٹی کانفرنس (پبلی بھیت) کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ ۱۹۳۶ھ میں وہ ایک قافلے کی شکل میں آل انڈیا سٹی کانفرنس (بنارس) میں شریک ہوئے۔ پاکستان آنے کے بعد وہ جمعیتہ العلماء پاکستان سے منسلک ہو گئے۔ ۱۹۵۹ھ میں وصال فرمایا، تیسرے صاحبزادے شاہ منامیاں قادری نے بھی مذہبی و ملی خدمات انجام دیں ۱۹۵۵ھ میں انہوں نے انتقال کیا۔ فاضل بولف نے ان کا مادہ تاریخ وفات کیا خوب نکالا ہے۔

شمس النبوض جساودانہ

محدث سورتی کی ظاہری اولاد کی طرح معنوی اولاد بھی قابل ذکر ہے۔ فاضل مولف نے ان کی نسبت
سی تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ ان میں کتب حدیث وفقہ پر شروح و حواشی بھی ہیں اور دیگر علوم عقلیہ
تقلید کی مصنوعات بھی۔ یہ باب محنت سے ترتیب دیا گیا ہے۔

محدث سورتی نے مسلک و مذہب کے لئے بے مثال خدمات انجام دے کر اور اپنی ظاہری معنوی
یادگاریں چھوڑ کر ۸ جمادی الاول ۱۳۳۲ھ / ۱۲ اپریل ۱۹۱۶ء کو وصال فرمایا۔ امام احمد رضا نے اس
آیت قرآنی سے مادۂ تاریخ و فہام نکالا ہے۔

یطاف علیہم بانیۃ من فضة واکواب

۱۳۳۲ھ

خدا کی شان محدث سورتی کے وصال کے چھ سال بعد امام احمد رضا کا وصال ہو گیا
آیت مذکورہ میں صرف "و" کے اضافے سے امام احمد رضا کا سنہ وفات (۱۳۳۰ھ) نکل آتا ہے اس
حسن اتفاق کو دونوں کی دوستی پر قرآن کی شہادت ہی کہا جاسکتا ہے۔

فاضل مولف خواجہ رضی جید نے محدث سورتی سے اپنے نسبی تعلق کا حق ادا کر دیا۔ محدث سورتی
ان کے پردادا ہیں۔ خواجہ صاحب کا یہ کانام علماً و مونیار کے اخلاف کے لئے ہمہ گیر کاردار ادا کرنے کا
مجموعی طور پر یہ کتاب معلوماتی ہے۔ خود راقم نے بھی استفادہ کیا ہے۔ فاضل مولف نے ایک اہم ضرورت
کو پورا کیا ہے اور تاریخ علما اہلسنت میں ایک وقیع اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے نامعلوم مواد کو سامنے
لا کر مورخوں اور سوانح نگاروں پر احسان کیا ہے۔ مولیٰ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امید
ہے کہ یہ کتاب قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔

ڈاکٹر محمد سعید احمد

پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج

مٹھہ (سندھ)

یکم سنفر المنظر ۱۳۸۱ھ

۱۰ دسمبر ۱۹۸۰ء

لکچھاپنے بارے میں

ایک آواز عرصہ سے میرا تعاقب کر رہی تھی۔ نافرمانی کا ایک لمحہ تھا جس کی یاد میرے ذہن
کو کچھ کے لگاتی اور نسل در نسل منتقل ہونے والا دجلہ خون تھا جو میرے وجود کو مضطرب بے چین
رکھتا لیکن میں تھا کہ اس آواز کے لئے کان بند کئے۔ نافرمانی کے لمحہ کو زندگی بنائے۔ دجلہ خون
سے الگ زندگی کے ایک مخصوص چکر میں گھوم رہا تھا۔

پھر ایک طویلیا آیا جس نے میرے ضمیر خفتہ کو بیدار کیا۔ دروں بیٹی پر اکسایا اور مجھ پر
خود امتحانی کے دروازے کھل گئے۔ میں سوچتا رہا، کیا تھا، کیا ہو گیا ہوں، کس راہ کا مسافر تھا
کس راستہ پر آنکلا ہوں۔ کن روایتوں کا سیفر تھا۔ کس کم مائیگی کا اسیر ہوں۔ اس لمحہ عقدہ کھلا
کہ میں نے سراسر زیاں سے یاری کی ہے۔ گھائے کا سودا کیا ہے اور یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے
بزرگوں کے لئے سز مندگی کا سبب ہوں۔ ذہنی فکری اور علمی شجرہ نسب کا ثمر بنے تخم ہوں۔ وہ
صحرا ہوں جس میں ذہنوں کو سیرابی روحوں کو شادابی اور زندگی کو طہارت بخشنے والا دریا آکر
خشک ہو گیا ہے۔ اس لمحہ میں نے اپنی ہیلاستی پر شرمسار اور کوتاہ نظری پر شرمندہ ہو کر ایام گزشتہ
کی سمت دیکھا تو روشن لمحوں کا ایک ہجوم تھا جو میری گرفت سے نکل گئے تھے۔

ان روشن لمحوں میں پہلا تابناک لمحہ ۸ مارچ ۱۹۶۶ء کی سمری شام میں لپٹا ہوا آیا۔ وہ
عید الفطر کا دن تھا۔ ایسے موقعوں پر بزرگوں کی خدمت میں حاضری دینا میرے والد اپنا فرض سمجھتے
تھے۔ اس شام بھی وہ نذرانہ تہنیت پیش کرنے کے لئے تاج العلماء حضرت مولانا مفتی محمد نعیمی کی
خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ مفتی صاحب کی بیٹھک میں تشنگان علم اور علما کا ہجوم تھا۔ ایسے میں
میرے والد میری انگلی پکڑے بیٹھک میں داخل ہوئے۔ مفتی صاحب انہیں دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے
والد صاحب نے بڑھ کر دست بوسی چاہی تو مسکرا کر اپنے قریب بٹھایا لیکن میں نے والد صاحب کی
ہدایت پر مفتی صاحب کے نرم و ملائم ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے۔ والد صاحب نے فرمایا:
حضرت ایہ خادم زادہ ہے۔

مفتی صاحب نے مسکرا کر میرے سر پر دستِ شفقت رکھ دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مفتی صاحب نے دریافت فرمایا: "کیا پڑھتے ہو؟"

نویں جماعت میں ہوں " میں نے موڈ بانہ جواب دیا۔
مفتی صاحب زیر لب مسکرائے اور فرمایا: "ہاں صاحبزادے۔ اب روشِ زمانہ یہی ہے۔ غیر میٹرک کے بعد میرے پاس آنا۔ میں تم کو پڑھاؤں گا تاکہ حضرت محدث سورتی کا علمی سلسلہ جاری رکھ سکوں۔"

والد نے دست بستہ عرض کیا: "حضرت اس سے بڑھ کر میری اور اس خادم زادے کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔"

اُس رات گھر پہنچ کر والد مرحوم دیر تک مجھے حضرت محدث سورتی کے علم و فضل کی داستان سناتے رہے اور میں کچے کانوں سے یہ سب کچھ سنتا رہا۔ شبنم ریت میں جذب ہوتی رہی۔
مفتی صاحب سے ملاقات میری زندگی کا وہ پہلا روشن لمحہ تھا جس نے مجھے اکتسابِ نور کا پیغام دیا تھا۔ مگر آج بس میں اس پر نور لمحے کی یاد کے جملہ انوار میں دگر نکتہ بیٹھا ہوں۔ میرے سر سے میرے علمی شجرہ نسب کا سایہ اٹھ چکا ہے اور میں زندگی کے تپتے صحرا میں ایک بگولے کی مانند آوارہ ہوں کہ خاندانی روایات کی زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ یہ سب اس لئے ہوا کہ مفتی صاحب کی دلہیز پر میری انگلی پکڑ کر لے جانے والے ہاتھ کو میں خود جھٹک کر دنیا کے تمام بادگردی طرف بھاگ لیا تھا سوا ب بھی بھاگ رہا ہوں۔ میری یہ تمام بھاگ دوڑ دنیا کے لئے ہے اور دنیا ہے کہ مجھ سے ابھی تک آگے ہے۔ میں دھلان پر پھسلتے ہوئے انسان کی طرح دائیں بائیں عالم بے چارگی میں ہاتھ مارتا ہوں لیکن ہر مرتبہ کسی ہمارے کے بجائے ریت ہی میری ہتھیوں میں آتی ہے۔

مفتی صاحب سے ملاقات کے دو برس بعد میں نے میٹرک پاس کیا اس عرصہ میں کئی مرتبہ مفتی صاحب کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ہر مرتبہ مجھے مفتی صاحب کا وہ جملہ یاد آیا "میٹرک کے بعد میرے پاس آنا۔ میں تم کو پڑھاؤں گا تاکہ..." اور ہر مرتبہ میں نے اس جملے کی بازگشت کو خواہشوں کے شور میں دبا دیا۔

میٹرک پاس کرنے پر والد صاحب نے لاکھ بچھایا کہ میں اُس دعوت پر بیک ہوں جو مفتی صاحب نے دی تھی لیکن میں اس کے لئے تیار نہ ہوا کیونکہ میں علم کے اس دریا کو جو حضرت محدث سورتی اور مفتی محمد عمر نعیمی کے ضمیر و خمیر کی سیرابی کا سبب تھا ایک خشک دریا سمجھتا تھا۔ وہ علم میرے نزدیک اُس وقت جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھا میرے نزدیک اس علم کی آخری منزل کسی مسجد کی امدت تھی اور جس علم کی ضرورت پیدائش کے وقت کان میں اذان دینے، شادی کے وقت نکاح اور مرنے وقت نماز جنازہ پڑھانے کے لئے محسوس کی جاتی ہے۔ میں اپنی ضد پر اڑا رہا کیونکہ میرے نزدیک اُس وقت علم ارتقاع ذات کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیاوی آرام و آسائش کے حصول کا وسیلہ تھا۔ اپنے شجرہ نسب میں دنیا کی طلب نہ پا کر میرا دل کچھ جھجھکتا تھا۔ سو میں اس علم کو حاصل کرنے کے بجائے جس کی چوکھٹ پر بادشاہوں کے سر خم ہوتے ہیں اُس علم کے حصول کی دھن میں لگ گیا جو انسان کا سر دنیاوی خواہشات کے سامنے جھکا دیتا ہے پھر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔

یہ دوسرا روشن لمحہ تھا جو میری ذات کے اندھے کنوئیں میں جل بچھا۔ وقت کروٹیں لیتا رہا والد صاحب کی خواہش اُن کے دل میں دفن ہو کر رہ گئی۔ مفتی صاحب اس دار فانی سے عالم جاوداتی کی سمت کوچ کر گئے اور میں! میں کالج سے نکل کر یونیورسٹی پہنچ گیا۔ ابھی یونیورسٹی کے بامِ دود آسمانوں میں تازہ تھے کہ ایک روز والد کی سمت غور سے دیکھا تو اُن کے ڈھلتے ہوئے شانے کچھ اور کبہ رہے تھے۔ اُن کی آنکھوں میں ایک خاموش پیغام تھا۔ میرے لئے ڈھلتے ہوئے شانوں اور آنکھوں کا پیغام سمجھ لینا کوئی مشکل نہ تھا۔ سو میں نے ملازمت کی۔ زنجیر گراں بار خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں میں ڈال لی۔ مگر حثیتِ نفس اب بھی شعور کے بلوغ کی سرحدوں تک سفر میں حائل تھا۔ تشکیک اور تکذیب کے دائرے اب بھی اطراف میں کھینچے ہوئے تھے۔ اب بھی غوغائے مگال میں آوازِ اذانِ دور کی بازگشت معلوم ہوتی تھی اور والد صاحب تھے کہ وہ اب بھی مجھے موروثی علم حکمت کے سرمدی اور راہدی چشمے کے صاف و شفاف پانی سے سیرابی کی دعوت دے رہے تھے لیکن فغانِ درویش بے اثر ہی رہی۔ اُن کو کیا معلوم تھا کہ پول کی پتی سے ہیرے کا جگر گنناض ایک شاعرانہ تعلق ہے۔

پھر غوغائے سگال میں آوازِ اذان خاموش ہو گئی۔ والد صاحب مجھے اس دنیا کے حوالے کر کے اس منزل کی طرف چلے گئے۔ جو ہر بقا کی منزل ہے اس دن پہلی مرتبہ مجھے اپنے بے سہارا ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ مجھے اپنی نافرمانیاں یاد آئیں۔ عراخانہ دل سجا تو کئی یادیں سوہان روح بن گئیں۔ داخلی کرب اور روحانی اذیت سے سوچ کے تمام پیمانے لبریز ہو گئے۔ میں نے اپنے ہاتھوں شفقت اور محبت کی علامت کو لحد میں اتارا۔ میٹی دی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا واپس آ گیا۔ اس دن زندگی کی بے ثباتی پر یقین آ گیا اور اپنی زندگی کی بے رنجی شدت سے محسوس ہونے لگی۔

یہ تیسرا روشن لمحہ تھا جو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پلٹ کر دیکھتا ہوں تو پچھتاوے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ملال و ملامت کی اس کربناک فضا میں اپنی اصل کی بازیافت ایک کارڈ شوار تھا سو میں نے ایک مرتبہ پھر لذتِ دنیاوی کے آگے گردن جھکا دی اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر سما کا بادباں غوغائے سگال کے حوالے کر دیا۔ ہر صبح شب کے پردے سے طلوع اور ہر شام صبح کا ذب کے پردے میں غروب ہوتی رہی مگر آوازوں کا تعاقب جاری ہی رہا۔ ایک غلش تھی کہ دل و دماغ کو مضطرب کئے رہتی تھی۔ ایک پھانس سی تھی جس کی کھٹک روح کی گہرائیوں میں محسوس ہوتی اور بار بار یہ خیال پریشان کرتا کہ زیاں کا یہ ٹھکرتک دراز رہے گا اور کیا میں یونہی خواہشوں کے سراپ میں گرفتار اپنے بزرگوں کے لئے شرمندگی کا سبب بنا رہوں گا۔ مگر میرے اندر سے کوئی جواب نہ آتا تھی کہ خود کلامی میرا وظیفہ روز و شب بن گئی اور میں تاسف و ملال کی اذیت ناک یوں سے گزرتا رہا۔ پھر روز و شب کی ویرانی میں ایک شام ایسی طلوع ہوئی۔ تھکے ذہن اور بوجھل قدموں کے ساتھ میں نے دفتر کو غیر یاد کہا اور ٹریفک کے شور میں اکھڑا ہوا۔ دن رات سے ہم آغوش ہو رہا تھا کہ اچانک فضا میں آوازِ اذان گونجی۔ بے ارادہ میری نظریں ایک مسجد کے میناروں سے الجھ گئیں۔ حتیٰ علی الصلوٰۃ کی صدائے قدیموں کو جنتیں دی اور میں فلاح کی تلاش میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔

نماز سے فارغ ہو کر دیکھا۔ محراب میں ایک وجہہ نوجوان بجمہ و دستار کی قید سے آزاد، آنکھوں میں علم کی چمک اور چہرے پر زہد کا نور لئے نہایت خلوص دل سے اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنتہ و فی الاخرۃ حسنتہ وقتنا عذاب النار کا ورد کر رہا تھا۔ وہ نوجوان مجھے بہت

مانوس لگا۔ دل خود بخود اس کی طرف کھینچے لگا۔ میں اس نوجوان کے پاس گیا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ امام شاہ حسین گردیزی اور تعلق گورہ شریف سے ہے یہ معلوم ہونا تھا کہ شاہ حسین سے میری عقیدت و محبت کی انتہا نہ رہی۔ قبلہ عالم پر سید مہر علی شاہ گورہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کی علم و عرفان سے لبریز شخصیت کا عکس جمیل آئینہ خانہ دل میں جلوہ گر ہو گیا۔ والد مرحوم کی بیعت اور اپنے مرشد سے ان کی عقیدت یاد آئی اور آنکھیں نم ہو گئیں۔

یہ جذبِ مہر علی تھا جو کھینچ لایا تھا

کہ سپیلی بصیرت تھا پنجاب سے بہت ہی دور

اس ملاقات میں شاہ حسین گردیزی سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ لگتا تھا کہ برسوں کے بچھڑے ہوئے دو دوست اچانک آملے ہیں اور ایک دوسرے کو گورے ہوئے زمانے کی باتیں اور جیتے تجربات سنارہے ہیں۔ میں ان دنوں قانہ منظم محمد علی جناح پر ایک کتاب لکھنے میں مصروف تھا جب میں نے شاہ حسین گردیزی کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے فوراً کہا "علماء کی تاریخ سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟"

میں نے نفی میں سر ہلایا تو بولے "چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنے جد امجد کی سوانح لکھتے تاکہ علماء و عوام ان کی زندگی اور خدمات سے کما حقہ واقف ہو سکیں۔"

شاہ حسین گردیزی سے میری یہ ملاقات بھی میری زندگی کا ایک روشن لمحہ تھا۔ وہ روشن لمحہ جب مجھے ایک مرتبہ پھر آوازِ اذان صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز نے مجھے اپنی اصل کی طرف رجوع ہونے کا پیغام دیا۔ اس لمحے اپنی شناخت کا سوال در دل پر دستک دیتا اور گنہامی کی موت سے ڈراتا رہا۔ مفتی محمد عمر نعیمی کی پیش کش سے میکروالذکی خواہشوں۔ فہمائشوں اور تلقینوں تک اور وہاں سے شاہ حسین گردیزی تک ایک ہی آواز کا سفر تھا ایک ہی صدا کی بازگشت تھی۔ ایک ہی قرأت تھی اور ایک ہی ٹن۔ ہر ایک میں زبور کی نغمگی تھی۔ مزموذ میر معنی کا نغمہ تھا۔ کبھی دیکھنے والا نغمہ۔ اس نغمگی سے روشن ہونے والے ذہن سے میں نے ماضی میں دیکھا۔ دور تک ایک صراطِ مستقیم تھی۔

یہ نغمہ نرم ہوا میں ہیں کس کے دامن کی چراغِ دیر و دم جھلملائے جاتے ہیں

اور ان چرخوں کی نو میں چہرے دمک رہے تھے۔ صوفیائے کرام کے چہرے، علمائے دین کے چہرے
آشتی چہرے جن کی زیارت فکر کو تازگی اور قلب کو مینائی عطا کرتی ہے۔

شاہ حسین گریزی سے ملاقاتوں کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ انہوں نے مجھے علمائے سوانح پر کتابیں
بھیجیں اور اکابر دین کی تاریخ کا مطالعہ میرا مشغلہ روز و شب بن گیا۔ انہی ملاقاتوں کی دین تھی
کہ ایک طے میں نے اپنے جد امجد حضرت مولانا وحی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھنے کا
فیصلہ کر لیا۔ کام شروع کیا تو پتہ چلا کہ میں نے مشکلات کے کوہ گراں کی کوہ پیمائی کا عزم کیا ہے، مواد
جمع کرنا شروع کیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ والد صاحب کی مختصر سی یادداشتوں کے سوا حضرت
محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی مواد میسر نہیں لیکن شاہ حسین گریزی کی رفاقت ہمیں کام کرتی
رہی۔ متعدد کتب خانوں کو کھنگالا۔ ہندوستان کے علماء و اعیان سے خط و کتابت شروع کی۔ اندرون
ملک سفر اختیار کئے اور جو نیدہ پانڈہ کے مصداق منزل آسان ہوتی گئی۔ حضرت محدث سورتی
رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کے بارے میں اس قدر مواد سامنے آیا کہ اب اس کو ایک تذکرہ
کے اندر سمیٹنا امتحان ہو گیا۔ یہ طے کیا کہ مختصر رسائل اور فتاویٰ کو روک لیا جائے۔ چنانچہ چند ضروری
فتاویٰ شامل تذکرہ کر کے باقی فتاویٰ روک لئے گئے تاکہ ان کو فتاویٰ محدث سورتی کے نام سے
علیحدہ شائع کیا جائے۔

مجھے پورا اعتراف ہے کہ میں حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا پوری طرح احاطہ
نہیں کر سکا ہوں۔ اس کا صرف اور صرف سبب میری کم علمی اور کوتاہ نظری ہے۔ بہر حال میں نے اپنی محنت
اور کوشش میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ میری یہ کتاب خواہ اہل علم اور علماء کے نزدیک درخور اعتناء نہ ٹھہرے
خواہ وہ اہل علم سطح پر ایک ناکام کوشش ہی کیوں نہ قرار دیں۔ لیکن میں یہ بات پورے اعتماد کے
ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ کوشش حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی طبعی اور علمی زندگی پر پہلی
کتاب ہے اور یہ کتاب آئندہ اہل علم اور علماء کے لئے حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ پر ان
کے شانِ شان کوئی کتاب تالیف کرنے میں یقیناً بنیادی اہمیت کی حامل ثابت ہوگی۔
یہ سراسر زیادتی اور نا انصافی ہوگی اگر میں اس طے آن اصحاب کا تذکرہ نہ کروں جنہوں نے اس
کوہ پیمائی میں ہر قدم میری ہمت بندھائی ان حضرات میں علامہ عبدالمعظم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ

فتاری غلام محی الدین پسیلی بھیتی، علامہ حکیم محمود احمد برکاتی، مولانا عبدالحکیم
مشرقی قادری، حکیم اہلسنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری، مولانا جمیل احمد نعیمی، مولانا
وقف الدین پسیلی بھیتی، حکیم محمد احمد خاں (چار سدا)، مولانا فیض احمد چشتی (گولڑہ شریف)، مولانا محمد
شفیع رضوی لاہوری، مولانا باغ علی نسیم، مولانا مشرف الحلیدی، راجا رشید محمود ڈاکٹر محمد اسد
(پسیلی بھیتی)، صاحبزادہ حسن میاں (رامپور)، حافظ افتخار علی خان پسیلی بھیتی، صاحبزادہ غلام رضا
کانپوری نمبرہ مولانا عبدالمطیف سورتی، حافظ بشیر احسن نمبرہ مولانا احمد حسن کانپوری، جناب محمد
یوسف طرب شمس، جناب محمد صادق قصوری کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ برادر
نور احمد شاہ تازہ، عزیز معین احمد صوفی اور عزیز ولی حیدر ڈاکر کی محنتیں اور والدہ صاحبہ کی
دعائیں بھی اس تذکرہ کی تکمیل میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔

اس تذکرہ کی تکمیل پر سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ فرد اپنی شناخت کے مرحلے سے گزر
کر یہ عرفان ذات کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ جب فکر و ذکر ہم آہنگ ہوں تب ہی تشکیک
سے نجات ممکن ہوتی ہے۔ اگر انسان چشم و گوش کو ڈال رکھے تو اس کا یہی رویہ کسی وقت بھی اس کے
لئے نجات نفس کی دلیل بن جاتا ہے اور اکثر یہی بات مریر خاں کو نولے سروش بنا دیتی ہے۔

اس تذکرہ کے بارے میں میں ایک اور بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی تالیف
میں صرف اور صرف معروضی حقائق اور تاریخی سچائیوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ میں نے خود کو عقبتوں
مخصوص فکری اور ذہنی رویوں سے ہالارکھا ہے۔ کسی بھی مقام اور کسی بھی مرحلہ پر اس تذکرے کو غلط بیانی
سناٹا نہیں بے جا اور مسلماتوں سے آلودہ نہیں ہونے دیا کیونکہ میرے نزدیک علماء کی حیات اور ان کے
علم و فکر پر قلم اٹھاتے ہوئے بہت صادق رہنے کی ضرورت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں کوئی
یا غلو کو میں عاقبت میں مذاب سمیٹنے کے مترادف سمجھتا ہوں یہ جملے میں نے اس لئے لکھنا ضروری
سمجھے کہ میرے سامنے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بے بساوت اور غیر نجیب افراد کو تاریخ
کا حصہ بنانے کی خاطر تاریخ کو مسخ کرنا اپنا وطیرہ خاص بنا لیا ہے۔ ان لوگوں نے محترم و مقدس
دینی اور علمی شخصیتوں پر اپنے مخصوص تعصبات سے کام لے کر الزام و اتہام تراشی کا سلسلہ روا
رکھ کر تاریخ میں ذہنی بدکاری کے بغلی دروازے کھول دیے ہیں اور تاریخ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے

جس کی نثر میرے نزدیک سنگساری کے سوا کچھ نہیں۔
 اس تذکرہ کی تکمیل پر میں ایک روشن لمحہ میں کھڑا ہوں لیکن اب بھی طلسم خانہ دنیا آنکھوں کو
 کو خیرہ کر رہا ہے مگر اس تذکرے کی تکمیل وہی حدیث رکھتی ہے جیسے کوئی مسافر تپتے ہوئے صحرا
 میں چلتے چلتے اچانک کسی نخلستان میں نکل آیا ہو۔ اس نخلستان میں بیٹھا ہوا میں سوچ رہا
 ہوں کہ تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی کی خواہش کے مطابق میں حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ
 کے علمی سلسلہ کو توجاری نہ رکھ سکا لیکن اس کو میں نے منتقل فرود کر دیا ہے اور یہی بات میرے
 لئے باوث اطمینان بھی ہے اور مرخروی کا سامان بھی کیونکہ میرے نزدیک انتقالِ علم ہی
 ثباتِ علم ہے۔

خواجہ رضی حیدر

پیلیں بھیت ہاؤس

۲۔ ڈی ۱۶/۵ ناظم آباد۔ کراچی پاکستان

۲۸ فروری ۱۹۸۱ء



خاندانی حالات

پہلے بزرگ کی ہندوستان آمد

مولانا وصی احمد محدث سورتی کے خاندان کے پہلے بزرگ مولانا محمد ابراہیم عہد شاہجہانی میں
 عراق سے بذریعہ کشتی بندرگاہ سورت پر پہنچے۔ سورت ہندوستان کے صوبے گجرات کا ایک ضلع اور نامی گرامی
 شہر ہے۔ اتنا میگلو پٹیا بڑا نیلا کے مطابق یہ شہر کب درجہ میں آیا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ریکارڈ سے
 یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر عہد قدیم سے آباد ہے۔ پہلے اس کا نام سوزج پور یا سوریا پور تھا۔ جو بعد
 میں تبدیل ہو کر سورت ہو گیا۔ ۱۹۲۷ء میں مسلمان سپہ سالار قطب الدین ایبک نے اسے فتح کیا۔

۱۳۴۷ء میں محمد تغلق نے اسے دوبارہ فتح کیا۔ ۱۳۷۳ء میں فیروز شاہ تغلق نے اس شہر کی آباد کاری
 جانب توجہ دی اور ایک قلعہ قائم کیا۔ جو آج بھی موجود ہے۔ منغل حکمران اکبر اعظم۔ جہانگیر اور شاہ جہاں
 کے عہد میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اور سورت نے تجارتی مرکز کا روپ دھار لیا۔ ۱۵۱۲ء
 میں ایک پرتگیزی سیاح ڈیوڈ کوی باربوسا نے سورت کو ایک اہم بندرگاہ قرار دیا۔ جہاں مالابار
 اور دیگر علاقوں سے مسافر اور مال بردار جہاز آیا کرتے تھے۔ سولہویں صدی عیسوی میں پرتگیزی
 بلا شرکت غیرے سورت کی بندرگاہوں کے مالک تھے۔ لیکن ۱۶۶۳ء میں انگریزوں کو اقتدار
 حاصل ہوا۔ جو برصغیر کی آزادی تک برقرار رہا۔ سورت کا رقبہ ۱۶۳۵ مربع میل ہے۔ جبکہ اس کا
 ساحل ۸۰ میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ قیدی تاریخ مولانا ابراہیم کے درودِ مسعود کا صحیح زمانہ معین کرنے
 کے لئے کوئی مصدقہ شہادت موجود نہیں البتہ بعض واقعات و روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا
 محمد ابراہیم شاہ جہاں بادشاہ کے عہد ۱۶۵۷ء تا ۱۶۵۹ء میں عراق سے بغرض تجارت ہندوستان
 تشریف لائے۔ اُس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی بندرگاہ سورت مرجع علم و فن بنی ہوئی
 تھی۔ علمائے مشائخ کی ایک بہت بڑی تعداد عرب و عجم سے ترک مکانی کر کے یہاں سکونت
 پذیر تھی۔ مولانا محمد ابراہیم نے سورت پہنچنے پر شیخ المشائخ محمد فضل اللہ کا تذکرہ سنا جو پیر
 کامل اور عارف باصفا تھے۔ مولانا ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی صحبت کو
 اپنی زندگی بنا لیا۔ مولانا شب اللہ سمرقندی سندھی برہان پوری بھی اس زمانہ میں شیخ محمد فضل
 اللہ کی خدمت میں موجود تھے۔ شاہ جہاں بادشاہ اپنی شاہزادگی کے زمانہ میں شیخ محمد فضل اللہ
 کی زیارت کر چکا تھا۔ بعد میں عبدالرحیم خاناناں کی تحریک پر حبیب مولانا شب علی سمرقندی
 برہان پوری ٹھہرے کی رہائش ترک کر کے دارد گجرات ہوئے تو شاہ جہاں کو ان سے عقیدت
 ہو گئی اور وہ ان دونوں بزرگوں اور اولیائے عصر کی خانقاہوں میں بصد عقیدت حاضری

۱۳۸۸ء - جلد ۲۱ - مطبوعہ ۱۹۷۷ء - تذکرہ علماء اہلسنت
 علامہ محمود احمد قادری - مطبوعہ کانپور ۱۳۹۱ھ

دیتا تھا سائے

شیخ محمد فضل اللہ کی خدمت میں حاضری کے دوران مولانا محمد ابراہیم کے مراسم
 علمائے مشائخ سے استوار ہوئے۔ اور آپ کے علم و فضل میں اضافہ ہوا۔ مولانا محمد ابراہیم
 نے خانقاہی زندگی اختیار کرنے سے کچھ قبل خان خانان عبدالرحیم خان حاکم سورت
 کے یہاں بھی مختلف حیثیتوں میں خدمات انجام دی تھیں۔ لیکن شیخ محمد فضل اللہ کی
 صحبت میں آنے کے بعد آپ کا ملازمت سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اور آپ نے خان خانان
 کی ملازمت ترک کر کے سورت میں ہی کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ چونکہ آپ
 حنفی العقیدہ مسلمان تھے۔ اور حضرت امام ابوحنیفہ بھی کپڑے کی تجارت فرماتے تھے۔
 اس لئے یہ تجارت آپ کے لئے اطمینان کا باعث ہوئی اور آخر وقت تک آپ اور آپ
 کی اولاد اسی تجارت سے منسلک رہی۔ مولانا محمد ابراہیم کے صاحبزادے مولانا محمد قاسم تھے۔
 جن کی شادی سورت سے ملحقہ آبادی رائدیر کے ایک تاجر خاندان میں ہوئی تھی۔ اور آپ
 نے اپنے والد مولانا محمد ابراہیم کی رحلت کے بعد رائدیر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی
 تھی۔ مولانا محمد قاسم نے اسلامی علوم کی تکمیل شیخ محمد فضل اللہ کی خانقاہ میں کی تھی لیکن
 حصول معاش کا ذریعہ علم کو نہیں بنایا۔ بلکہ تمام عمر کپڑے کی ہی تجارت کرتے رہے آپ کے
 صاحبزادے مولانا محمد طاہر نے شیخ محمد بن عبدالرزاق حسینی اچھی سے اور مولانا خیر الدین
 محدث سورتی سے تحصیل علم سورت میں کی۔ آخر عمر میں آپ نے تجارت کے ساتھ درس و تدریس

۱۳۸۸ء - جلد ۲۱ - مطبوعہ ۱۹۷۷ء - تذکرہ علماء اہلسنت
 علامہ محمود احمد قادری - مطبوعہ کانپور ۱۳۹۱ھ

۱۳۸۸ء - جلد ۲۱ - مطبوعہ ۱۹۷۷ء - تذکرہ علماء اہلسنت
 علامہ محمود احمد قادری - مطبوعہ کانپور ۱۳۹۱ھ

کو بطور شغلہ اختیار کیا۔ اور مولانا خیر الدین محدث سورتی کے ہی مدرسہ میں حدیث کی تعلیم دینے لگے۔

رانڈیر کا محل وقوع

رانڈیر سورت کے سامنے پہنے والے دریائے تاپتی کے کنارے آباد قدیم شہر ہے۔ اس شہر کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ شاہجہاں کے عہد میں اس کو خاناناں عبدالرحیم نے فتح کیا تھا۔ اور شاہزادہ اورنگ زیب کو دکن کا جب تمام علاقہ عطا ہوا تو یہ شہر تلنگانہ کا صدر مقام تھا۔ اُس زمانہ میں اس شہر کو رانڈیر کہا جاتا تھا جیسا کہ محمد صالح کنبوہ نے اپنی کتاب عمل صالح (شاہجہاں نامہ) میں تحریر کیا ہے بعد میں اس شہر کا نام اپنی لغات اور تلفظ کے آثار چڑھاؤ کی بنا پر رانڈیر ہو گیا۔ جسے بعد میں رانڈیر کہا جانے لگا۔ مولانا فیح الدین مراد آبادی تلمیذ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی نے بھی جو ۱۲۰۰ھ میں حجاز کو جاتے ہوئے سورت پہنچے تھے۔ اپنے سفر نامہ حرمین میں اس شہر کا قدیم نام رانڈیر تحریر کیا ہے۔ رانڈیر کے قدیم مقابر میں ایک تابعی کی قبر بھی ہے لیکن اس قبر کی جگہ متعین نہیں۔ اس کے علاوہ رانڈیر میں کئی قدیم مقابر ہیں۔ رانڈیر کی مسجد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً نو سو سال پہلے تعمیر ہوئی تھی۔ مولانا فیح الدین مراد آبادی نے لکھا ہے کہ ۱۲۰۰ھ صدی ہجری میں رانڈیر کسی حد تک اجڑ چکا تھا کیونکہ سورت تجارتی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا تھا۔ خصوصاً سورت میں جہاز رانی کا بڑا

بج سے سفر فرما رہے۔ اور شیخ محمد حیات سندھی سے علم حدیث حاصل کیا۔ ۱۲۰۰ھ میں سورت واپس آئے اور پھر تقریباً پچاس سال سورت میں درس حدیث دیا۔ مشہور زمانہ عالم لغوی ادیب مفسر محدث شاہ صوفی علامہ سید رفیعی بلگرامی المتوفی ۱۲۰۰ھ (مدنوں زبیر شام) حجاز کو جاتے ہوئے آپ کے مدرسے میں ٹھہرے تھے۔ اور آپ سے کسب فیض کیا تھا۔ مولانا خیر الدین محدث سورتی کی نقیوت میں شاہد ابوالوئید ایک عمدہ کتاب ہے۔ آپ کا ۱۰ رجب المرجب ۱۲۰۰ھ میں وصال ہوا۔ (ذات قرظ: تذکرہ علماء اہلسنت ص ۲۵۸، حصہ علاء: عمود احمد قادری۔ مطبوعہ لاہور ۱۳۹۱ھ)

مولانا حکیم تازی احمد کی یادداشتیں۔ مملوکہ دلی حیدر ذاکر

دور دورہ تھا۔ چین، فرنگ، عرب، ایران ہر جگہ کے افراد و اشیا رہاں موجود تھیں۔ بارہویں صدی ہجری میں عزت اسلام اور رونق مساجد جو سورت میں دیکھی گئی۔ وہ اس زمانہ میں شاید تمام ہندوستان میں نہ ہوگی۔ غالباً یہ برکات و مجاہدات ہمسایگی حرمین شریفین کی بنا پر سورت کو حاصل تھیں۔ اور اسی بنا پر سورت کو باب مکہ کہا جانے لگا تھا۔ اُن دنوں سورت میں مولانا خیر الدین محدث سورتی مسند علم و فضل پر متمکن تھے۔

مولانا خیر الدین محدث سورتی کے حلقہ درس میں مولانا فیح الدین مراد آبادی نے بعد عقیدت شرکت کی۔ اور نہ حدیث حاصل کی۔ مولانا مراد آبادی اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ مولانا خیر الدین سورتی کی ذات بڑی متبرک اور مخمات روزگار سے ہے۔ اس لئے لوگوں کے لئے اُن کا وجود باعث افتخار ہے۔ بہت سوں نے اُن کی خدمت میں علوم ظاہر و باطن حاصل کئے ہیں۔ ذرا حرمین شریفین کے لئے اُن کی ذات عالی ملجا و ملاذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس قدر عزت عنایت فرمائی ہے کہ شریف مکہ اور تمام حکام دکن تعظیم و توقیر کے ساتھ انکو خط لکھتے ہیں اُن کے مراسلات کو احترام کے ساتھ وصول کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود مولانا پر تواضع و انکسار غالب ہے کہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ہمالوں اور فقرا کے لئے کھانا خود لاتے ہیں۔ محتاجوں کی حاجت روائی کی سعی بلیغ فرماتے ہیں۔ اور بغض نفیس پیارہ یا سوادہ پر اُس شخص کے مکان تک تشریف لجاتے ہیں جس کے ذریعہ سے کسی کی حاجت پوری کرنا ہوتی ہے۔

مولانا خیر الدین محدث سورتی کے دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں۔ مولوی محمد صالح مولوی نظام الدین اور آمنہ بی بی۔ مولانا محمد صالح المعروف قاضی میاں نے تمام علوم و فنون اپنے والد سے حاصل کئے وہ مجتہد محاسن اخلاص و مکام شیم اور اپنے والد کے خلف الصدق تھے اپنے والد کی رحلت تک اپنے والد کے درس میں بطور سامع شریک رہے اور والد کے انتقال

۱۰ مولانا فیح الدین مراد آبادی ص ۱۳۱۔ سفر نامہ حرمین مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۶۱ء
۱۱ مولانا فیح الدین مراد آبادی ص ۱۱۲۔ سفر نامہ حرمین۔

کے بعد خود اس سلسلہ کو آگے بڑھایا۔ مولانا محمد صالح سورت کے امراء میں شمار ہوتے تھے۔ کیونکہ زائرین حرمین شریفین کے لئے سورت سے جدہ تک آپ کی گشتیاں چلتی تھیں۔ مولانا رفیع الدین مراد آبادی کے ساتھ ۱۲۰۰ھ میں اپنی کشتی سفینۃ الرسول میں حج کو گئے۔ اور شیخ محمد حیات سندھی کے برادر زادہ شیخ محمد عابد سندھی کے درس میں شامل ہوئے۔

مولانا خیر الدین محدث سورتی کے دوسرے صاحبزادے مولانا نظام الدین بھی درس و تدریس کے علاوہ جہانزانی کو ذریعہ معاش رکھتے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد مولانا کے مدرسہ میں درس حدیث دینے لگے تھے۔ مولانا خیر الدین کی صاحبزادی آمنہ بی بی کی شادی سورت کے ایک عالم اور عامل مولانا ولی اللہ محدث سورتی کے خاندان میں ہوئی تھی۔ آمنہ بی بی کی لڑکی حلیمہ بی بی تھیں جن کا عقد مولانا محمد ابراہیم کے پوتے، مولانا محمد طاہر کے صاحبزادے مولانا محمد طیب سے ہوا تھا۔ جن کے صاحبزادے مولانا وصی احمد محدث سورتی تھے۔

مولانا محمد طیب سورتی

مولانا محمد ابراہیم کی تین پشتیں سورت و راندیر میں مقیم رہیں لیکن انکی تفصیلات کسی قدر مفقود ہیں۔ صرف روایتوں اور حکایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کے تمام افراد کپڑے کی تجارت اور درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ خصوصاً راندیر میں اس خاندان کو اس کے نسبی علمی تبحر کی بنا پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت مولانا خیر الدین محدث سورتی کی نواسی سے مولانا محمد طیب کا عقد بھی دراصل اسی علم و

مولانا رفیع الدین مراد آبادی ص ۱۹ سفر نامہ حرمین۔

مولانا قاری احمد بی بی بھٹی کی قلمی یادداشتیں۔

فضل کا نتیجہ تھا۔ جو اس خاندان کو راندیر میں حاصل تھا۔ مولانا محمد طیب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا محمد طاہر سے حاصل کی تھی۔ جبکہ حدیث مولانا خیر الدین محدث سورتی کے صاحبزادے مولانا محمد صالح المعروف قاضی میاں سے پڑھی تھی۔ مولانا طیب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مذہبی تحریکات سے متاثر تھے۔ آپ نے سورت کے سنی بواہیر کے عام رواج کے مطابق کاروبار سنبھالنے سے قبل ہی فریضہ حج ادا کیا تھا۔ اور وہاں مکہ معظمہ میں علامہ سید زین العابدین کے درس حدیث میں شرکت کی تھی۔ جو خواجہ ابو یوسف ہمدانی کی اولاد میں سے تھے۔ اور مکہ معظمہ میں درس حدیث دیتے تھے۔ مولانا محمد طیب کی علوم فقہ و حدیث پر بڑی گہری نظر تھی۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر بڑی سختی کے ساتھ کاربند تھے۔ مزاج میں قدرے سختی تھی۔ بے خوف و خطر اظہارِ حق کرتے تھے۔ آپ نے سورت و راندیر میں مقیم بواہیر کے عقائد و اعتقادات کی بھی سختی کے ساتھ گرفت کی۔ اور تصورِ امامت کی نفی کرتے ہوئے تصورِ خلافت کو جائز و درست قرار دیا۔ مولانا محمد طیب نے اصلاحِ رسوم کی جانب بھی توجہ دی اور سنی بوہروں میں جو بدعات شیعہ اسماعیلیہ بوہروں کی قرابت و صحبت کی بنا پر رائج ہو گئی تھیں ان کا رد کیا۔ اور مسلک امام ابو حنیفہ کو عام کیا۔ راندیر میں آپ کا قیام سپاہی واڑے میں تھا۔ اور اسی محلہ کی جامع مسجد میں آپ درس اور جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔

برصغیر میں انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف مولانا محمد طیب کے دل میں شدید نفرت تھی۔ ۱۸۵۶ء کے اواخر میں جب ہندوستان کے مختلف گوشوں سے انگریزوں کے خلاف آوازہ جہاد بلند ہوا تو مولانا طیب نے بھی سورت اور راندیر میں مجاہدین کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانہ میں سورت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایجنٹ گورنر مولانا حکیم قاری احمد کی یادداشتیں۔

قتل وغارتگری کی اطلاعات برابر سورت پہنچ رہی تھیں۔ خصوصاً مسلمان جو ق در جوق
ہندوستان سے ہجرت کر کے جاز، عراق، ایران اور افغانستان جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی
ایک بڑی تعداد دہلی، بریلی، لکھنؤ، میرٹھ اور بدایوں سے فرار ہو کر سورت پہنچی تاکہ یہاں سے
بحری جہازوں کے ذریعہ حجاز مقدس یا دیگر مسلم ممالک کی جانب کوچ کیا جاسکے۔ کیرانہ
میں مجاہدین آزادی کی کمان نامور عالم دین مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے ہاتھ تھی۔ اگست
۱۸۵۷ء کو کیرانہ میں انگریزی فوج سے مجاہدین کا مقابلہ ہوا اور انگریزوں کے بھاری اسلحہ خانہ
کے سامنے مجاہدین کی ایک نہ چلی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے گرفتاری سے بچنے کے لئے
ردپوشی اختیار کر لی۔ تلاش بسیار کے باوجود جب مولانا انگریزوں کے ہاتھ نہ آئے تو انگریزوں
نے ان کو مفروضہ قرار دیکر انکی جائیداد ضبط کر لی اور ان کی گرفتاری پر انعام مقرر کر دیا ڈاکٹر
معین الحق نے لکھا ہے کہ ان حالات میں کیرانہ سے بچ لکھنا مولانا کے لئے بڑا محال تھا مگر آپ نے
آپنا نام تبدیل کر کے ہندوستان چھوڑ دینے کی دل میں ٹھانی اور چچ پور جو دھپور کے خطرناک
ریگستانوں کو عبور کرتے ہوئے سورت پہنچے تاکہ وہاں سے حجاز مقدس کی جانب ہجرت
اختیار کر سکیں۔

مولانا حکیم قاری احمد علی بھٹی نے لکھا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے مولانا
خیر الدین محدث سورتی کے خاندان سے بڑے دیرینہ مراسم تھے۔ اور آپ متعدد بار سفر حج
کے دوران سورت میں مولانا خیر الدین محدث سورتی کی خانقاہ میں قیام فرما چکے تھے
۱۸۵۷ء میں گرفتاری سے بچنے کے لئے جب آپ سورت پہنچے تو یہاں محدث سورتی کی خانقاہ
میں مولانا محمد طیب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم تھے۔ اور حجاز مقدس روانگی کے
تیاری کر رہے تھے۔

لے دی ریووشن آف ۱۸۵۷ء۔ ڈاکٹر معین الحق مطبوعہ پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کراچی۔

مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کی زبانی حالات کا علم ہوا تو مزید لبرداشتہ ہوئے۔ اور مولانا کی
ہمراہی میں ہنایت خاموشی کے ساتھ ایک بادبانی کشتی پر سوار ہو کر حجاز مقدس کی جانب
ہجرت کر گئے۔

مولانا محمد طیب کی وفات۔

مولانا محمد طیب اپنی اہلیہ اور دو صاحبزادوں مولانا وصی احمد اور مولانا عبداللطیف
کے ہمراہ جن کی عمریں اُس وقت بیس اور اٹھارہ سال تھیں صفر المظفر ۱۲۵۳ھ کی آخری
تاریخوں میں جدہ پہنچے یہاں سے آپ مدینہ منورہ اور آپ کے ہمسفر مولانا رحمت اللہ
کیرانوی مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ مولانا محمد طیب نے ماہ ربیع الاول ۱۲۵۳ھ میں رسول پر گزارنے
کے بعد ربیع الثانی میں عراق روانگی کا قصد کیا جہاں سے آپ کے آباد اجداد ہندوستان
پہنچے تھے۔ مولانا طیب کے عراق میں قیام اور دیگر مصروفیات کے بارے میں کسی قسم کی تفصیلات
نہیں ملتی ہیں۔ لیکن روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا محمد طیب نے عراق میں تین سال
سے زائد قیام کیا۔ اور پھر ۱۲۶۱ھ میں حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ پہنچے۔ یہاں
پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ ہندوستان پر برطانوی اقتدار پورے طور پر قائم ہو چکا ہے۔ اور
ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے حج بیت اللہ اور

لے مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے حجاز مقدس پہنچ کر مکہ معظمہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اور بنگال کی
ایک غیر قانونی صورت النساء ریگم کی امداد و اعانت سے ۱۸۷۲ میں ایک مدرسہ قائم کیا اور باقی ماندہ
عمر درسیات و دینی علوم کی ترویج و اشاعت میں بسر کر دی۔ ۲۴ رمضان ۱۳۰۸ھ بمطابق ۲۷ مئی ۱۸۹۱ء
مکہ مکرمہ میں پچھتر سال کی عمر میں وفات پائی۔ مولانا حکیم قاری احمد نے ۱۹۵۳ء میں سفر حج کے دوران مدرسہ
صوفیہ اور مولانا کی آخری آرام گاہ کی زیارت کی تھی۔ جس کا احوال اپنی کتاب مشاہدات حرمین مطبوعہ
کراچی میں تحریر کیا ہے۔

لے مولانا حکیم قاری احمد کی یادداشتیں۔ قلمی ملوک خواجہ رضی حیدر

روضہ رسول کی زیارت سے فارغ ہوا کہ ہندوستان واپسی کا ارادہ کیا۔ مگر عمر عزیز کے دن پورے ہرچکے تھے۔ آپ جدہ پہنچ کر بیمار ہوئے۔ اور جدہ ہی میں مالکِ حقیقی سے جا ملے۔
 مولانا محمد طیب کی اہلیہ اور صاحبزادگان مولانا وصی احمد اور مولانا عبد اللطیف کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ واپس ہندوستان پہنچیں۔ چنانچہ تین افراد پر متل یہ پارو مددگار قافلہ جب سورت کی بندرگاہ پر اترا تو سورت کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ بندرگاہ سے لیکر انتہائے شہر تک ہر طرف انگریزوں کی عملداری تھی۔ رانڈیر میں شیخہ اسماعیلیہ بواہیر کا دور دورہ تھا۔ حقیقی العقیدہ سنی مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ خصوصاً ان افراد کو جنہوں نے ۱۸۵۷ء کے جہادِ آزادی میں حصہ لیا تھا یا مجاہدین کی تائید کی تھی سخت مصائب کا سامنا تھا۔ رانڈیر میں مولانا محمد طیب کی جائیداد و کاروبار ختم ہو کر ضبط کر لیا گیا تھا۔ اس ماحول میں مولانا کے صاحبزادوں اور اہلیہ کے لئے یہاں از سر نوز ہائش اختیار کرنا بڑا مشکل تھا۔ عزیز رشتہ دار، احباب و اقارب سب ہی اپنی جگہ پر خائف اور عدم طمینین کا شکار تھے۔ مسجدیں ویران ہو گئی تھیں۔ مدرسوں پر تالے پڑ گئے تھے۔ علمائے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ اس داماندہ اور تھکے ہارے قافلے نے ایک مرتبہ پھر سورت سے ترک مکانی کی دل میں ٹھانی ابھی کوچ کی تیاری ہو رہی تھی کہ مولانا محمد طیب کی اہلیہ جو تین سال کی در بدری اور ضعیف العمری کے سبب بالکل نڈھال ہو چکی تھیں اچانک اس دارِ فانی سے جلت کر گئیں۔ مولانا وصی احمد اور مولانا عبد اللطیف کے لئے یہ سانحہ بڑا دردناک اور جانگسل تھا لیکن برداشت کیا اور والدہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر دہلی روانہ ہو گئے۔

۱۔ صفحہ قاری ایم اے ۱۔ مہنوں مولانا شاہ وصی احمد محدث سورتی مطبوعہ آئندہ اہلسنت نمبر روزنامہ سعادت لاہور ۲۳ مئی ۱۹۶۹ء۔

مولانا وصی احمد محدث سورتی

زیر نظر تذکرہ کے مرکزی کردار مولانا وصی احمد محدث سورتی کی عملی زندگی کا آغاز سورت سے ہجرت اور دہلی میں قیام سے ہوتا ہے۔ مولانا محمد طیب نے اپنی منہ ہی اور سماجی سرگرمیوں سے کچھ وقت نکال کر اپنے دونوں بیٹوں کو قرآن حکیم کی ابتدائی تعلیم دی تھی۔ کیونکہ یہ دونوں بیٹے جو مولانا طیب کی اولاد میں بڑے تھے۔ اپنے والد کی غیر موجودگی میں کاروبار کی ذمہ داری کو پورا کرتے تھے۔ لیکن علم حاصل کرنے کی لگن دونوں کے دلوں میں ہمیشہ سے موجود تھی۔ چنانچہ سورت سے دہلی کی جانب کوچ اسی لگن کی تکمیل کی جانب پہلا قدم تھا۔ مولانا وصی احمد اور مولانا محمد عبد اللطیف نہایت کسپرسی اور داماندگی کے عالم میں سورت سے روانہ ہوئے تھے۔ دونوں کے دل میں تمام تر مصائب و مشکلات جھیلنے کے باوجود حصول علم اور اللہ کے دین کی سر بلندی کا جذبہ موجزن تھا۔

چنانچہ دہلی بھائی مشاہدات خیر و شر سے بہرہ مند ہوتے ہوئے دہلی کی سمت روانہ ہوئے۔ جہاں علم دین کا غلغلہ اور علمائے دین کی شہرت عام تھی۔ ہر منزل پر فرنگی استبداد کی خبریں مل رہی تھیں۔ مصلحت کو کش مسلمان خطابوں سے نوازے جا رہے تھے۔ اور اعلائے کلمۃ الحق کی سرعام تھی۔ جہادِ آزادی میں حصہ لینے والوں کی تلاش ہنوز جاری تھی۔ خوف و ہراس کا وہ عالم تھا کہ سائے پر بھی دشمن کا گمان گذرتا تھا۔ سکوت و خاموشی پورے ہندوستان کا مقدر بن چکی تھی۔ ایسے میں یہ در عالی نسب مسلسل اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔

وہ جاتے تھے کہ سفر کے رنج و مصائب غرض ہیں۔ اور جو وقت ان کا انتظار کر رہا ہے وہ اپنے دامن میں دائمی شہرت و عزت لئے ہوئے ہے۔ آخر کار دونوں میں حمائل شریف ڈالے اور سورت پر زادِ سفر لئے دونوں بھائی ۱۲۷۷ھ کی ابتدائی تاریخوں میں دہلی پہنچے۔

۱۸۵۷ء کے ہنگاموں میں دہلی اچڑھکی تھی۔ جو پھرے کل تک جدی پشتی و جاہتوں سے گلزار۔ شجرہ نسب کی شکوہ سامانیوں کے آئینہ دار اور علم و فضل کی فراوانی سے وجہ افتخار تھے۔ آج بے برگ و بار اپنے ہی وجود کے لئے باعث ننگ و عار تھے۔ چاندی کی سی عمارتیں جو ہندوستان کا سنگھار تھیں گرد و غبار میں اٹی نلک کچ رفتار سے شکوہ طراز تھیں ہر طرف دیرانی اور بے سرو سامانی کا دور دورہ تھا۔ مگر اس کے باوجود کچھ لوگ علانیہ دنیوی سے کنارہ کش اب بھی خلق خدا کی خدمت کے لئے بلا تکلف زحمت کش تھے۔

حضرت صاحب حصول علم دین کی غرض سے آنے والوں کیلئے اب بھی دہلی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں مولانا دہلی احمد جیب اپنے برادر خورد کے ہمراہ وارد دہلی ہوئے تو وضع قطع نے مسافرت کی گواہی دی۔ لمبے چوڑے قد، کھلتا ہوا گندمی رنگ، چھوٹی چمکدار سیاہ آنکھیں۔ طویل انگر کھے، پاؤں میں کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چیل، سر پر خالص سورتی وضع کا عمامہ۔ غرض کہ ہر چیز ان کے عربی النسل ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔

شجرہ نسب،

مولانا دہلی احمد محدث سورتی کا شجرہ نسب حضرت سہیل بن حنیف سے ملتا ہے۔ اور آپ اپنے نام کے ساتھ حنفی اور حنیفی لکھا کرتے تھے۔ پروفیسر انصار حسین نے لکھا ہے کہ محدث سورتی کا سلسلہ نسب رسول اکرم کے مشہور صحابی حضرت سہیل بن ابن حنیف سے ملتا ہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے باشندے تھے۔ بدر اُحد اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ احد میں ثابت قدم رہے۔ وفات رسول اللہ کے بعد حضرت علیؑ کے ساتھی اور رفیق تھے۔ حضرت علیؑ نے آپ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ اس کے بعد فارس کا گورنر بنایا۔ ۳۸ھ میں کوفہ میں انتقال فرمایا۔

۱۔ اكمال في اسماؤ الرجال ص ۳۶۲۔ ترجمہ مولانا قادی احمد مطبوعہ قرآن محل کراچی



ورود دہلی اور مدرسہ حسین بخش

دہلی پہنچ کر دونوں بھائیوں نے ابتداً مسجد فتحپوری دہلی میں قیام کیا۔ چند روز تک اس اجنبی ماحول اور معاشرت کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے علم دین کی تکمیل کے لئے مدرسہ حسین بخش میں داخلہ لے لیا۔ اور اسی مدرسے کے حجرہ میں قیام کیا۔ مدرسہ حسین بخش غدر کے بعد کی دہلی میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ کیونکہ جہاد آزادی کے

دوران بھی اس مدرسہ میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔

دہلی میں مینیا محل سے جتنی قبر تک چلیں تو اطراف میں متعدد گلیاں ہیں۔ دہلی ہنہ ہاتھ کی طرف کوچہ رکھنا تھا تو اس میں جوہلی بجتا درخان ہے۔ جس میں مدرسہ حسین بخش واقع ہے۔ یہ مدرسہ ایک علم دوست پنجابی سوداگر حسین بخش نے ۱۲۶۸ھ میں تعمیر کرا کر وقف کیا تھا۔ مدرسہ حسین بخش کی پیش طاق پر "داری الہدیٰ والواعظ" تحریر ہے۔ جس سے ۱۲۶۸ھ تاریخ نکلتی ہے۔ مدرسہ میں علاوہ مسجد کے مدرسہ کے لئے دالان اور طلباء و مدرسین کے لئے حجرے بنے ہوئے ہیں۔

مولانا وصی احمد اور مولانا عبداللطیف نے اس مدرسہ میں تقریباً ایک سال قیام کیا۔ اور مختلف علماء و فضلاء سے صرف و نحو، تفسیر و تراجم اور دیگر قرآنی علوم حاصل کئے۔ مولانا وصی احمد کے قیام دہلی کی تفصیلات بھی بڑی حد تک مفقود ہیں۔ پروفیسر انصار حسین، صفیہ قاری اور علامہ محمود احمد قادری نے اپنی تحریروں میں مدرسہ حسین بخش میں ان دونوں بھائیوں کے قیام کا زمانہ صرف ایک سال لکھا ہے۔ مولانا حکیم قاری احمد نے اپنی یادداشتوں میں بھی صرف اسی بیان پر اکتفا کیا ہے اور اس دوران اساتذہ وغیرہ کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیام دہلی کے زمانہ میں مولانا عبداللطیف چھلے پیمانے پر کپڑے کی تجارت کرنے لگے تھے۔ جو دہلی سے روانگی کے وقت ختم کر دی تھی۔

مدرسہ فیض عام

مدرسہ حسین بخش میں مولانا وصی احمد سورتی اور مولانا عبداللطیف زیر تعلیم تھے کہ پورے ہندوستان میں جہاد آزادی کے علمبردار مفتی عنایت احمد کاکوروی اسیر انڈمان کی رہائی کا غلغلہ اٹھا۔ مفتی صاحب ۱۲۸۷ھ کے جہاد آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے تقریباً پانچ

۱۲۸۷ھ آثار انصاریہ مؤلف مر سید احمد خان۔

سال سے کالا پانی کی سزا بھگت رہے تھے۔ یہاں آپ کے ہمراہ حضرت علامہ فضل جعفر آبادی اور حضرت مولانا مفتی مظہر کریم دیا آبادی بھی پابند سلاسل تھے۔ مفتی عنایت احمد نے دہلی سے اسیری اپنے حافظہ کی بنیاد پر سیرت نبویؐ میں تواریخ حبیب اللہ لکھ کر پورے ہندوستان میں اپنی علمیت کا سکہ بٹھار دیا۔ اور داروغہ جیل حافظ ذبیر علی کی کوششوں سے ۱۲۷۷ھ میں رہائی پائی۔ مفتی عنایت احمد نے جو علی گڑھ میں ۱۲۸۵ھ سے قبل درس و تدریس کی مسند پر متمکن تھے۔ رہائی کے بعد کانپور میں مستقل رہائش اختیار کی اور فیض عام کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے علی گڑھ سے اپنے عزیز شاگرد مولانا لطف اللہ علی گڑھی کو بھی اسی مدرسہ میں بلا لیا۔ اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ غدر کے بعد ہندوستان میں یہ پہلا مدرسہ تھا جو نہایت دھوم دھام سے قائم کیا گیا۔

مولانا قاری احمد نے اپنی یادداشتوں میں تحریر کیا ہے کہ اس مدرسہ کے لئے سرمایہ کانپور کے ایک رئیس عبدالرحمن خان مالک مطبوع نظامی نے فراہم کیا تھا۔ چنانچہ اس مدرسہ کے افتتاح کے لئے عبدالرحمن خان نے مفتی عنایت احمد سے مشورہ کر کے اپنے پیرو مرشد حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کو کانپور آنے کی دعوت دی، یہی وجہ ہے کہ مدرسہ فیض عام سے مولانا گنج مراد آبادی کا تعلق آخر وقت تک قائم رہا اور آپ کی ذات سے مدرسہ کو خصوصی فیض پہنچا رہا۔ مولانا عبدالطیف نے بریلوی نے لکھا ہے کہ مولانا کاکوروی نے عبدالرحمن خان مالک مطبوع نظامی کی دعوت پر مدرسہ فیض عام قائم کیا اور تین سال تک یہاں درس دیتے رہے۔

مولانا وصی احمد اور مولانا عبداللطیف نے جب مدرسہ فیض عام کا تذکرہ سنا تو وہ مدرسہ حسین بخش سے کانپور پہنچے اور مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے درس میں شامل ہو گئے

۱۲۸۷ھ - تذکرہ مینا ہنز کا کوروی۔ مطبوع اصح المطابع لکھنؤ ۱۹۲۴ھ

۱۲۸۷ھ - تذکرہ مینا ہنز کا کوروی۔ مولانا عبدالطیف جلد ۱

یہ سلسلہ ۱۲۴۹ء کا ذکر ہے اس زمانہ میں آپ کے ہمدرس طلبہ میں پہلی بھیت کے حکیم خلیل الرحمن خاں اور پٹیالہ کے مولانا احمد حسن کانپوری بھی شامل تھے۔

مولانا وصی احمد نے اپنے بھائی کے ساتھ مدرسہ فیض عام میں تقریباً سات سال تک مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے مختلف علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی اس دوران یعنی ۱۲۴۹ء میں مولانا مفتی عنایت احمد کا کوروی صفر جج کے دوران جہاڑ ایک چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے مغزین و شہید ہو گئے۔ چنانچہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے مولانا محمد علی کانپوری شہ مونیگری کو مدرسہ میں نائب مدرس مقرر کیا۔ مولانا محمد علی مونیگری اور مولانا وصی احمد کے درمیان تعلقات کا آغاز اسی مدرسہ سے ہوا تھا۔ اور مولانا وصی احمد مدرسہ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مولانا محمد علی کانپوری کو اساتذہ میں شمار کرتے تھے۔

استاذ العلماء مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی۔

مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی ولد شیخ اسد اللہ ۱۲۲۷ھ بمطابق ۱۸۲۸ء میں موضع پلکنے میں پیدا ہوئے سابتائی فارسی کتابیں میاں جی موہن لال اور مولوی محمد عظیم اللہ سے پڑھیں نیز مولوی حفیظ اللہ خاں سے خطاطی سیکھی۔ اپنے خسر مولوی رونق علی سے فارسی کی چند کتابیں پڑھیں اور پندرہ برس کی عمر میں علی گڑھ کے مفتی اور منصف مفتی عنایت احمد کانپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصے بعد مفتی عنایت احمد کا تبادلہ بحیثیت صدر امین علی گڑھ سے بریلی ہو گیا۔ چنانچہ مولوی لطف اللہ نے بھی بریلی کا سفر اختیار کیا۔ اور جملہ کتب درسیہ کی تکمیل سے فراغت حاصل کی۔ مفتی عنایت احمد نے شاگرد کی لیاقت و صلاحیت سے متاثر ہو کر مولانا لطف اللہ کو اپنے ہی اجلاس کا سر مشہ دار مقرر کر لیا۔ لیکن ۱۸۵۴ء کی تحریک آزادی میں مفتی عنایت احمد گرفتار کر لئے گئے۔ اور مولانا لطف اللہ علی گڑھی بریلی کی سکونت ترک کر کے دوبارہ علی گڑھ آ گئے جہاں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور

یہ سلسلہ ۱۲۴۴ء میں مفتی عنایت احمد کی رہائی تک جاری رہا۔ مفتی عنایت احمد نے رہائی پا کر اپنے مدرسہ فیض عام میں مولانا لطف اللہ کو نائب مدرس مقرر کیا اور ۱۲۴۹ء میں مفتی عنایت احمد کے مغزین و شہید ہونے کے بعد آپ اسی مدرسہ کے صدر مدرس اول مقرر ہوئے اور تقریباً سات سال تک اس حیثیت میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے ۱۲۸۵ء میں آپ کانپور کی سکونت ترک کر کے علی گڑھ لوٹ آئے اور یہاں درس و تدریس کا آغاز کیا۔ یہاں فیض درس ۱۲۸۵ء سے ۱۳۱۳ء تک مسلسل جاری رہا اس دوران پورے برصغیر میں تقلید و عدم تقلید کی بحث جاری تھی۔ مباحث پر مبنی رسالے اور فتوے جاری کیے جا رہے تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی غالی حنفی تھے اور تقلید ائمہ اربعہ کو ملت مسلمہ کے لئے ضروری سمجھتے تھے۔ آپ نے بھی اس بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقلید کی حمایت میں کئی رسالے تحریر کئے۔ اور متعدد فتاویٰ پر تصدیقی مواہب شریعت کیں۔ علی گڑھ میں عدم تقلید کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی چنانچہ آپ کو کسی نے زہر دید یا اگرچہ آپ اس حادثہ جان کاہ سے جانبر ہو گئے۔ مگر علی گڑھ سے آپ کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ دس و تالیس کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لئے منقطع ہو گیا۔ اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ بعد میں نواب حیدر آباد دکن کو جب اس سانحہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپ کو حیدر آباد بلا بھیجا۔ اور ریاست میں آپ کو مفتی کے عہدے پر فائز کیا۔ اور اسی حیثیت میں ۸ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔

مولانا فیض احمد فیض نے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی سوانح "مہر منیر" میں لکھا ہے کہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے ابتداً کانپور اور پھر علی گڑھ میں علوم دینیہ کی اشاعت کے سلسلے میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ ہندوستان کی علمی دنیا نے ان کا "استاذ العلماء" کے خطاب سے اعتراف کیا۔ اس دور کے نامور علماء برہن میں شاید ہی کوئی ایسا ہو گا جس نے استاذ العلماء کے گلشنِ علم سے فیض حاصل کیا نہ ہو۔ اس وقت مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی شاگردی فضل و کمال

کی سب سے بڑی سند شمار ہوتی تھی۔ حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی علمائے دین کا نمونہ اور زہد و تقویٰ اور خدا پرستی کا پیکر تھے۔ طبیعت بے حد مرعیاں مریخ پائی تھی۔ علماء ہم عصر کے ساتھ بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود آپ نے ان کے خلاف کبھی تعصب و تشدد کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ کی معقولیت کیلئے یہی سند کافی ہے کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں مکاتب فکر کے علماء کے دل میں آپ کا بے حد احترام ہے۔ ان ہی پاک منش بزرگان دین کے انفاس قدسیہ کی برکت تھی کہ ایسے نازک دور میں جبکہ حکومت برطانیہ اور اس کے ہواہ خواہ ہندوستان میں علوم اسلامیہ کو ختم کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ مدارس اسلامیہ کا وجود باقی رہا اور علوم دین کے سرچشمے جاری رہے۔

مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی وفات پر ہر طبقہ فکر کے علماء نے اظہارِ رنج و غم کیا اخبارات و رسائل نے تعزیتی مضامین شائع کئے۔ علامہ شبلی نعمانی کے جانشین مولانا سید سلیمان ندوی نے جو اس زمانہ میں ماہنامہ مدارف اعظم گڑھ کے مدیرِ اعلیٰ تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی پر ایک تعزیتی نوبٹ 'فاجعہ علمیہ' کے عنوان سے لکھا۔ جو مولانا کی حیات و خدمات پر ایک جامع مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ: 'قدیم عربی مدارس کے دور دیوار اگرچہ ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے روز بروز بلند ہوتے جاتے ہیں لیکن جھک کر دیکھتے ہیں تو سنگ بنیاد تزلزل نظر آتا ہے۔ ہماری قدیم تعلیم و تربیت کی جو یادگاریں ان مدارس کی ساس تھیں ایک ایک کر کے مٹ گئیں۔ ایک مولوی لطف اللہ علی گڑھی رہ گئے تھے لیکن صرف خزانے پہلوی انجن کے اس چراغ کو بھی گل کر دیا۔ مولوی لطف اللہ میں قدیم تعلیم و تربیت کی تمام خصوصیات باکمال و جوہ موجود تھیں۔ علم، اخلاق اور قدیم تعلیم و تربیت کا مایہ خمیر تھا۔ امدان ہی محاسن کی وجہ سے ہمارے علماء و قوم میں عزت و سوز و اثر پیدا کرتے ہیں۔ مولوی لطف اللہ کی ذات میں نہ صرف یہ محاسن جمع ہو گئے تھے۔ بلکہ وہ ان اوصاف میں عموماً اپنے اقربان و مماثل میں ممتاز خیال کئے جاتے تھے۔ اشاعت

مولانا فیض احمد فیض ص ۴۵-۴۴۔ مہر مینر۔ مطبوعہ گولڑہ شریف۔ اول پبلیکیشن ۱۹۴۲ء

علم خالصتاً لرجہ اللہ ہمارے علماء کا تمغہ امتیاز رہا ہے اور مولوی لطف اللہ مرحوم نے اپنی عمر کا ایک حصہ اس نیک کام میں صرف کیا۔ ہندوستان میں آج جب قدر علمی سلسلے قائم ہیں جو علماء آج مسند نشین درس و تدریس ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں جنہوں نے مولوی لطف اللہ کے خرم فیض سے خوشہ چینی کی ہے۔

مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے ندوۃ العلماء کے تیار ہیں بھی ضعیف العمری کے باوجود حصہ لیا۔ اور جب ندوۃ العلماء میں غیر حنفی افراد کی شمولیت پر علماء کے درمیان تنازعہ پیدا ہوا تو آپ نے اس تنازعہ کو رفع کرنے کی حتی الوسع کوشش کی۔ اس ضمن میں آپ کو غمی گفتروں کا بھی سامنا کرنا پڑا مولانا اخصاص ہوائی نے ایک رسالہ 'حادثہ جانکاہ مفتی لطف اللہ کے تاریخی عنوان سے ۱۳۱۳ھ میں تحریر کیا جس میں مولانا لطف اللہ سے ان کے فقہی موقف کے بارے میں جواب طلب کیا گیا تھا۔

مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے تلامذہ میں جن علماء نے دائمی شہرت اختیار کی ان کے نام یہ ہیں۔ مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا محمد علی مونگیری، پیر سید محمد علی شاہ گولڑوی، مولانا شبلی نعمانی، مولانا وصی احمد محدث سورتی، مولانا عبدالمطین دہلوی، مولانا عبد الغنی کانپوری، مولانا ظہور الاسلام فتح پوری، مولانا عبد اللہ ٹونکی، مولانا حافظ عبدالقدوس کیمبل پوری، مولوی حکیم خلیل الرحمن خان پیلو بھٹی، مولانا نواز محمد سنجالی، مولانا ابو سعید رحمانی فتح پوری، مولانا سید احمد اشرف کچھوچھوی، مولانا حافظ کریم بخش برکاتی علی گڑھی، نواب حبیب الرحمن خان شیروانی۔

زمانہ طالب علمی میں مفتی لطف اللہ علی گڑھی دیگر طلباء کے علاوہ مولانا وصی احمد پر خاص توجہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم درس طلباء میں مولانا وصی احمد کی ذہانت اور فراست عام تھی۔ تنجیدگی اور بردباری مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سادگی اور قناعت شیعہ تھا۔ ہر معاملہ میں علمی نکتے نکالنا اور ہر مسئلہ کو ایک خاص نقطہ نظر سے پرکھنا آپ کا معمول تھا۔ مطالعہ کا اس قدر شوق تھا

۱۔ ماہنامہ مدارف اعظم گڑھ ماہ ذی الحجہ ۱۳۲۲ھ بمطابق اکتوبر ۱۹۰۶ء
۲۔ حادثہ جانکاہ مفتی لطف اللہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی ص ۴۵-۴۴

کہ ایک ایک کتاب کو کئی کئی مرتبہ پڑھتے حتیٰ کہ وہ حفظ ہو جاتا کرتی تھی۔ حدیث و فقہ کی اکثر کتب درسیہ آپ کو ذہانی یاد تھیں۔ محدثین کے سلسلے از بر تھے۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی نے مفتی لطف اللہ علیگرہی سے درسیات کی تکمیل تین سال کی مختصر مدت میں کر لی تھی۔ لیکن بعد میں مولانا محمد علی مرنگیری کے درس میں شامل ہو گئے اور ادبیات کی تکمیل کی۔ اس دوران مفتی لطف اللہ اپنے آبائی شہر علی گڑھ روانہ ہو گئے اور مولانا احمد حسن کانپوری کو جو تکمیل علوم کر چکے تھے۔ مدرسہ فیض عام میں نائب مدرس مقرر کر دیا گیا۔ مولانا وصی احمد بالخاصہ ظاہر دیگر طلبہ سے بڑے تھے۔ اس لئے آپ کا زیادہ تر وقت اپنے استاد مولانا محمد علی مرنگیری اور مولانا احمد حسن کی صحبت میں گذرتا تھا۔



گنج مراد آباد روانگی۔

مولانا وصی احمد کے برادر خورد مولانا عبداللطیف نے تکمیل تعلیم کے بعد کانپور میں لکڑی کی تجارت شروع کر دی تھی۔ یہ تجارت ان کیلئے بڑی سود مند ثابت ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے مولانا وصی احمد سے عمر میں دو سال چھوٹے ہونے کے باوجود مولانا وصی احمد کے تمام اخراجات برداشت کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور ان کی کیوں کے ساتھ حصول علم میں مشغول رہنے دیا۔
مولانا وصی احمد نے مدرسہ فیض عام سے ۱۹۰۶ء میں تمام علوم و فنون سے فراغت پا کر

اور دوسرا عقد فرمایا۔ مجاہد سے اور ریاضت سے آپ کو حد درجہ شغف تھا۔ چنانچہ زندگی کا بیشتر حصہ اپنی مخالفاہ میں بسر کیا۔ جہاد آزادی ۱۸۵۷ء کے وقت آپ کی عمر ۶۰ سال تھی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی سوانح قاسمی میں مولانا حبیب الرحمن خان شیمڑانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انگریزوں سے جہاد کرنے والوں میں شاہ صاحب بھی شامل تھے۔ مگر ایک دن لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور مجاہدین کے سپہ سالار سے فرمایا کہ لڑنے سے کیا حاصل ہوگا میں تو خضر کو انگریزوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں۔

حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کو علم حدیث سے خصوصی شغف تھا اور معقولات کے شدید مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے ارادت رکھنے والوں نے علم حدیث کے فروغ کی جانب زیادہ توجہ دی۔ مولانا محمد علی مونگیری اپنی کتاب ارشاد رحمانی میں لکھتے ہیں کہ:-

طالب علمی کے زمانہ میں جب میری ملاقات شاہ فضل رحمن سے ہوئی تو مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم کیا پڑھتے ہو۔ میں نے کہا کہ قاضی مبارک۔ ارشاد ہوا استغفر اللہ۔ لغو باللہ قاضی مبارک پڑھتے ہو۔ اس سے کیا حاصل۔ ہم نے فرض کیا کہ منطق پڑھ کر قاضی مبارک کے مثل ہو گئے۔ پھر کیا۔ قاضی مبارک کی قبر پر دیکھو کیا حال ہے۔ کوئی ناکھ پڑھنے والا بھی نہیں اور ایک بے علم کی قبر پر جاؤ جس کو خدا سے نسبت تھی اس پر کیسے الزام و برکات ہیں۔

اسی طرح ایک مرتبہ جب استاذ العلماء مولانا احمد حسن کانپوری آپ کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ تو آپ نے حسب عادت دریافت کیا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ مولانا کانپوری نے سب علوم کا نام لیا۔ اور معقولات کی زیادہ کتابیں بتائیں۔ شاہ صاحب نے معقولات پڑھنے اور پڑھانے کی بہت ہجو کی۔ اور فرمایا کہ منطق زیادہ پڑھنے اور پڑھانے سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث و فقہ زیادہ پڑھا کرو۔ مولانا حکیم قاری احمد علی بھٹی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا

۱۔ سوانح قاسمی۔ مناظر حسن گیلانی مطبوعہ دارالعلوم دیوبند ۱۳۴۲ھ
۲۔ ارشاد رحمان ص ۱۳۵۔ مولانا محمد علی مونگیری مطبوعہ دیوبند ۱۳۰۵ھ

ہے کہ مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی فرماتے تھے کہ حدیث کے مطالعہ سے انبیاء اور اولیاء کے قلوب کے الزام و برکات جو اس میں ہیں قلب پر اثر کرتے ہیں مطالعہ حدیث سے استغفار اور خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے اور خلقِ خدا کی رہنمائی میں مدد ملتی ہے جبکہ معقولات کے مطالعہ سے کلماتِ کفریہ زبان سے نکلنے ہیں۔ نفس موٹا پڑتا ہے اور کدورت پروان چڑھتی ہے۔

حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی صحیح ستم موطا امام مالک اور حصن حصین پڑھانے پر خاص قدرت رکھتے تھے۔ آپ سے جن علماء نے درس حدیث لیا ان میں مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی، مولانا محمد علی مونگیری، مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا اشرف علی بخاری، مولانا دہی احمد سواتی، مولانا ظہور الاسلام فتح پوری، مولانا دیدار علی الہوی، اور پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان علماء نے درس حدیث کو بطور مشن اختیار کیا مگر بہ نظر غائر ہندوستان میں علم حدیث کے فروغ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان ہی علماء سے فیض یافتہ افراد کے دم قدم سے آج تک علم حدیث کی شمع برصغیر پاک و ہند میں روشن ہے۔ حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی درس حدیث کے سلسلے میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے ہمیشہ مداح رہے اور آپ اکثر و بیشتر اپنے حلقہ ارادت کے علماء کو مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کی خدمت عالیہ میں دورہ حدیث کی تکمیل کے لئے بھیجتے تھے شاہ صاحب جہادِ باطنی اور علم و عرفان کی شہرت ایسی عام تھی کہ لوگ دور و نزدیک سے جوق در جوق آپ کی زیارت کے لئے گنج مراد آباد پہنچا کرتے تھے۔ تذکرہ علماء ہند کے مصنف مولانا رحمان علی لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا کے اوصاف حمیدہ اور خصائص پسندیدہ ایسے نہیں ہیں کہ زبان بریدہ قلم بے بنیاد کاغذ پر ان میں سے تھوڑے بھی لکھ سکے۔ اور انسان ضعیف البیان کی کیا مجال ہے کہ ان کا عشر عشر بیان کر سکے۔

مولانا رحمان علی ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۳ھ بمطابق ۱۸۸۳ء میں اپنے وطن مالوٹ سے ملاقات

۱۔ مولانا قاری احمد کی قلمی یادداشتیں۔
۲۔ تذکرہ علماء ہند ص ۳۴۹۔ مولانا رحمان علی (ترجمہ) مطبوعہ ہزار لیکل سوسائٹی پاکستان کراچی ۱۹۶۱ء

کی عرض سے کانپور تک گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ نادو سے مراد بادنک بارش کی وجہ سے سخت
 طغیانی ہے اور گاڑی یا پالکی وغیرہ کی سواری کا پار کرنا سخت دشوار تھا۔ چنانچہ انسرودہ و ملول
 واپس لوٹ گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی حضرت کی دو مرتبہ زیارت کی اور کچھ دن گنج
 مراد آباد میں قیام کر کے حضرت سے حصن حصین پڑھنے کی اجازت حاصل کی۔ مولانا تھانوی نے
 ان ملاقاتوں کا احوال اپنی کتاب ادوایح ثلاثہ میں تحریر کیا ہے۔ حضرت شاہ مانا میاں قادری حشتی
 پہلی بھیتی (نیسرہ حضرت محدث سورتی) نے اپنی کتاب سوانح حیات اعلیٰ حضرت بریلوی میں لکھا
 ہے کہ عظیم البرکت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی ^{۱۳۱۲ھ} میں پہلی مرتبہ حضرت مولانا
 فضل رحمن گنج مراد آبادی کی زیارت کے لئے گنج مراد آباد تشریف لے گئے تھے اس سفر میں آپ کے
 ہمراہ مولانا وصی احمد محدث سورتی، مولوی حکیم خلیل الرحمن خان تلمیذ مولوی لطف اللہ علی گڑھی
 تاضی خلیل الدین حسن رحمانی، المعروف حافظ پہلی بھیتی، اور استاد الزمن مولانا احمد حسن کانپوری
 شامل تھے۔ اس زمانہ میں ریل گنج مراد آباد کے لئے بہنیں چلی تھی۔ ہر دوئی، اناؤ یا بالامیو سے لوگ
 بیل گاڑی میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنے احباب کے ساتھ بالامیو اسٹیشن سے بیل گاڑی
 کے ذریعہ گنج مراد آباد تشریف لے گئے۔ حضرت شاہ فضل رحمن کو آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی
 تھی۔ لہذا آپ نے مریدین کے ساتھ قبضہ سے باہر تشریف لاکر اعلیٰ حضرت کو خوش آمدید کہا۔
 تین دن سے زائد اعلیٰ حضرت گنج مراد آباد میں مقیم رہے۔ اس ملاقات کا تذکرہ شاہ فضل
 رحمن کے موجودہ سجادہ نشین مولانا افضل الرحمن نے اپنی تالیف "انفال رحمانی" میں بھی کیا
 ہے۔ اور ملاقات کی تاریخ ۲۹ رمضان المبارک ^{۱۲۹۲ھ} بیان کی ہے۔ مولانا محمود احمد قادری
 نے اپنی تالیف "تذکرہ علماء اہلسنت" میں اعلیٰ حضرت اور شاہ صاحب کی ملاقات کی تاریخ ^{۱۳۱۲ھ}
 تحریر کی ہے جو غلط ہے کیونکہ شاہ صاحب کا ^{۱۳۱۳ھ} میں وصال ہو چکا تھا۔ عرض کہ شاہ فضل رحمن
 گنج مراد آبادی کی ذات گرامی منبع فیض و ہدایت تھی اور آپ کے تمام معاصر علماء و اکابر آپ کی
 زیارت و صحبت سے مستفیض ہوئے۔ حضرت شاہ فضل رحمن کا قاعدہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص

۱۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ^{۱۵۴}۔ شاہ مانا میاں پہلی بھیتی۔ مطبوعہ کراچی ^{۱۳۹}۔

آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو پہلے اس کے لئے دعائے خیر فرماتے بعد میں اس کی آمد کا مقصد
 دریافت فرماتے۔ آپ کی دعا مقبول باری تعالیٰ اپنی تھی اور اکثر لوگوں کی حاجتیں پوری ہو
 جایا کرتی تھیں۔

شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کا وصال ۲۲ ربیع الاول ^{۱۳۱۳ھ} میں تقریباً ۱۰۵ سال
 کی عمر میں ہوا۔ گنج مراد آباد میں آپ کا مزار آج بھی مرجع عقیدت ہے اور ہر سال عرس منعقد ہوتا
 ہے۔ جس میں دور دراز سے ہزاروں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ فضل رحمن
 کے خلفا میں ممتاز اسمائے گرامی یہ ہیں۔ مولانا عبد الکریم گنج مراد آبادی، مولانا محمد علی موئگی،
 مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی، مولانا وصی احمد محدث سورتی، مولانا ابوسعید رحمانی فتح پور ہسودہ،
 مولانا ابراہیم رحمانی رئیس اعظم مراد آباد، حضرت مولانا قادر علی رامپوری، عبد المجید مولانا ہدایت
 رسول رامپوری۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، مولانا دیدار علی محدث الوردی لاہوری،
 مولانا ظہور الاسلام فتحپوری، مولانا جمیل حسین بہاری،

حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی نے مولانا وصی احمد کی غیر معمولی لیاقت اور خصوصاً
 علم حدیث اور اصول فقہ پر متاثر کن دسترس کے پیش نظر آپ کو اپنے درس میں شامل کر لیا۔
 بلکہ نئے طلبہ کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کی۔ اس وقت شاہ فضل رحمن کے حلقہ درس
 میں مولانا عبد الکریم جالندھری اور فتح پور ہسودہ کے مولانا سید ابوسعید رحمانی وغیرہم شامل تھے۔
 مولانا وصی احمد نے شاہ صاحب سے حصن حصین پڑھنا شروع کی۔ شاید اس کی ایک وجہ
 یہ ہو کہ ^{۱۸۵۷} کے جہاد آزادی کے بعد شاہ فضل رحمن کسی حد تک گوشہ نشین ہو گئے تھے۔
 اور وہ ذوالف آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس زمانہ میں جو طالب علم آپ کی زیارت اور کتاب
 فیض کے لئے حاضر ہوتے۔ آپ ان کو حصن حصین کے دو چار سبق پڑھا کر اور اور ذوالف
 کی اجازت عطا فرما کر رخصت کر دیتے تھے۔ مولانا وصی احمد میں چونکہ ایک اعلیٰ محدث اور
 مدرس کی تمام صفات موجود تھیں۔ اس لئے شاہ صاحب نے آپ کو حصن حصین کی تمام دعائیں
 صرف پڑھائیں بلکہ ان کے پڑھانے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ شاہ فضل رحمن چونکہ صاحب

کشف بزرگ تھے۔ اس لئے آپ نے مولانا وصی احمد میں چھپا ہوا مستقبل کا ایک عالم دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ آپ مولانا وصی احمد پر خصوصی عنایت فرماتے اور دیگر طالب علموں سے کہتے کہ ان کی عزت کرو یہ ہندوستان میں فرمان رسول مقبول کے محافظ قرار پائیں گے مولانا وصی احمد جب حصین کے درکس سے فارغ ہوئے تو شاہ فضل رحمن نے آپ کو خلافت عطا کی اور فرمایا کہ علم کے اظہار میں کبھی بخل نہ کرنا اور حق بات چلے اپنے اور دوسروں کے حق میں کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو براہ الناس کی فلاح کے لئے عام کرنا۔

حصین حصین ہمیشہ علماء اور صوفیہ کے معمولات میں مدہی ہے اور اس کی پراثر دعاؤں سے وہ فیض اٹھاتے رہے ہیں۔ مولانا وصی احمد نے صاحب حصین حصین محدث اعظم علامہ محمد ابن جزری متوفی ۸۳۳ھ پر تحفہ حنفیہ مطبوعہ عظیم آباد میں ایک مقالہ تحریر فرمایا جس میں آپ نے لکھا کہ حصین حصین کے واسطے سے میری ایک بہت بڑی مشکل حل ہوئی۔ جبکہ میری کتاب التعلیق الجلی کا مسودہ گم ہو گیا اور میں اس کی تلاش و فکر میں بھوک و پیاس سے بیگانہ ہو چکا تھا کہ اچانک خیال آیا اور میں حصین حصین کو ہاتھوں میں اٹھا کر دعا میں مصروف ہو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے لئے مسجد میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ محراب میں التعلیق الجلی کا مسودہ کپڑے میں لپیٹا ہوا رکھ ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد اپنا معمول بنالیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو میں اس مبارک کتاب کو واسطہ بنا تا۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی نے مجھے حصین حصین کے ورد کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو شخص بعد الجمعہ حصین حصین کو شروع کرے گا اور جمعرات کے دن بعد العصر ختم کرے گا وہ ہمیشہ ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے گا۔ خلق اللہ میں محبوب رہے گا اور اس کی جملہ حاجات پوری ہوتی رہیں گی۔ اور یہ وہ مبارک و مجرب طریقہ ہے جس کی تلقین و اجازت مجھے میرے نامور مربی و مرشد شاہ آفاق دہلوی نے عطا فرمائی تھی۔

۱۔ مولانا قاری احمد کی قلمی یادداشتیں۔

۲۔ مقدمہ حصین حصین ص ۳۹ خزیر مولانا حکیم قاری احمد جلی بمبئی مطبوعہ کلام کہنی کراچی ۱۹۶۶ء



مدرسہ فیض عام سے وابستگی

مولانا وصی احمد تقریباً ایک سال حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کی خدمت میں حاضر رہنے کے بعد ۱۹۸۸ء کے اوائل میں کانپور پہنچے۔ مولانا محمد علی مونگیری اور مولانا احمد حسن کانپوری نے جو مدرسہ فیض عام کے صدر مدرس اور منتظم اعلیٰ تھے اور مولانا وصی احمد کی لیاقت کے ہمیشہ سے مداح تھے۔ فوری طور پر آپ کو مدرسہ فیض عام میں باقاعدہ مدرس مقرر کر دیا۔ مولانا محمد علی مونگیری نے آپ کو دارالافتاء کی ذمہ داری بھی سپرد کی کیونکہ

مولانا خود بیک وقت یتیم خانہ داریاں پوری کرنے سے قاصر تھے۔ مولانا وصی احمد کی مہر سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے ۱۲۸۸ھ میں فتویٰ نویسی کا آغاز کیا کیونکہ اس مہر پر ۱۲۸۸ھ لکھا ہے۔

مولانا وصی احمد نے تقریباً آٹھ سال تک مدرسہ فیض عام میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس دوران آپ نے احادیث اور فقہ کی کتب کا بغور مطالعہ کیا اور لسانی شریف کا حاشیہ تحریر کرنا شروع کیا جو تقریباً ۱۲۹۳ھ میں مکمل ہوا۔ مدرسہ فیض عام میں درس و تدریس کے دوران آپ کے ممتاز تلامذہ میں مولانا عبید اللہ کانپوری، مولانا عبدالرزاق کانپوری، اور مولانا حکیم مومن سجاد وغیرہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ محدث سورتی کے برادر خور مولانا عبداللطیف تکمیل علوم کے بعد پورے طور پر تجارت کی جانب راغب ہو گئے تھے اور حکیم خلیل الرحمن کے مشورہ سے روہیلکھنڈ کے ایک ضلع پہلی بھیت میں جو بہت استجنگلات کی بنا پر ہندوستان میں مشہور تھا۔ مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ مدرسہ فیض عام میں تقرر کے دوران مولانا وصی احمد اکثر و بیشتر پہلی بھیت تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جہاں آپ کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔



لکھنؤ روانگی

مدرسہ فیض عام میں ملازمت کے دوران ہی مولانا وصی احمد نے علم طب کے حصول کی جانب توجہ فرمائی۔ اور لکھنؤ جبرائیل ٹولہ کے معروف طبیب حکیم عبدالعزیز کی کتابوں سے استفادہ شروع کیا۔ ابتدا میں تو حکیم عبدالعزیز سے مولانا وصی احمد بذریعہ خط و کتابت معلومات حاصل کرتے رہے۔ لیکن جب حکیم عبدالعزیز نے مولانا کی رغبت کا اندازہ لگایا تو لکھنؤ طلب کر لیا۔ جہاں مولانا وصی احمد نے تقریباً چھ ماہ حکیم عبدالعزیز کے نائب کی حیثیت سے ان کے مطب میں خدمات انجام

دی۔ اور سند حاصل کر کے واپس کا پورا آگئے۔ پہلی بھیت کے حکیم خلیل الرحمن نے بھی حکیم عبدالعزیز سے تعلیم حاصل کی تھی۔ حکیم عبدالعزیز نہایت خلیق اور پابند شریعت بزرگ تھے۔ آپ کا شمار لکھنؤ کے نامی گرامی اطباء میں ہوتا تھا۔ آپ نے ۱۹۰۲ء میں لکھنؤ میں تکمیل الطب کا بیچ قائم کیا اور ۱۳۲۹ھ میں انتقال کیا۔

مولانا وصی احمد محدث سورتی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفاعت فرمائی تھی۔ میرٹھ میں دو دروازے آپ کو منظور لکھے اور مرض کی نوعیت بیان کر کے نسخہ منگوانے کے حکیم مقصود حسن خان پہلی بھیتی (سورتی) ۳۱ اکتوبر ۱۹۶۵ء) فرمایا کرتے تھے کہ محدث سورتی کے کتب خانہ میں حدیث و فقہ کے علاوہ علم طب پر تقریباً ایک ہزار نادر و نایاب کتابیں تھیں جو آپ نے برسوں کی تلاش و جستجو کے بعد جمع کی تھیں۔ ان کتابوں میں چند نسخے عمدہ منعلیہ سے قبل ہندوستان میں شائع ہوئے تھے۔ جن کو عربی سے فارسی میں ترجمہ کرایا گیا تھا یہ کتب خانہ تقسیم ہند تک پہلی بھیت میں موجود تھا۔ لیکن بعد میں ہنگاموں اور افراتفری کی نذر ہو گیا کچھ کتابیں پہلی بھیت کے متعدد حضرات کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ شاہ مانا میاں قادری چشتی پہلی بھیتی خیمہ حضرت محدث سورتی نے کچھ کتابیں اپنے برادر خور و مولانا حکیم قادری احمد پہلی بھیتی کو ارسال کر دی تھیں۔ جو مولانا کے کتب خانے میں بحفاظت موجود ہیں۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی اور حکیم عبدالعزیز کے درمیان استاد شاگردی کے رشتہ کے علاوہ برادری کا رشتہ قائم ہو گئے تھے۔ اور محدث سورتی کے اکثر تلامذہ کو حکیم عبدالعزیز سے سند طب حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ مولانا وصی احمد کے مہاجر زادے سلطان الراعظین مولانا عبدالاحد نے بھی حکیم عبدالعزیز سے طب کی تکمیل کی تھی۔ اور تقریباً دو سال تک آپ کے مطب میں طبیب شریک کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھیں۔

مولانا وصی احمد محدث سورتی کی تین نسلیں تک جاری رہی۔ آپ کے پوتے مولانا شاہ مانا میاں قادری چشتی پہلی بھیتی اور مولانا حکیم قادری احمد پہلی بھیتی نے بھی باقاعدہ طبی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور دونوں حضرات پہلی بھیت اور کراچی میں سورتی و اخوانہ کے نام سے ۱۹۶۶ء تک مطب کیا کرتے تھے۔

سطح و مولانا طبار جلد اول ص ۱۳۵ حکیم محمد فیروز الدین، اسٹیٹ پریس لاہور، نئے ہتھکڑا طراہ جلد ہشتم مؤلف حکیم عبدالطی، میں بھی آپ کے تفسیلی حالات موجود ہیں۔



سہارنپور دانگی۔

مولانا وصی احمد محدث سورتی ہر سال اپنے پیرو مرشد حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ مدرسہ فیض فاسم کے زمانہ تدریس میں آپ نے نسائی شریف پر حاشیہ لکھا شروع کیا اور اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً اپنے پیرو مرشد سے مشورہ فرماتے۔ ۱۳۹۳ھ میں جب محدث سورتی اس حاشیہ کی تکمیل کے مرحلے میں تھے تو آپ کی علم حدیث سے رغبت دیکھ کر حضرت شاہ فضل الرحمن نے آپ کو محدث جلیل حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ آپ نے اس زمانے

میں ہندوستان کے علماء و احناف میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے بڑھ کر علم حدیث کا کوئی عالم موجود نہ تھا۔ اور تمام اکابر علماء آپ کے شاگرد تھے۔ مولانا دہلی احمد نے ۱۳۹۵ء میں مدرسہ فیض عام کی ملازمت ترک کر کے سہارنپور کا سفر اختیار کیا جہاں استاذ الاساتذہ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کا چشمہ فیض مظاہر العلوم میں جاری تھا۔

مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اپنے دیرینہ دوست اور ہندوستان کے استاذ اجل مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی زبانی مولانا دہلی احمد کی لیاقت و فراست کے بارے میں بہت کچھ سن چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپکو خوش آمدید کہا۔ سہارنپور حاضری کے وقت مولانا دہلی احمد محدث سورتی کی عمر اور حیثیت چونکہ عام طالب علموں کے مقابلے میں بالکل مختلف تھی۔ آپ کو حضرت شاہ نفل رحمن اور مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے علم حدیث کی اسناد مل چکی تھیں۔ اور علمی تجربہ کا یہ عالم تھا کہ عام اساتذات کرتے کرتے تھے۔ خصوصاً مولانا محمد علی لونگیری اور مولانا احمد حسن کانپوری تمام فقہی معاملات میں آپ کی رائے کو اولیت دیا کرتے تھے۔ اس لئے مولانا احمد علی محدث سہارنپوری نے بھی مولانا دہلی احمد کے ساتھ عام طالب علموں سے بہت کچھ خصوصی برتاؤ کیا۔ مدرسہ کے قریب ہی ایک کمرہ رہائش کے لئے غفوس فرمایا۔ اور درس عام میں شرکت سے ممانعت کی۔ کہا کہ ہر روز نماز مغرب کے بعد ایک حدیث سنا دیا کرو۔ یہی کافی ہے۔ اب آپ کی عمر مظاہرین احناف کی ہے۔ مدرسہ کے کتب خانہ سے استفادہ کریں۔ تاکہ آئندہ درس و تدریس میں بہولت پیدا ہو۔

مولانا احمد علی محدث سہارنپوری

مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اپنے زمانہ میں علم حدیث کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ شاہ سحن محدث دہلی کے بعد ہندوستان میں آپ کو وہ مرکزیت اور امتیاز حاصل تھا کہ تکمیل علوم کے بعد درس حدیث اور اجازت حدیث کے لئے اکثر علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اس جہد کا مشکل سے کوئی ممتاز عالم

سے مکتوب مولانا عبدالمطمان سورتی بنام مولانا حکیم قاری احمد، مملوک خواجہ رضی حیدر

ہو گا جس نے مولانا سے حدیث کی سند و اجازت حاصل نہ کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج برصغیر میں محدثین کے جتنے سلسلے ہیں ان میں سے بیشتر کی سند مولانا احمد علی محدث سہارنپوری تک پہنچتی ہے۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری ۱۳۱۵ھ میں بمقام سہارنپور پیدا ہوئے۔ میرٹھ میں قرآن حکیم حفظ کیا۔ اور مولانا شیخ وجیبہ الدین صدیقی سہارنپوری اور مولانا عبدالمہدی تلمیذ مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی سے حدیث کی سند حاصل کی پھر ۱۳۶۱ھ میں مکہ معظمہ جا کر حضرت مولانا شاہ محمد اسلمی دہلوی سے دوبارہ حدیث پڑھی اور سند و اجازت حاصل کی ۱۳۶۳ھ میں حجاز سے واپس آ کر ایک مطبع احمدی قائم کیا جہاں سے ۱۳۶۵ھ بمطابق ۱۸۴۸ء میں جامع ترمذی ۳۶۴ احادیث بمطابق ۱۸۵۰ء میں صحیح بخاری اور ۱۲۴۱ھ میں شکوۃ المصابیح شائع ہوئی۔ ۱۸۵۴ء کے جہاد آزادی میں یہ مطبع تباہ ہو گیا۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری ان حالات میں دہلی سے ہجرت کر کے کلکتہ چلے گئے۔ جہاں آپ نے مسجد حافظ جمال دین میں تقریباً دس سال قیام کیا۔ اور دس حدیث دیتے رہے۔ ۱۸۶۳ھ بمطابق ۱۸۴۶ء میں مولوی سعادت علی سہارنپوری نے مظاہر العلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا چنانچہ مولانا احمد علی کلکتہ سے سہارنپور تشریف لے آئے اور آخر وقت تک اسی مدرسہ میں حدیث شریف کی تعلیم دیتے رہے۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کی وابستگی کی بنا پر مظاہر العلوم ہندوستان کی مشہور اسلامی درس گاہ کی حیثیت سے مقبول ہوا اور بڑے نامور علماء پیدا کئے۔

علامہ سید سلیمان ندوی نے حیات سنبلی میں لکھا ہے کہ مولانا سنبلی فرماتے ہیں کہ استاذ محترم مولانا احمد علی محدث سہارنپوری نے بیس برس کامل بخاری کی تصحیح و تفسیر میں لیس برس کے اُس زمانے کے اکثر بڑے بڑے علماء احناف محدث سہارنپوری کے شاگرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ دولت کی برکت عطا کی تھی۔ پہلے کتابوں کی تصحیح و طباعت کی پھر دوسری تجارتوں میں مصروف ہوئے۔ بایں ہمہ وہ بیدار و متحرک و متواضع اور نیک تھے۔ کبھی مسجد میں امامت نہیں کی چپکے سے مسجد میں جلتے اور جماعت میں شامل ہو کر واپس آ جلتے۔ بازار سے سودا خرید کر لاتے تھے مولانا

۱۸۴۴ء استاذ العلماء محدث سہارنپوری، محدث، مضمون خواجہ رضی حیدر مطبوعہ روزنامہ حریت کراچی، ۲۰ اپریل ۱۳۶۴ء

شبلی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ بازار میں مولانا کو میں نے دیکھا تو مجھے پہچنے ہو لیا کہ سردا میں نے
 لوں۔ مگر مولانا کسی طرح اس پر اصرار نہ ہوئے اور خود اپنے ہاتھ سے سروا لیکر گھر تک گئے۔
 یکم جمادی الاول ۱۲۹۴ھ کو آپ پر قابض کا شدید حملہ ہوا۔ مولانا دوصی احمد محدث سورتی کو
 اطلاع پہنچی تو آپ فری طور پر لکھنؤ سے اپنے استاد حکیم عبدالعزیز کو ساتھ لے کر سہارنپور پہنچے
 لیکن جمادی الاول ۱۲۹۴ھ بمطابق ۹ اپریل ۱۸۷۹ء کو یہ آفتابِ علم مغرب ہو گیا۔
 مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے تلامذہ میں یہ علماء کرام شامل ہیں۔ مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا
 محمد علی مونگیری، پیر مہر علی شاہ گولڑوی، مولانا دیدار علی محدث الوری، مولانا احمد حسن نانوتوی، مولانا
 شبلی خانی، مولانا دوصی احمد محدث سورتی، مولانا تاج محمد نانوتوی، مولانا املا اللہ صاحب کی، مولانا محمد فاروق چٹریا کوٹی۔
 محدث سورتی کو اپنے پیروں میں حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے بعد سب سے
 زیادہ عقیدت و اہمیت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے تھی۔ سہارنپور میں قیام کے دوران چند
 روز میں ہی آپ مولانا احمد علی کی خصوصی عنایات اور پراثر شخصیت کے گرد دیدہ ہو گئے۔ اور اپنا بیشتر
 وقت مطالعہ مولانا سہارنپوری کی صحبت میں بسر کرتے گئے۔ اس زمانہ میں مولانا دوصی احمد محدث
 سورتی کے ہم درس طلبہ میں پنجاب کے مشہور عالم دین اور ولی اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب
 گولڑہ شریف اور مولانا ابو محمد دیدار علی الوری شامل تھے۔ مولانا دوصی احمد نے تقریباً ۱۲۹۵ھ
 میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے سند حدیث حاصل کی جبکہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب
 کو بھی مولانا احمد علی نے اسی سال سند عطا کی تھی۔

مولانا فیض احمد فیض نے اپنی کتاب مہر منیر سوانح حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑہ شریف میں لکھا
 ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے تھے کہ مولانا احمد علی کے دس میں دو طالب علم مولانا دوصی احمد
 اور میں جنفی الہذیب تھے۔ باقی اکثر بیشتر طلباء غیر مقلد تھے۔ دس کے دوران اکثر بیشتر اختلافی

۱۔ حیات شبلی ص ۸۶۔ مولانا سید سلیمان ندوی مطبوعہ اعظم گڑھ ۱۹۳۳ء
 ۲۔ تاریخ ہندو پاک ص ۱۵۱۔ مولانا حکیم قادی احمد مطبوعہ ۱۹۶۶ء

مسائل پر بحث چھڑ جاتی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ جنفی مذہب کی فوقیت ہی ثابت ہوتی۔
 مولانا دوصی احمد محدث سورتی نے غیر مقلدوں کے ساتھ بعض مباحث اور مکالموں کا اپنی کتاب
 تعلق الہجلی فی البنیۃ المصلیٰ میں تذکرہ کیا ہے۔ طحاوی کے حاشیے پر بھی بعض جگہ مذکورہ واقعات کی
 نشاندہی کی گئی ہے۔ مولانا دوصی احمد فقہی معاملات اور فہم حدیث میں اپنی نکتہ دہی اور قابلیت
 کی بنا پر مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے دل میں گھر کر چکے تھے۔ مدرسے کے تنفیسی معاملات
 سے لیکر استفسارات کے جوابات تک میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اپنے اس عزیز شاگرد کی رائے
 کو اولیت دیتے۔ مولانا دوصی احمد کے ساتھ مولانا احمد علی کا یہ خصوصی برتاؤ ہر چیز غیر مقلد طلبہ کی لئے
 بڑا سربان روح تھا۔ لیکن مولانا نے ہمیشہ انصاف کو پیش نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا دوصی احمد
 محدث سورتی اپنی کتابوں میں اپنے استاد کا ذکر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔
 محدث سورتی مقدمہ شہ معانی الآثار میں لکھتے ہیں کہ جب میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے
 دورہ حدیث کی تکمیل کے بعد رخصت ہوا تو عرضی عینی و رخصیت عنہ روہ مجھ سے راضی تھے
 اور میں ان سے راضی تھا۔ مولانا شاہ حسین گریزی اپنے رسالہ رجال السنہ میں شرح معانی الآثار
 کی یہ عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کی علماء اہلسنت اور خصوصاً
 محدث سورتی جیسے سمت گیر اور متقلب سنی کے ساتھ اتنی دل بستگی اور تعلق خاطر سے ان کی قلبی
 کیفیت اور مسلک کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

تعلق الہجلی میں ایک حدیث کی وضاحت کے ضمن میں مولانا دوصی احمد نے مولانا احمد علی محدث
 سہارنپوری کو ان القاب و آداب کے ساتھ یاد کیا ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ خاتمہ المحدثین الفقیہ
 الوجیہ والحمد للہ البنیہ مولینا و سیدنا الما فظا احمد علی السہارنپوری۔
 قسمت کی قسم ظہری کہ مولانا دوصی احمد محدث سورتی کو مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے

۱۔ مہر منیر ص ۸۲۔ مولانا فیض احمد فیض مطبوعہ گولڑہ شریف ۱۹۶۳ء
 ۲۔ رجال السنہ ص ۲۔ شاہ حسین گریزی مطبوعہ سورتی اکیڈمی اپریل ۱۹۶۸ء
 ۳۔ تعلق الہجلی ص ۳۹۳

صرف تین سال تک شرفِ صحبت حاصل رہا کیونکہ مولانا وصی احمد کو سندِ حدیث ملنے کے دو سال بعد ہی مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ لیکن محدث سورتی کا روحانی تعلق ہمیشہ برقرار رہا۔ اور آپ اپنے استاد کا تذکرہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ کرتے رہے مولانا قادری احمد نے لکھا ہے کہ مولانا وصی احمد محدث سورتی اکثر درسِ حدیث کے دوران اپنے استاد مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے حوالے سے طلبہ سے گفتگو فرماتے اور ایسے مواقع پر بیشتر آپ پر وقت طاری ہو جاتی اور درسِ حدیث روک کر طلبہ کے ہمراہ اپنے استاد کی مغفرت کے لئے دعا کرتے۔

محدث سورتی کی سند حدیث

حضرت محدث سورتی نے تین اساتذہ سے حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت و معانی سنا لی اور اسناد حدیث حاصل کی۔ مولانا لطف اللہ علیہ السلام، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اور مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سند مولانا لطف اللہ علیہ السلام اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے ذریعے تین وسائل سے اور شاہ فضل رحمن کے ذریعے دو وسائل سے شاہ ولی اللہ تک پہنچی ہے۔ جبکہ امام بخاری تک آپ کی سند سترہ اور اطہارہ و وسائل سے پہنچی ہے۔ محدث سورتی کی مکمل سند حدیث یہ ہے۔

حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی، شاہ عبدالعزیز محدث سورتی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ ابوطاہر مدنی، شیخ ابراہیم کھڑی، شیخ احمد قشاشی، الشمس محمد بن احمد الزینی، ذکر الالفاظ، حافظ ابن حجر عسقلانی، ابراہیم احمد التنوخی المعروف بالبربان الشامی، شیخ احمد بن ابی طالب بجلال، ابو عبداللہ الطمین بن مبارک الزبیدی البغدادی، ابوالوقت عبداللہ بن عیسیٰ بن شعیب بن اسحاق السجری، الصوفی الہروی، جمال الاسلام ابوالحسن عبدالرحمن بن

مولانا قادری احمد کی یادداشتیں۔

محمد الزادہ، ابو محمد عبداللہ محمد بن مطر الغمری، ابو عبداللہ محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بخاری، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کی سند شاہ محمد اسحق محدث دہلوی کے ذریعہ شاہ عبدالعزیز تک جاتی ہے۔ جبکہ مولانا لطف اللہ علیہ السلام کی سند مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی سے شاہ محمد اسحق محدث دہلوی کو پہنچی ہے۔

علمائے وفد کی قیادت۔

مولانا وصی احمد محدث سورتی نے ۱۳۹۵ھ بمطابق ۱۸۷۸ء میں مظاہر العلوم سہارنپور سے سند حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے ہندوستان پر شدید قنوطیت طاری تھی خصوصاً مسلمان حشمت و اقتدار سے محروم ہونے کے بعد بڑے کرب کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت تک انگریزوں کو ہندوستان پر مکمل تسلط قائم کے سہوے میں بائیس سال گزر چکا تھا لیکن ابھی تک ہندوستان کی سیاسی اور سماجی سرگرمیاں بحال نہیں ہوئی تھیں۔ صرف ایک گورنر جنرل کی کونسل تھی جو انگریزی اقتدار کے قدم چلنے کے لئے وقتاً فوقتاً فیصلے صادر کرتی رہتی تھی۔ تعلیمی میدان میں مسلمان ابھی ہندوؤں سے کہیں پیچھے تھے اور اس بات کا احساس اس زمانہ کے تمام رہنماؤں کو بڑی شدت کے ساتھ تھا جدید تعلیم کے ضمن میں سرسید احمد خان اور سید امیر علی نے جبکہ مذہبی تعلیم کے ضمن میں شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری نے اس قنوطیت زدہ ماحول میں فروغِ تعلیم کی راہ نکالی اور فلاح قومی کی بنا ڈالی۔ سرسید احمد خان برصغیر کے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی جانب رغبت دلانے کے لئے ۸ جنوری ۱۸۴۷ء بمطابق ۱۲۶۳ھ کو مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ ۱۸۶۶ء میں سید امیر علی نے سینٹرل نیشنل محمدان ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایک مجلسِ مذاکرہ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے علاوہ کانپور میں مولانا عنایت احمد کاکوروی کی نگرانی میں شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کے ہاتھوں مدرسہ فیض عام کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اور سہارنپور کے مدرسہ مظاہر العلوم میں تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگرچہ مولانا قاسم نانوتوی بھی دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ لیکن اس

کے باوجود علم دین کا وہ غفلتہ سنائی نہیں دیتا تھا جو حضرت شاہ عبدالغفر زہد مدحت دہلوی کے عہد کا طرہ امتیاز تھا۔ ۱۸۵۷ء کے جہادِ آزادی میں برصغیر کے دینی مراکز و مدارس کو شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اندازہ کے مطابق جہادِ آزادی کی ناکامی کے بعد تقریباً دس ہزار مذہبی مدارس بند ہو گئے۔ حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی اور مولانا احمد علی مدحت مہارنپوری کو اس صورتحال نہ صرف شدید احساس تھا بلکہ شدید غم بھی تھا۔ چنانچہ آپ نے باہم مشورہ سے ۱۸۴۸ء بمطابق ۱۲۹۵ھ میں علماء کی ایک جماعت تشکیل دی تاکہ یہ جماعت برصغیر کے طول و عرض کا دورہ کر کے از سر نو دینی مدارس کی تنظیم کا فریضہ انجام دے سکے۔ جامعہ امدادیہ کشور گنج سابق مشرقی پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مولانا اطہر علی (متوفی ۱۹۷۶ء) نے جامعہ کی رپورٹ مطبوعہ ۱۹۶۲ء میں لکھا ہے کہ اس مخمور وفد کے اراکین میں مولانا محمد علی واعظ، مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا حسن الدین سلہٹی اور مولانا محمد علی مونگیری کے نام خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس وفد کے قائد مولانا وصی احمد مدحت سورتی تھے۔ جن کی قیادت میں ندرتے تین ماہ تک ملک کے تمام گوشوں کا دورہ کیا، خصوصاً مشرق میں ڈھاکہ، سلہٹ، چائلہ، گام لڑا، کھالی، مہین سنگھ، کشور گنج اور مغرب میں ملتان، لاہور اور پشاور کا دورہ کرتا رہا۔ سلسلہ بنگال میں مولانا سید عبدالطیف اسلام آبادی اور پنجاب میں حضرت مولانا پیر جہر علی شاہ گورنہ شریف کی وجہ سے اس جماعت کو نمایاں کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ اپنی علماء کا فیض ہے کہ برصغیر میں لاکھوں دینی مدارس تشنگانِ علم کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ ۱۸۵۷ء کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کی ملی تحریک کا جائزہ لیا جائے تو اس سیاسی اور مذہبی گھٹن کے دور میں علماء کی یہ جماعت امید کی پہلی کرن ثابت ہوئی۔ کیونکہ اس جماعت کا پورے ہندوستان میں جس طرح استقبال کیا گیا اور جماعت کو اپنے مقاصد میں جو کامیابی حاصل ہوئی اس نے محکوم مسلمانوں کے حوصلے جوان کر دیئے۔ مصلحتوں کے خول میں زندہ رہنے والے مسلمان رہنما بلند آہنگ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لئے جدوجہد شروع کی اور بالآخر یہ جدوجہد ہندوستان کی اجتماعی آزادی پر ختم ہوئی۔

۱۹۶۲ء سالانہ رپورٹ جامعہ امدادیہ کشور گنج مطبوعہ کشور گنج مہین سنگھ ۱۹۶۲ء



شادی اور پسلی بھیت میں قیام۔

مولانا وصی احمد مدحت سورتی کی عملی زندگی کافی الحقیقت آغاز ۱۲۹۶ھ سے ہوتا ہے آپ کی قیادت میں علماء کے وفد کا ہندوستان گیر کامیابی نے آپ کی مقبولیت اور شہرت میں خصوصی اضافہ کیا۔ طالبانِ علم خصوصیت کے ساتھ آپ کی جانب رجوع ہونے لگے۔ اس وقت مولانا وصی احمد کی عمر ۲۲ سال ہو چکی تھی۔ اور آپ ہنوز غیر شادی شدہ تھے۔ جبکہ آپ کے برادر خورد مولانا عبد اللطیف سورتی کی شادی حکیم حلیل الرحمن پسلی بھیت کے مشورہ پر پسلی بھیت

میں ہر چکی تھی۔ مولانا موسیٰ احمد محدث سورتی جب ہندوستان کے دورہ کی تکمیل پر کانپور پہنچے تو مولانا احمد حسن کانپوری نے آپ کو شادی کا مشورہ دیا۔ چنانچہ مسجد نیرنگیان کانپور کے ایک لٹری میر عنایت نے جو مسجد کے قریب ہی مقیم تھے۔ اپنی بڑی لڑکی کے لئے خواہش ظاہر کی۔ مولانا احمد حسن کانپوری اور میر عنایت حسین کے درمیان طے دیرینہ مراسم تھے اور دونوں حضرات ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ میر عنایت حسین نے ریاست جھارکھنڈ سے ترک سکونت کر کے کانپور کو وطن بنالیا تھا۔ اور کانپور کے متمول افراد میں شمار ہوتے تھے۔ مولانا احمد حسن کانپوری نے اس رشتہ کو قبول کرتے ہوئے منظوری دیدی اور میر عنایت حسین کی صاحبزادی محترمہ لطیف النساء سے مولانا موسیٰ احمد محدث سورتی کا عقد ہو گیا۔ شادی کے بعد مولانا موسیٰ احمد نے کچھ دن کانپور میں قیام کیا۔ بعد میں بھائی کی فرمائش اور تقاضے پر پیلہ بھیت چلے گئے۔ حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی اور مولانا احمد علی محدث بہانپوری نے بھی پیلہ بھیت میں قیام کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اور حکم دیا کہ پیلہ بھیت میں ایک دینی مدرسہ کی بنیاد رکھو تاکہ روہیلکھنڈ کی اس مرکزی آبادی میں بھی علم و فضل کا چرچا عام ہو۔

پیلہ بھیت کا پس منظر

ہندوستان کے صوبہ یوپی میں نیپال کی ترائی میں قدیم شہر ہے۔ حافظ رحمت خان روہیل نے یہ شہر ۱۷۶۷ء میں آباد کیا تھا۔ اور اس کا نام حافظ آباد رکھا گیا تھا۔ بعد میں حافظ رحمت خان روہیل کے حکم پر ایک فصیل شہر کے اطراف سے نکلنے والی پیلہ مٹی کی تعمیر کردائی گئی۔ جس کی بنا پر یہ شہر حافظ آباد سے پیلہ بھیت ہو گیا۔ کیونکہ ہندی اور سندھی میں بھیت دیوار کو کہتے ہیں۔ جہاں وہ ہیں۔ اگر بھیت ہو گیا۔ حافظ رحمت خان کی آمد سے قبل اس علاقہ پر بنجاروں کی آبادی تھی۔ سترھویں صدی عیسوی میں یہاں حافظ رحمت خان اور ان کے جانشینوں نے افغانی طرز کی عمارات تعمیر کیں۔ حافظ رحمت خان نے شہر کے وسط میں ایک جامع مسجد

۱۷۶۷ء میں تعمیر فرمائی۔ حافظ رحمت خان نے شہر کے وسط میں ایک جامع مسجد

بنوائی جو اپنی وضع قطع کے اعتبار سے فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ ۱۷۶۷ء پیلہ بھیت میں ہندو کائستروں اور بنجاروں کے علاوہ مسلمان چٹانوں، نیپالی سوار گروں اور سیدوں کی اکثریت ہے۔

۱۷۶۷ء کے جہاد آزادی میں پیلہ بھیت کی حیثیت ایک پرگنہ تھی اور اس وقت یہاں ایک انگریز مجسٹریٹ مسٹر کلا میلک متعین تھا۔ اتفاق سے جہاد آزادی کے آغاز پر وہ پیلہ بھیت میں موجود نہیں تھا بلکہ نئی نال میں تھا۔ جیسے ہی گزٹیرٹھ اور دیگر علاقوں کے واقعات کا علم ہوا تو اس نے پیلہ بھیت پہنچ کر علی بن کی سرکوبی کے لئے پولیس اور سوار بھرتی کئے۔ اس وقت پیلہ بھیت کے مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف بہت جوش و خروش تھا۔ گزٹیرٹھ پیلہ بھیت میں لکھا ہے کہ مسلمانان پیلہ بھیت بہت جوش کی حالت میں تھے۔ جس کا اندازہ ان اسٹہانات سے ہوتا ہے جو عید کے دن جامع مسجد اور عید گاہ میں چسپاں کئے گئے تھے۔ مگر اس سے قبل کہ پیلہ بھیت میں کوئی متحرک ہوتا۔ یکم جون ۱۸۵۷ء کو مسٹر کلا میلک کو بریلی کے واقعات کا علم ہوا کہ وہاں خان بہادر خان کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور انگریز افسر بریلی سے فرار ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر اپنے بیوی بچے پولیس کی حفاظت میں نئی نال بھیج دیئے۔ اور بعد میں خود بھی دیگر افسران کے ساتھ نئی نال فرار ہو گیا۔ نتیجاً پیلہ بھیت سے انگریز کی عملداری ختم ہو گئی اور خان بہادر خان کی حکومت قائم ہو گئی۔ پیلہ بھیت کے چٹانوں کی ایک بڑی تعداد جنرل نجات خان روہیل کی قیادت میں دہلی کے لئے روانہ ہو چکی تھی۔ باقی کچھ سوانہ در برلی پہنچ گئے تاکہ نواب خان بہادر خان کی حفاظت کر سکیں۔ ایسے حالات میں پیلہ بھیت کا شہر فوجیوں اور فوجیوں کے ماتحت رہنے سے تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ پیلہ بھیت کے قریب جہاں میں قیام پیلہ بھیت کا شہر حافظ رحمت خان اور ان کے جانشینوں کے ہاتھ کئی مرتبہ خربت اٹھا چکی ۱۷۶۷ء میں حافظ رحمت خان نے پیلہ بھیت کے اعتبار سے جامع مسجد بنوائی۔ حافظ رحمت خان نواب حافظ رحمت خان دو بیٹے ۱۷۶۷ء میں اپنی والدہ کے انتقال کی اطلاع پا کر دہلی سے براہ راست مراد آباد بریلی پیلہ بھیت تشریف لائے۔ اور کچھ عرصہ پیلہ بھیت میں قیام کیا۔ اس دوران آپ کو پیلہ بھیت میں جامع مسجد دہلی کی طرز پر ایک مسجد کی تعمیر کا خیال آیا۔ اور آپ نے مسجد کی تعمیر شروع کرائی۔ اس زمانہ میں راجپوتانہ سے فقط زوہ ماروڑیوں کی ایک بڑی تعداد پیلہ بھیت کے اطراف آ کر آباد ہو گئی تھی۔ چنانچہ ان ماروڑیوں کو مزدوری پر لگا دیا گیا۔ اور مسجد ایک سال کے اندر مکمل ہو گئی۔ المسجد بیت المتقین سے مسجد کی تکمیل کا مادہ ملے گا۔ ۱۷۶۷ء تک ہے (نزیر تفصیل کے لئے دیکھیں مولانا حکیم قادی احمد پیلہ بھیت کا مضمون حافظ الملک کی دلچسپی مطبوعہ ماہنامہ پیام حق ستمبر ۱۹۶۷ء۔ گراچی)

تھیں، انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور پہلی بھیت پر قبضہ کر لینے کے منصوبے بنائے لیکن اس وقت پہلی بھیت میں خان بہادر خان کے ایک قریبی عزیز نواب بشیر خان ان کے نائب کی حیثیت سے شہر کے انتظام اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔

پہلی بھیت کے ایک سیاسی کارکن محمد عمر خان ایڈووکیٹ نے اپنی کتاب دو قومی نظریہ ۱۹۵۷ء کے واقعات کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ہندوؤں نے پہلی بھیت کو جب پٹان فوجوں سے خالی پایا۔ تو ان کے دل میں شہر پر قبضہ کر لینے کی امنگ پیدا ہوئی۔ پہلی بھیت سے چند میل کے فاصلے پر ہندوؤں کی ایک قوم کڑی آباد تھی۔ اور اس کے سربراہ کا نام ذوقی رام تھا۔ اس نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا اور بشیر خان کو ایک خط لکھا کہ پہلی بھیت کی عنان حکومت ہمارے سپرد کر دی جائے ورنہ ہم شہر پر حملہ کر دیں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر پہلی بھیت کے باقی ماندہ مسلمانوں نے دو سو افراد پر مشتمل ایک جملعت تیار کی اور پہلی بھیت سے چند میل دور کمر پورہ کے مقام پر آٹھ ہزار ہندوؤں سے مقابلہ ہوا جس میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اور ذوقی رام مارا گیا۔ مسلمانوں کی اس تمام کامیابی کا سہرا پہلی بھیت کے پٹانوں کے سر تھا۔ جو ہمیشہ سے جرات و بہادری کے مظاہرے کرتے چلے آئے ہیں۔

پہلی بھیت میں علم دین کا شہرہ ہندوستان کے دیگر شہروں کے مقابلے میں کم تھا۔ مگر صوفیاء کی ایک بڑی اکثریت اس شہر میں ہمیشہ سے موجود تھی۔ حافظ رحمت خان کے دور حکومت میں شاہ کیم اللہ شاہ میاں کے مجاہدہ باطنی کی شہرت عام تھی۔ اور حافظ رحمت خان بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ جہاد آزادی ۱۹۵۷ء میں جو صوفیاء پہلی بھیت میں مقیم تھے۔ ان میں شاہ نعمت اللہ شاہ میاں نقشبندی، شاہ لطف اللہ شاہ میاں، شاہ بجان شاہ میاں اور شاہ مستان شاہ میاں کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ شاہ نعمت اللہ شاہ میاں ہر وقت استغراق کے عالم میں رہتے تھے۔ اور جہاد آزادی سے کئی سال قبل سے اپنے گلے پر انگلی پھیر پھیر کر فرماتے تھے کہ مخلوق پر قتل ہے۔ مخلوق پر تباہی ہے۔ ان تمام صوفیاء کے مقابر پہلی بھیت

۱۔ محمد عمر خان ایڈووکیٹ پہلی بھیت ۱۹۵۶ء۔ دو قومی نظریہ مطبوعہ پشاور ۱۹۶۷ء

میں موجود ہیں۔ اور عوام الناس کی آج بھی توجہ کا مرکز ہیں۔

علماء میں مولانا احمد رضا خان کے والد مولانا نقی علی خان کی شخصیت ایسی تھی جسکو پہلی بھیت کے عوام الناس قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مولانا نقی علی خان اکثر بریلی سے پہلی بھیت تشریف لاتے اور خصوصاً میلاد کی محافل میں شرکت کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے مذہبی حلقوں میں پہلی بھیت کو مرکزی حیثیت مولانا وصی احمد محدث سورتی کے قیام پہلی بھیت کے بعد حاصل ہوئی اور اس شہر کا نام ہندوستان کی مذہبی اور سیاسی تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گیا۔

حافظ العلوم سے وابستگی

حافظ الملک حافظ رحمت خان روہیلہ نے جامع مسجد پہلی بھیت میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ جس کا نام حافظ العلوم رکھا گیا۔ اس مدرسہ میں ابتدائی طور پر قرآن حکیم کے ناظرہ کی تعلیم کا انتظام تھا۔ لیکن بعد میں طالبان علم کی ضرورتوں کے پیش نظر عربی، فارسی، حدیث و تفسیر، فقہ، اور اصول فقہ کی تعلیم کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ اس مدرسہ کے پہلے مدرس مولانا حافظ سعد اللہ تھے جبکہ قرآن حکیم کے ناظرہ کی ذمہ داری مولانا محمد یونس کے سپرد تھی ۱۹۴۹ء میں مولانا وصی احمد محدث سورتی جب پہلی بھیت پہنچے تو عمائدین اور علماء شہر نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور جامع مسجد پہلی بھیت میں قائم مدرسہ حافظ العلوم میں صدر مدرس کی حیثیت سے آپ کا تقرر فرما دیا۔ پہلی بھیت میں اس وقت تک علم حدیث کا کوئی ایسا عالم موجود نہیں تھا جو دور حدیث کی ذمہ داری بھی پوری کر سکے۔ چنانچہ مولانا وصی احمد محدث سورتی کی آمد سے علم حدیث کا چرچا عام ہوا۔ اور طلبہ کی ایک کثیر تعداد آپ کے درس میں شامل ہونے لگی۔ ابتدائی طور پر آپ کے درس میں شامل ہونے والے طلبہ میں مولانا حافظ فضل حق۔ مولانا ضیاء اللہ، پہلی بھیت، مولانا عبدالمسیح پہلی بھیت، مولانا صفدر علی خان عرف پشاوری، مولانا عبدالمصطفیٰ پنجابی اور مولانا عتیق احمد پہلی بھیت وغیرہ کا نام ملتا ہے۔ ان تمام طلباء نے حضرت محدث سورتی کی

زندگی ہی میں مہم و فضل میں وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ دور دور تک ان کی شہرت عام ہو گئی تھی۔
 مولانا وصی احمد نے پندرہ سال حافظ العلوم میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث کی حیثیت
 سے خدمات انجام دیں۔ اس دوران آپ نے تصنیف و تالیف کی جانب بھی توجہ دی اور
 جلالین و بیضاوی کی تفسیر شروع کی۔ محدث سورتی چونکہ حنفی المسک تھے اس لئے خصوصاً
 غیر مقلد و بان اور اہل حدیث کے عقائد کا رد فرماتے تھے۔ تقلید کی اہمیت اور ضرورت پر
 زور دیتے اور فقہ حنفی کے حق میں مدلل ثبوت پیش کرتے۔



مدرستہ الحدیث کا قیام

مولانا وصی احمد محدث سورتی ۱۳۳۲ھ تک حافظ العلوم نے بحیثیت شیخ الحدیث
 وابستہ رہے۔ اس دوران آپ کی تصنیف و تالیف کی سرگرمیوں اور تبلیغی زوروں میں بڑی
 حد تک اضافہ ہو گیا تھا اور آپ پورا وقت حافظ العلوم میں نہیں دے پاتے تھے چنانچہ آپ
 نے حافظ العلوم سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے برادر محمد مولانا عبداللطیف سورتی
 نے جامع مسجد بیلی بحیثیت سے کچھ فاصلہ پر محلہ منیر خان میں حضرت محدث سورتی کی رہائش

کے لئے ایک مکان خرید لیا تھا۔ جس میں حضرت محدث سورتی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مقیم تھے حافظ العلوم سے علیحدگی کے پیش نظر مولانا عبداللطیف سورتی نے جواب پبلی بھیت میں جنگلات کے ٹھیکیدار تھے۔ محدث سورتی کے مکان سے ملحق زمین خرید کر ایک مدرسہ تعمیر کروایا۔ اس مدرسہ سے ملی ہوئی حافظ رحمت خان کے سالار شیخ کبیر کی مسجد اور قبرستان تھا اس قبرستان میں حافظ رحمت خان کی والدہ اور دیگر اعزہ کی قبر موجود ہیں۔ مولانا عبداللطیف نے جو اس مسجد اور قبرستان کے متولی تھے۔ اپنے ذاتی خرچ سے مسجد اور قبرستان کی از سر نو مرمت کروائی تھی مدرسہ کے قیام سے مسجد کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ اس مسجد میں حضرت محدث سورتی نے اپنے وصال تک امامت کے فرائض انجام دیئے۔ آپ کی غیر موجودگی میں مولانا عبداللطیف کے صاحبزادے مولانا عبدالحمید پبلی بھیتی یہ فرائض انجام دیتے تھے۔

حضرت محدث سورتی نے اپنے مدرسہ کا نام مدرسہ الحدیث تجویز فرمایا اور اس کا افتتاح نہایت شاندار طریقہ پر ہوا۔ افتتاحی تقریب میں دور دراز سے علماء نے شرکت کی۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی مدرسہ سرفہ نے افتتاح کے موقع پر فن حدیث پر تقریباً تین گھنٹہ تقریر فرمائی۔ یہ حضرت محدث سورتی نے حافظ العلوم سے علیحدگی کے وقت اپنے شاگرد عزیز مولانا عبدالملک پبلی بھیتی کو حافظ العلوم کا صدر مدرس مقرر فرمایا جو اس وقت فارغ التحصیل ہونے کے بعد مدرسہ احمدیہ پبلی بھیت میں طالب علموں کو درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھا رہے تھے۔

مدرسہ الحدیث کے قیام کا چرچا پورے ہندوستان میں بہت جلد عام ہو گیا اور ہر طرف سے طالبان علم پبلی بھیت آئے لگے۔ ان طالب علموں میں پنجابی، اٹھان، اور بنگالی طالب علموں کی اکثریت تھی۔ حضرت محدث سورتی نے تقریباً بیس سال اس مدرسہ میں حدیث شریف کا درس دیا اور لاتعداد طالب علم یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ۱۳۱۷ھ میں پٹنہ کے قاضی عبدالوحید عظیم آبادی نے پٹنہ میں مدرسہ حنفیہ قائم کیا مدرسہ

مولانا محمود احمد قادری صفر ۱۵۵، تذکرہ علماء رامپتہ مطبوعہ کانپور ۱۳۹۱ھ

کی افتتاحی تقریب میں ہندوستان کے نامی گرامی علماء کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مولانا عبدالقادر بدایونی، مولانا عبدالقیوم بدایونی، مولانا سلامت اللہ رامپوری، اور مولانا وصی احمد محدث سورتی نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر قاضی عبدالوحید نے حضرت محدث سورتی کو مدرسہ کے صدر مدرس کی حیثیت سے پٹنہ میں قیام کی دعوت دی حضرت محدث سورتی نے اس خدمت کو قبول کر لیا۔ اور پبلی بھیت میں مولانا عبدالقادر بدایونی کے صاحبزادے مولانا عبدالقادر بدایونی کو مدرسہ الحدیث میں دورہ حدیث کے لئے مامور فرمایا۔ اور خود مدرسہ حنفیہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔

قاضی عبدالوحید نے پٹنہ سے ایک ماہانہ تحفہ حنفیہ بھی جاری کیا تھا۔ جس کا مدیر اعلیٰ حضرت محدث سورتی کے ایک شاگرد مولانا شاہ محمد ضیاء الدین مہدم پبلی بھیتی کو مقرر کیا گیا تھا۔ یہ رسالہ تقریباً بیس سال تک برابر اخوات اسلامی اور عقاید حنفیہ کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی نے تقریباً دو سال پٹنہ میں قیام فرمایا اور جب مدرسہ حنفیہ چل نکلا تو آپ واپس پبلی بھیت تشریف لائے۔ جہاں طالبان علم آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔

مدرسہ الحدیث پبلی بھیت کے فارغ التحصیل طلبہ کی رسم دستار بندی کے موقع پر ہر سال ایک اجلاس منعقد کیا جاتا تھا۔ ان اجلاسوں کی صدارت کے لئے مقدمہ علماء کو دعوت دی جاتی تھی۔ رسالہ تحفہ حنفیہ پٹنہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ۶ رذی الحجہ ۱۳۳۳ھ کو بحمد اللہ تعالیٰ مدرسہ الحدیث واقع محلہ منیر خاں پبلی بھیت کے طلبہ کا امتحان حضرت مولانا مولوی شاہ محمد سلامت اللہ رامپوری دامت فیوضہ نے لیا۔ مولوی اجد علی (اعظمی انصاری) نے بصدر فراغ کتب درسیہ کے نہایت جانفشانی و کمال استعداد سے سال بھر میں صحاح ستہ، مسند شریف، کتاب الاثار شریف، موطا شریف، طحاوی شریف کا قرآن و سماعہ درس حاصل کر کے اعلیٰ درجہ کا امتحان دیا۔ حمد کے باعث مہتمن صاحب و حاضرین نہایت شاداں اور ان کی حسن نیاقت

مولانا محمود احمد قادری صفر ۱۵۵، تذکرہ علماء رامپتہ مطبوعہ کانپور ۱۳۹۱ھ

وذکاوت سے بہت فرحان ہوئے۔ اور دستارِ فضیلت زیب سر کی گئی۔ مولوی عبدالمصطفیٰ صاحب
 و مولوی عبدالرحمن صاحب صاحبزادگان جناب عبداللطیف صاحب سورتی مقیم پٹی بھیت نے
 بھی کتبِ احادیث سے فراغت حاصل کی اور اچھا امتحان دیا۔ دستارِ فضیلت ان دونوں صاحبوں
 کے بھی باندھی گئی۔ یہ سب فیضِ وحسنِ تدلیسِ عالمِ جلیل، فاضلِ نبیل، خاتمِ المحدثین، ذبذبة
 المفسرین، خلاصۃ المتعقین، عمدۃ المدلسین، ابلج الفقیہا، اکمل الکملہ، حضرت مولانا مولوی
 وصی احمد محدث سورتی مقیم پٹی بھیت مدرسِ اعلیٰ مدرسہ مذکورہ دَام اللہ تعالیٰ فیوضہ العزیزہ کا
 شہرہ ہے۔ آپ ہر سال کتبِ احادیث کا بھی ایک ہی سال میں درس دیکر علومِ تحصیل کراتے
 ہیں۔ چنانچہ یکم محرم ۱۳۲۵ھ سے دورہ کتبِ احادیث شروع ہو گیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف،
 ترمذی شریف، بخاری شریف طلبہ پڑھ رہے ہیں۔

اس رپورٹ کے آخر میں ابوالساکین مولانا نصیر الدین پٹی بھیت نے جو اس زمانہ میں دعوتِ
تحفہ حنفیہ کے مدیر تھے۔ ایک قطعہ تاریخ درج کیا ہے۔

سنی جیب خبر جلسہ امتحان کی
 ضیاء کو ہولی فکر تاریخ پیدا
 خورد نے کہا جہل کا سراوڑا کر
 ہوا واقعی امتحان خوب زیبا

۱۳۲۳ھ

اصلاح عقائد کی جدوجہد

تیرھویں صدی کے اواخر اور چودھویں صدی کے شروع میں محکم ہندوستان میں فتنگی
 بے لگام گھونٹے کی طرح سرپٹ روڈ رہی تھی، طبع اور لالچ نے وہ حال پھیلایا تھا کہ ہر شخص

لے تحفہ حنفیہ ص ۲۲ محرم المرام ۱۳۲۵ھ مطبوعہ پٹنہ بہار۔

اپنے پرچار سے باہر دیکھنے کا آرزو مند تھا۔ نت نئے مسائل اور حدیثِ طبع کی فراوانی تھی۔
 خصوصاً مسلمانوں میں حمیتِ دینی رو بہ زوال اور نفس پرستی عام ہو رہی تھی۔ ایسی فضا میں
 کس عالم کا روشِ دنیا سے علیحدہ رہنا اور اپنے حالات پر قناعت اختیار کرنا کرامت سے کم
 نہ تھا۔ پورے ہندوستان میں مغربی افکار کو فروغ دیا جا رہا تھا اور کتاب و سنت کو مسجدوں اور
 جردوں تک محدود کرنے کی سامراجی سازش اپنے ہی دینی بھائیوں کے ہاتھوں پروان چڑھ رہی تھی
 اس سازش کے پیر جملے میں مصلحت کو سس علمائے دین و دانشور، اور جاہل عوام سب ہی
 یکساں مصروف تھے۔ اعمالِ شریعت اور اوصافِ طریقت پر شرک و بدعت کا لیبیل لگا کر سنت
 اسلاف پر عمل کرنے والوں کو کافر و بدعتی ٹھہرایا جا رہا تھا۔ مصلحت کا یہ حصا رکھ اس قدر وسیع
 تھا کہ اس میں خود بہت سے نام نہاد صاحبِ شریعت و طریقت گرفتار تھے۔ سامراجی آقاؤں
 کی خوشنودی حاصل کرنے کی اس کوشش میں بعض ناواقف اندیش علماء تو اس حد تک آگے
 بڑھ گئے کہ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی ادائیگی کو
 بھی حاضر و غائب کی شرط لگا کر محدود کر دینا چاہا۔ انہما عقیدت کے ذرائع محدود کر دینے کی پہل
 تک جسارت کی گئی کہ اساتذہ کی دست بوسی بھی خلافِ شریعت قرار پائی۔ غیر فطری سوالات
 اور مسائل اٹھائے گئے۔ نماز میں رسولِ مقبولؐ کا خیال آنا جائز ہے یا ناجائز۔ رسول اللہؐ کو علم
 غیب تھا یا نہیں۔ بعد از نماز پیش امام سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے یا مسنون، بعد از نماز ذکر
 بالجہر واجب ہے یا متروک، بعد از تلاوت قرآن حکیم کو بوسہ دینا حرام ہے یا حلال۔ غرض کہ مسلمانوں
 کے سامنے مذہب کو نہایت تنگ و تلخ بنا کر پیش کیا گیا تاکہ مسلمان اکٹاہٹ کا شکار ہو کر اس
 روحانی قوت سے کٹ جائیں جو تیرہ سو سال سے ان کی سرخوئی اور افضلیت کا باعث بنی ہوئی
 تھی۔ ہر چند اس مکروہ تحریک کا آغاز جہادِ آزادی ۱۸۵۷ء سے قبل ہوا تھا لیکن تیرھویں صدی کے
 اواخر میں اور چودھویں صدی کے شروع میں یہ تحریک اپنی تمام تر کراہتوں اور خباثتوں کے ساتھ
 منظرِ عام پر آچکی تھی۔ خصوصاً ایک گروہ نے جو محمد بن عبدالوہاب نجدی کا پیروکار اور ہندوستان

میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کو اپنا سرگروہ تسلیم کرتا تھا۔ تقلید آئمہ اربعہ سے انحراف کرتے ہوئے فقہ کی اہمیت سے انکار کر دیا جس کی بنا پر شدید ترین شرعی اور فقہی اختلافات رونما ہو گئے۔ چنانچہ مختلف اعداء میں مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا نقی علی خان بریلوی، مولانا عبدالحی فرنگی علی، مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی، مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا فضل رسول بدایونی، قاری عبدالرحمن پانی پتی، مولانا رشاد حسین رامپوری، مولانا حاجی امداد اللہ بہا جرمکی، مولانا عبدالحق خیر آبادی، مولانا خیر الدین کلکتوی، مولانا عبدالقادر بدایونی، مولانا عبدالعلی آسی مدداسی، مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا حکیم برکات احمد ٹونکی، پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، مولانا غلام دستگیر قصوری، مولانا عبدالسمیع رامپوری اور مولانا وصی احمد محدث سورتی نے اس فتنہ کی سنگین کوششیں کرتے ہوئے علمی کاوشوں کا جال بچھادیا اور ہر ممکنہ وسائل کو بروئے کار لاکر عوام الناس کو اصولی مذہب سے روشناس کرایا۔ سامراجی حکمرانوں کی سرپرستی میں اٹھائے گئے تمام سوالات کا مفصل جواب دیا اور ان تمام عقائد باطلہ کا رد فرمایا جو اختلاف امت اور ترک مذہب کا باعث بن رہے تھے۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی نے جو درس حدیث کے ساتھ تصنیف و تالیف کی جانب کئی نکلے توجہ دیے تھے۔ اصول حدیث اور مسائل فقہ کو عام کرنے اور عوام الناس کو صحیح العقیدہ بنانے کے لئے متعدد مذہبی کتابوں پر حواشی لکھے اور مختلف مسائل پر فتویٰ رسائل کی صورت میں شائع کرائے۔ اور کذب و اختراع کی دیوار پر برابر کاری ضربیں لگاتے رہے۔

علم فقہ اور محدث سورتی

فقہ فی الدین ایک ایسا ضروری امر ہے کہ اس کے بغیر دینی امور کے مختلف پہلوؤں اور دنیاوی اعمال کی شرعی حیثیت کی مکمل وضاحت و صراحت ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ قرآن حکیم تمام مسلمانوں کے نزدیک خدائے مہربان و لایزال کی آخری کتاب۔ ایک متفقہ اور مشترکہ دستور العمل

اور اکمل و جامع نظام حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کا عمل اور قرآن حکیم میں بیان کئے گئے احکامات کی تشریحات نبوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے حجت تھیں لیکن اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد اسلامی ریاست کی وسعت فتوحات اور مختلف تمدنوں کے انضمام نے نئے نئے سیاسی سماجی و اجتماعی مسائل پیدا کئے اور پھر مجاہدہ کا عمل حجت قرار پایا۔ پھر تابعین کو یہ فضیلت حاصل ہوئی اور پھر تبع تابعین اس منصب پر فائز ہوئے اور فقہ اسلامی یعنی اسلامی قوانین کی تدوین کا عمل شروع ہوا۔ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد بن حنبل نے اس ضمن میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے فقہ اسلامی کی تدوین کا آغاز کیا اور یہ حضرت جو آئمہ اربعہ کہلاتے ہیں فقہی امور میں حجت قرار پائے ہر چند فردی مسائل میں ان کے ہاں آپس میں کچھ اختلافات موجود ہیں۔ لیکن بنیادی امور پر سب متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی برادری کی نمائندگی کا سہرا ہمیشہ آئمہ اربعہ کے مقلدین کے سر رہا۔ اور ان کے متبعین علماء ہر دور میں فقہ اسلامی کے لئے گراں قدر خدمات انجام دیتے رہے آئمہ اربعہ کی تقلید عام ہونے کے بعد جب ہر ایک امام کا مذہب و مسلک مستقل ہو گیا اور اجتہاد و قیاس کا دروازہ بند ہوا تو جزیئہ مسائل کے پیش آنے پر تفریح و تنظیر اور الحاق مسائل کی ضرورت پیش آئی تاکہ بغیر اجتہاد جدید متعلقہ امام ہی کے اصول و قواعد کے موافق مسئلہ پیش آمدہ کو کسی مسئلہ مقدرہ کے تحت میں لے لیا جائے اور ظاہر ہے کہ یہ توشیح و تطبیق کسی مذہب میں ملکہ راسخہ کے حصول کے بغیر ممکن نہیں اور یہی ملکہ راسخہ اسلامی قوانین پر فقہ کہلاتا ہے جبکہ صاحب فقہ کو فقہ کہتے ہیں۔

فقہ کے معنی شق اور فتح کے ہیں جیسا کہ علامہ زحشری نے حقیقتہً الفقہ میں درج کیا ہے کہ فقہ کی حقیقت تحقیق و تفتیش کرنا اور کھولنا ہے اور فقہ وہ عالم ہے جو فکر و تدبیر سے قوانین کے حقائق کا پتہ لگائے اور مشکل و منقہ امور کو واضح کرے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں فقہ کے معنی نیم و تدبر اور دین میں بصیرت و درک بیان کئے ہیں۔ ایک فقہ کے لئے ظاہری

علوم و فنون پر مہارت تامہ کے ساتھ دل و دماغ کی صفائی اور تزکیہ نفس بھی ضروری ہے۔ اُسے
انسانی نفسیات اور اپنے علاقے کے عوام کی مذہبی ضروریات کا ریزنشناس بھی ہونا چاہیے۔ علامہ
ابن عابدین نے لکھا ہے جو فقیہ اپنے زمانے کے لوگوں کے حالات اور ان کی مصلحتوں سے واقف
نہ ہو وہ عالم نہیں جاہل ہے۔

فقہ حدیث کا خمر ہے۔ بظاہر محدث اور فقیہ ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں لیکن دونوں
کا منصب اور طرز تحقیق ایک دوسرے سے مختلف ہے جیسا کہ محدث کامل حضرت علامہ اممش
نے ایک محفل میں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کی نکتہ رس اور بناوضی کا اعتراف ان الفاظ
میں کیا کہ: یا معشر الفقہاء نحن العطارون وانتم الاطباء یعنی اے فقیہو تم طبیب
ہو اور ہم عطار ہیں۔ مذکورہ قول سے جہاں فقیہ اور محدث کا فرق واضح ہوتا ہے وہاں اس
امر کی بھی وضاحت ہر جاتی ہے کہ اگر ایک محدث اپنے اندر فقیہ کی صلاحیتیں پیدا کر لے تو وہ طبیب
کامل اور حاذق بن جاتا ہے۔ ہر چند کہ فقیہ اور محدث کی طبیعت اور طریقہ کار میں فرق ہے
محدث روایت کا امیر ہوتا ہے اور فقیہ روایت کا سفیر لیکن روایت اور روایت
کے امتزاج سے جو شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ وہ عقل اور قلب کے آمیزہ سے پیدا
ہونے والی فہم و فراست کا مجسم نمونہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش
میں اکثر محدثین فقیہ کے مرتبہ پر نہ صرف فائز ہوتے بلکہ اپنی طموس صلاحیتوں کی بنا پر
دونوں حیثیوں میں بقلے دوام کو پہنچے۔ درحقیقت فقہ اسلامی ہمارے عظیم الشان تمدن
کا ورثہ ہے کیونکہ کسی تمدن کی قدر و قیمت کا اندازہ اُس کے قانون سے لگایا جاسکتا ہے۔
اگر قانون میں انسانی وقار اور آزادی کی ضمانت موجود ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ تمدن بھی
ان ہی اصولوں کا آئینہ دار ہوگا۔ قانون مرتب کرنے والوں کے درمیان اختلافات باعث
برکت ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح قانون کو وسعت نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ مسلمان فقہاء کے درمیان بعض مسائل میں شدید اختلاف کے باوجود ان میں کسی قسم کا

باہم تکدر واقع نہیں ہوا۔ فقہائے سابقین کا اختلاف اخلاص پر مبنی ہوتا تھا۔ اور وہ اس
بنیادی اصول سے اچھی طرح واقف تھے کہ فقہ ہر ماہ جہاد اس کے لئے دین میں کسی چیز کا اضافہ
نہیں ہوتا بلکہ ان ہی چیزوں کا ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جو انصاف یعنی وحی و نبوت کی معلومات
پر مشتمل ہیں۔ یہاں ایک مرتبہ پھر بات وہیں پہنچ جاتی ہے کہ وحی و نبوت کی معلومات پر مشتمل
قوانین کا بہترین استخراج وہی شخص کر سکتا ہے جو بیک وقت قرآن و حدیث پر نہ صرف
گہری نظر رکھتا ہو۔ بلکہ اجتہادی قوت بھی اُس کے اندر بدرجہا تم موجود ہو۔

برصغیر میں مسلمانوں کی آمد اور افزائش کے بعد جو تمدن سامنے آیا وہ اپنے دامن میں
ایسی برائیاں لے ہوئے تھا جو اسلامی معاشرہ اور خصوصاً مسلمانوں کے عقائد کے لئے سم
قاتل کا درجہ رکھتی تھیں۔ چنانچہ تشکیک کی اس فضا میں مسلمانوں کو اسلام کی اصل روح
سے متعارف کرانے بدعات شنیعہ اور عقائد باطلہ سے بچانے کے لئے علمائے عظام اور
فقہائے کرام نے جو خدمات جلیلہ انجام دیں ان کے بیان کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔
انہوں نے ہر قسم کی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر حق گوئی اور بیباکی کا مظاہرہ کیا۔ اس سلسلے
میں دارورسن کی صعوبتیں برداشت کیں۔ امتدادی مقاطعہ کا نشانہ بنے۔ مگر حق کو عام
کرنے سے گریز نہیں کیا۔

۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی کے بعد برصغیر میں جن فقہائے کرام نے اپنے منصب سے
وفا کی اور عوام الناس کو فروعی مسائل کی الجھنوں سے نجات دلانے کے لئے اپنی خدمات وقف
کر دیں ان میں مولانا وصی احمد محدث سورتی کا اسم گرامی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ بی بی بی
وقت پائے کے محدث اور اعلیٰ درجے کے فقیہ کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے
کہ کتب احادیث کے حواشی اور کتب فقہ کی شرح پر بیک وقت آپ نے کام کیا اور
ان کے مطالعہ سے آپ کی نکتہ رسی و علم و ادراک پر نمایاں روشنی پڑتی ہے
مولانا وصی احمد محدث سورتی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے اس

لئے آپ مسائل پر غور و فکر میں فقہ احنفہ کو حجت تسلیم کرتے تھے۔ ویسے بھی امام ابوحنیفہؒ کو علم فقہ کا امام اعظم تسلیم کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب خیرات الحسان میں امام شافعیؒ کا ایک قول اُن کے شاگرد ربیع بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ جس شخص نے امام ابوحنیفہؒ کی کتابوں میں نظر نہیں کیا وہ علم فقہ میں تبحر حاصل نہیں کر سکتا۔

محدث سورتی نے ۱۲۸۵ھ سے مدرسہ فیض عام لاہور میں فتویٰ لزیسی کا آغاز کیا اور یہ سلسلہ تادم آؤ یعنی ۱۳۳۳ھ تک جاری رہا۔ اس لحاظ سے آپ نے تحریر افکار کا فریضہ تقریباً پچاس برس تک انجام دیا۔ آپ کے محررہ فتاویٰ کے جمع اور ضبط کرنے کا ابتداء سے کوئی اہتمام نہ ہو سکا جس کی بنا پر کوئی جامع مجموعہ فتاویٰ منظر عام پر نہیں آسکا البتہ رسائل کی صورت میں آپ کے بیشتر فتاویٰ شائع ہو چکے ہیں۔ پٹنہ سے تحفہ حنفیہ کے اجراء کے بعد مولانا ضیاء الدین پبلی بھیتی نے جو محدث سورتی کے ارشد تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے فتویٰ کی نقل کو تحفہ حنفیہ میں شائع کرانا شروع کیا لیکن یہ سلسلہ بھی تادیر یوں قائم نہ رہ سکا کہ قاضی عبدالوہید عظیم آبادی نے جو تحفہ حنفیہ کے مالک و مدیر تھے مولانا ضیاء الدین کو اس رسالہ کی ادارت کے لئے پٹنہ بلا لیا۔ بعد میں کچھ تلامذہ نے جن میں ابوسراج مولانا عبداللہ علی پبلی بھیتی، مولانا امجد علی اعظمی اور مولانا محمد فضل حق رحمانی شامل تھے محدث سورتی کے فتاویٰ جمع کرنا شروع کئے اور رسائل کی صورت میں اظہار شریعت کے نام سے کئی حصوں میں شائع کئے۔ راقم الحروف نے محدث سورتی کے مطبوعہ فتاویٰ بعد تلاش و جستجو جمع کئے ہیں۔ پبلی بھیتی کے بھی کئی اصحاب نے جن میں مولانا افتخار ولی خان سر فہرست ہیں کچھ فتویٰ فراہم کئے جو بہر حال اب کتابی صورت میں شائع ہو سکتے ہیں۔ یہاں حضرت محدث سورتی کے چند فتویٰ نذر قارئین کے جا رہے ہیں۔ انشاء اللہ کسی موقع پر تمام فتویٰ کو مجموعہ کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا۔

فتاویٰ

از سید بشارت علی۔ گونڈہ۔ شوال ۱۳۱۹ھ

سوال ۱۔ زید نے باوجود نہالتس و سہلنے کے کئی بار یہ کلمات کہے کہ نعوذ باللہ جملہ انبیاء علیہم السلام گناہ میں مبتلا رہے اور انہوں نے گناہ کیا اور جھوٹ بولا جب زید نے کلمات مذکورہ الصدور بار بار یہ تکرار کیے اور اس سے کہا گیا کہ ہرگز ہرگز ایسا نہ کہو تمام انبیاء علیہم السلام پاک اور معصوم ہیں تو پھر اس نے یہ کہا کہ اچھا انبیاء کرام تو معصوم ہیں مگر اور جو مخلوق ہے سب نے گناہ کیا اور گناہ میں مبتلا رہے اور یہ بھی کہا کہ ہم کسی کو قطعی جنتی نہیں کہہ سکتے چنانچہ زید سے کہا گیا کہ یہ بھی تم نے بالکل خلاف کہا کیونکہ اصحاب کبار اور عشرہ مبشرہ و شہداء و صالحین وغیرہ وغیرہ کی نسبت حدیث شریفہ و قطعی قرآنی جنتی ہونے کی موجود ہے اور اکثر اشخاص مادر زاد ولی اللہ ایسے ہوئے ہیں کہ کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ اور تمام عمر یاد الہی میں صرف کی ہے اور اسی پر اُن کا خاتمہ ہوا۔ لیکن زید مذکور نے ہرگز نہالتس و سہلنے کا خیال نہیں کیا اور برابر کلمات مذکورہ بالا کہتا رہا اور زید حافظ کلام اللہ ہے۔ اور اردو فارسی کی کتابیں جن میں کہ مسائل وغیرہ مندرج ہوتے ہیں خریدتا بھی ہے اور متفرق مسائل بھی علماء سے استفسار کرتا رہتا ہے پس جس شخص کی ایسی گفتگو اور خیالات ہوں اُس کی نسبت شرع میں کیا حکم ہے۔ اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟

جواب ۱۔ رب زدنی علما صورت مستفسرہ میں زید ضرور گمراہ بدوین ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت جو کلمات کہ اُس نے کہے ہیں وہ صریح کلمات توہین ہیں۔ ان کا حکم تبصریح فقہائے کرام و محدثین عظام کفر تک پہنچتا ہے مگر از انجی کہ سوال میں اُس سے لفظ مشرک و جوع منقول ہے حکم کفر سے بچ گیا پھر بھی اُس کے بدعتی گمراہ بدوین ہونے میں شک نہیں۔ قطعاً

وہ بد مذہب و فاجر از دائرہ اہل سنت و جماعت و داخل زمرہ جہنمیان ہے۔ حضرات
عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قطعی جتنی ہونا تمام اہلسنت کا عقیدہ قطعیاً جماعیہ ہے
اور اس کا مخالف گمراہ بددین ہے اور اس کے پیچھے نماز ممنوع علی ما صرح بہ فی
التبیین والغنیۃ، وفتح اللہ العین وامداد الفتاح والحاشیۃ الطحاوی
علی الدر المختار وورد المختار۔

سوال :- کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین ان مسائل میں۔

۱۔ بہت چھوٹی حائل کا تعویذ بنا کر لڑکوں کے گلے میں لٹکانا جائز ہے یا نہیں اور خلاف
ادب ہو گا یا نہیں؟

۲۔ گیارہویں شریف ہمارے مرشد پیران پیر کی کرنا تو جائز ہے لیکن خواتین کا اجتماع
کرنا یا چنڈہ جمع کرنا جائز ہے یا نہیں؟

۳۔ بعد نماز وتر کے لوگ ایک سجدہ شکر کا کرتے ہیں اور سجدے میں جا کر دعا مانگتے ہیں کیا
یہ صرف ایک سجدہ کرنا اور دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب :- ۱۔ رب زورنی علما قرآن عظیم کو اتنا چھوٹا لکھنا مکروہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حائل لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ ابو بکر بن ابی شیبہ اور

غنیۃ المستملی میں ہے۔ دیکر لا تصغیر المصحف و کتابہ بقلم دقیق لاف ذیہ
شبہتہ التحقیق الخ۔ یعنی مکروہ ہے چھوٹا کرنا قرآن شریف کا اور لکھنا اوسکا
باریک قلم سے اس لئے کہ اس میں شبہ حقارت کا ہے۔ نہ کہ اتنے چھوٹے چھوٹے
تعویذ کہ اس میں صریح کم وقتی اور دین میں بے قدری کا باعث ہے پھر بے تمیز بچوں کے
گلے میں ڈالنا ضرور اسے اہانت کیلئے پیش کرنا ہے اس سے احتراز چاہیے۔

۲۔ نیاز مبارک سر پابریکت و سعادت ہے اور اس کے لئے لطیب خاطر ضیہ ہونے
میں بھی کوئی حرج نہیں مگر نا محرم خواتین کا اجتماع جو موجب فتنہ اور صورت لہو ہے

اس سے احتراز ضروری ہے۔

۳۔ اس سجدہ کے بارے میں ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے جسے علمائے موضوع
فرمایا ہے اور اس پر عمل سے ممانعت کی ہے۔ مکافی الخامتہ من الغنیۃ شرح
المینیۃ للعلومتہ الجلی والذی اللہ تعالیٰ اعلم حررہ العبد الفقیر الی اللہ
القدید وصی احمد المنیف الحنفی السننی فضل رحمانی۔

سوال :- مرسلہ گونڈہ ماہ شوال ۱۳۱۹ھ

کتاب مالا بد مذہب مصنفہ قاضی ثار اللہ صاحب پانی پتی مستند ہے یا غیر مستند ہے۔
اور جو ان میں کلمات کفریہ کا ترجمہ لکھا ہے وہ صحیح ہے یا ان میں تشدد دیکھا ہے اور اگر تشدد
کیا ہے تو کن کن مسائل میں ہے۔ آیا ان مسائل میں کہ جو انبیاء علیہم السلام کی شان میں
کوئی بد بخت کلمات کہے یا دیگر مسائل میں مفصل ارقام ہو۔

جواب :- رب یسوی امری۔ مالا بد مذہب عام کتب مسائل کی طرح ہے جو متاخرین

نے تصنیف کی ہیں۔ بعض مسائل کا خلاف تحقیق ہونا ساری کتاب کو نا مستند نہیں کرتا۔
و جب تعظیم نبیاء کرام ان کی اہانت کفر ہونے کے بارے میں یہ اس قسم کے مسائل ترجمہ

مذکور میں لکھے ہیں۔ مسئلہ اگر کسی اہانت پیغمبران کرد کا فرشد اور اس کے بعد کا مسئلہ
کہ ماہمہ جولائی کانیم اور مسئلہ مرد سے گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنان

میکرد و دیگر گفت کہ اس بے ادبی امت کا فرسوز۔ مسئلہ ہر ملعون کہ در جناب پاک
سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشنام دہد۔ یا اہانت کند یا در امر سے از امور

دین او یا از صورت مبارک او یا اور صفیہ از اوصاف شریفہ او عیب کند اگر چہ از راہ
ہزل کردہ باشد کافر است۔ واجب القتل و اجماع امت بر آن است کہ بے ادبی

و استخفاف ہر کس از انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کفر است۔ خواہ فاعل او حلال

دائستہ مرتکب شود یا حرام۔ قطعاً و یقیناً یہ سب مسائل حق ہیں ان میں اصلاً تشدد کو راہ نہیں۔

سوال :- زید اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے مگر اُس کے حالات و عقائد یہ ہیں کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور نفس مزبور کو اچھا نہیں جانتا۔ اور نفسِ عرس اولیاء اللہ کو بھی برا کہتا ہے۔ اور آمین بالجہر کہنے کو اور سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے اور رفع یدین کرنا واجب جانتا ہے اور اُن علمائے غیر مقلدین کو کہ جنہوں نے اپنی تصنیفات میں تمام مقلدین کو مشرک بدعتی جاہل بلکہ کافر لکھا ہے کل علماء مدغیرہ مقلدین پر ترجیح دیتا ہے اور اُنکی یعنی غیر مقلدین کے اتقا پر سبزی گاری کی تعریف کرتا ہے اور غیر مقلدین کو بالظاہر قسم کی مدد دیتا ہے تو ایسے شخص کو مقلد سمجھا جائے یا غیر مقلد اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟

الجواب :- رب ارزقنی الفقہ، کما رزقتنی الحدیث۔ صورتِ مسؤل عنہا میں زید قطعاً وہابی بلکہ کٹر غیر مقلد ہے اور اُس کے پیچھے نماز ناجائز اور اُسکی صحبت اور مجالست سے احتراز ضروری شرعی کہ صحبت اُس کی ایک بددین کی صحبت ہے چنانچہ بعض اہلہ ائمہ کے کلام میں یہ امر مصرح ہے نفس مجلس میلاد مبارک و نفس اطراس اولیائے کرام کو برا کہنا تو ظاہر ہے کہ اُن ہی اصولِ مذکورہ وہابیہ پر مبنی ہوگا اور سورہ فاتحہ خلف الامام کا ایجاب یا وصف ادعائے حنفیت ضرور غیر مقلد ہی بلکہ تبصریح حضرت شیخ مجدد الف ثانی کے الحاد ہے اور آمین بالجہر و رفع یدین کو واجب کہنا تو صراحتاً ہی شریعت اپنے دل سے ایجاد کرنا ہے۔ تمام عالم میں کوئی عالم اُن کے وجوب کا قائل نہیں تو زید ضرور خارقِ اجماع و مفر علی الشرع ہے۔ تمام مقلدین ائمہ کو مشرک اور کافر کہنے والا جنہوں نے صریحاً احادیث صحیحہ و اتفاق ائمہ فتویٰ کافر اور جو ایسے لوگوں کو علمائے مقلدین پر ترجیح دے اور اُن کا مدح اور معتقد ہو خود اُس کی مثل ہے۔ اس صورت میں تو اس کے پیچھے

نماز ممنوع ناجائز ہو نا درکنار مطابق حکم ظاہر احادیث صحیحہ و ارشادات فقہائے کرام محض باطل ہے۔ حرور العبد المسکین المتشبهت بذیل سید المرسلین وصی احمد الحنیفی المنفی الستمی والذی لا یحیی عنہ شرک غیبی وغوی۔

سوال :- کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ملک برہما شہر مانڈلے میں دو فریق ہیں ایک کہتا ہے کہ بغیر خراب کے اور کسی جگہ امام کو امامت کی وقت نہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر گرمی یا کسی سبب سے صحن میں وسط صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا تو بیعت چھوڑ دینے خراب کے نماز مکروہ ہوگی۔ فریق ثانی کہتا ہے کہ بیشک امام کو خراب میں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن بیعت گرمی یا کسی اور سبب کے وسط صف میں کھڑا ہو کر امامت کرے گا تو بغیر کراہت جانتے ہے کیونکہ امام کا وسط میں کھڑا ہونا کتابوں میں آیا ہے اور صحن مسجد کو حکمِ سجد کے ہے۔ اس مسئلہ کو بحوالہ کتب حدیث و فقہ حل فرمائیں۔ بنیوا توجروا۔

الجواب وهو ملہم الحق والصواب۔

رب زدنی علماً و ارزقنی فقہاً۔ فریق ثانی کا قول حق بالا بتاع الحق عند العاقل ہے اور فریق اول کا مقولہ عمل عاقل اور محض باطل ہے اس واسطے کہ اصل حکم شرعی اور حکم فرعی یہ ہے کہ امام کسی طرف مائل نہ ہو بلکہ محاذات وسط صف میں کھڑا ہو۔ سرور عالم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو سطوا الامام و صدوا الخلل اخرجہ الامام البوداؤد من حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صف کے بیچ و بیچ میں کر دو تم امام کو اور عین وسط صف کی برابر ہی میں اُن کو کھڑا کرو اور بند کر دو تم صف کی کشادگی اور فرجات کو اور مل کر کھڑے ہو تم تاکہ شیطان عین کے لئے صف میں کھڑے ہونے کے لئے گنجائش نہ دے اور وہ مردود بسبب

بجارت کے دوسرے اندازی کی طرف راہ نہ پائے۔ فان الشیطان یدخل فیما بینکم
بمنزلة الخذف اخرجہ الامام الراجل الامام احمد رحمۃ اللہ فی مسندہ
الشریف من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی سے ہمارے فقہائے
کرام امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی روایت و کاتب سے حکایت کرتے
ہیں کہ السنۃ ان یقوم الامام ازاو وسط الصف جیسا کہ وہ معراج وغیرہ میں
مصرع اور کتب حاصلان شریعت صاحب معراج میں متفق ہے اور محرابوں کی بنا جو
ڈالی گئی تو صرف اس لئے کہ وہ نشانی ہوں محل قیام امام کیلئے تاکہ وسط صف کی قیام
میں خفا و اشتباہ نہ رہے۔ اور تکمیل سنت تو وسط میں وقت نہ ہو۔ اور اُس کے محازات
میں کھڑے ہونے سے وسط صف کا پایہ بالا ہو۔ لان المحراب انما بنی علامۃ
لمحل قیام الامام لیکون قیامہ فی وسط الصف کما هو السنۃ قالہ سیدنا
العلامۃ محقق المتأخرین ابن العابدین فی رد المحتار۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے
کرام امام ہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام کے لئے سنت یہ ہے
کہ محراب کے محازات میں کھڑا ہوتا کہ تعادل اور تامل نہ ہو۔ دونوں طرف سے مقتدی
برابر ہوں اور طرفین امام میں کسی طرف کم بیش نہ ہوں چنانچہ مبسوط بکر رحمۃ اللہ
میں ہے کہ السنۃ ان یقوم فی المحراب لیعتدل الطرفان۔ اور جب یہ امر
پایہ ثبوت کو پہنچا کہ محازات محراب مقصود لذاتہم نہیں بلکہ ذریعہ اور وسیلہ ہے واسطے
تکمیل مقصود اصلی کے کہ وہ تو وسط ہے تو محازات محراب میں جہی تک امام کھڑا ہوگا کہ
اُس سے مقصود اصلی فوت نہ ہو ورنہ محراب کو چھوڑنا ہوگا۔ اور اصل مقصود کا جو توسط
ہے ہاتھ میں لانا اُس کو ضرور ہوگا مثلاً مسجد صیغی یعنی گرمیوں میں نماز پڑھنے کی مسجد جو
غیر پٹی ہوئی ہوتی ہے اور نماز صحن ہو تاکہ مسجد تشوی کے پہلو میں ہو جو سردی میں نماز
پڑھنے کے لئے پٹی ہوئی ہوتی ہے اور چاروں طرف سے اُس میں ہوا اور سردی کی خفا

ہوتی ہے پس ایسی صورت میں جب نمازی کثیر ہو جائیں حتیٰ کہ اُس میں سما نہ سکیں
تو امام کو چاہیے کہ محراب کو چھوڑ دے اور جانب دیوار میں کھڑا ہو تاکہ مقتدی دونوں طرف
سے برابر ہو جائیں اور حدیث تو سطو الامام کے خلاف کار بند نہ ہونے پائیں بسیدنا الحدیث
النبیہ والفقہہ الوجیہ محقق ابن العابدین عازیا الی معراج فرماتے ہیں۔ ولو کان المسجد
لصیغی یجنب الشوی واملا المسجد ليقوم الامام فی جانب الحائط لیستوی
القوم من جانبہ انتہی کلامہ الشریف۔ پھر حکم کہ امام محازات محراب میں کھڑا
ہو علی الاطلاق والعموم اور ہر امام کے لئے نہیں بلکہ اُس امام کے لئے ہے جو بڑی جماعت
کا امام ہو جس کو امام راتب کہتے ہیں اور جو بڑی جماعت کا امام نہ ہو۔ اور چند اشخاص کی امامت
کرتا ہو۔ تو وہ نماز ہے چاہے وہ محازات محراب میں کھڑا ہو خواہ محراب سے الگ کھڑا ہو بشرطیکہ
واجب سنت تو وسط ہو۔ امام شامی بعض ائمہ فقہ سے نقل کرتے ہیں کہ: السنۃ ان یقوم
الامام ازلو وسط الصف الا تری ان المتعازیب ما نصبت الا وسط المسجد
وہی قد عینت للمقام الامام۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں۔ والظاهر ان ہذا فی الإمام
الراتب لجماعۃ کثیرۃ لتسلا یلزم عدم قیامہ فی الوسط فالولم یلزم ذلک
لا یکرہ۔ اور جب یہ محقق ہو کہ امام ہا ہا اور اس کا ہے کہ وسط صف میں کھڑا ہو محراب کے محازی
ہو یا غیر محازی اور خاص کر محراب ہی میں کھڑے ہونے کا اُس کو حکم نہیں تو اگر صحن مسجد میں جس
کو مسجد صیغی یعنی گرمیوں کی مسجد کہتے ہیں جو صحن مسجد ہے نہ حکیم مسجد میں ہے۔ امام وسط صف
میں کھڑا ہو کر نماز پڑھا کرے تو بیشک مقیم سنت ہوگا اور شائبہ کراہت سے بالکل بری
ہوگا۔ علاوہ برآن فرض فقہیہ بکثرت اس کے مثبت بخلاف اُن کے کلام صاحب معراج
کا ہے۔ جس کو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اور گواہیات مدعا کے لئے یہی کافی ہے اور عاقل فہم کی تسکین
کے واسطے کافی ہے لیکن بطور مشتمل نمونہ از خردارے دو قول اور بھی ہم درج کئے دیتے
ہیں۔ رد المحتار میں ہے۔ السنۃ فی سنۃ الفجر ان یاتی بھانی بیتہ والافان کان عند

باب المسجد مکان صلاہا فیہ والاصلاہا فی الشتر فی أو الصیفی ان کان
 للمسجد موضعان الخ اور حافظ حدیث شیخ الاسلام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ،
 عمدۃ القاری شرح صحیح امام بخاری میں تحریر فرماتے ہیں فی الذخیرۃ السنۃ فی سنۃ
 النجیران یاتی بھما فی بیتہ فان لم یفعل فعند باب المسجد اذا کان الامام
 یصلی فیہ فان لم یکنہ ففی المسجد الخارج اذا کان الامام فی المسجد
 الداخل و فی الداخل اذا کان الامام فی الخارج۔ یعنی فجر کی سنتوں میں سنت
 طریقہ یہ ہے کہ آدمی گھر ہی سے پڑھ کر آیا کرے اور جو کسی نے گھر میں نہیں پڑھیں اور جماعت
 ہو رہی ہو تو مسجد کے دروازے پر پڑھے اور جو دروازہ میں کوئی جگہ قابل نماز پڑھنے کی نہ ہو
 تو امام اگر اندر مسجد کے نماز پڑھا رہا ہو تو مسجد کے صحن میں پڑھے اور جو امام صحن میں نماز
 پڑھا رہا ہو تو مسجد کے اندر نہیں نہ پڑھے اور جس جگہ امام پڑھا رہا ہو اسی جگہ سنت نہ
 پڑھے کہ مکروہ ہے ظاہر ہے کہ جب امام صحن مسجد میں نماز پڑھا رہا ہو تو محراب میں کھڑا
 ہونا کیوں کر ہوگا۔ اور نیز بعض احادیث مرفوعہ سے بھی یہ مضمون مفہوم ہوتا ہے نمازات
 محراب امر ضروری نہیں۔ معانی الآثار شریف اور بخاری شریف میں زید بن ثابت رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور لفظ بخاری شریف کا ہے کہ ان رسول اللہ صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتخذ حجرا قال حسبت انہ قال من حصی فی رمضان
 فصلی فیہا لیاالی فصلی بصلواتہ ناس من اصحابہ الحدیث اور امام محمد بن
 الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
 راوی واللفظ ایضاً بخاری۔ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلی
 اللیل فی وجہ الحجر قصیرۃ فرأی الناس شخص النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 فقام ناس من اصحابہ یصلون بصلواتہ الحدیث ومن طریق آخر فی البخاری
 عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان لہ

حضیر سبسط بالنہار و یحججہ باللیل فتأب الیہ ناس ففعلوا و رادۃ۔
 اور سو اس کے حدیثیں بھی ہیں جو تعلق الجملی شرح منیۃ المصلیٰ میں درج ہیں۔ اور کتاب
 مذکور مطبع یوسفی واقعہ فرنگی محل میں محلات لکھنؤ میں طبع ہوئی ہے طالب تحقیق کو چاہیے کہ
 اس کو منگا کر مطالعہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتمہ و احکم۔

حررہ العبد المسکین المتشبث بذیل شفاعۃ سید المرسلین خاتم
 النبیین الذی اعطاه علم الاولین والآخرین وجعلہ خازن علم المکنون
 و رفع لہ الدینا فهو یبصر الیہا والی ما ہو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کا نما
 ینظر اکنفہ کما ہو الخرج عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عند الطبذانی
 منیرہ المخرجین وصی احمد الحنفی الحنفی السنی کان اللہ جماعہ عن شرمین
 یتبغی الفساد فی الدین (رحمۃ دوئم اظہار شریعت ص ۱۱۱)

سوالات مرسلہ مولوی حبیب اللہ امام جامع مسجد حافظ جمال صاحب
 واقع ڈیرہ اسماعیل خان سرحد کا بل وزیرستان

سوال ۱۔ ایک شخص نے درمیان ذکر امور محدثہ کے کہا کہ روضہ مقدسہ حضور پر نور صلی اللہ
 علیہ وسلم کا بدعت ہے اور مردارہ کی طرح واسطے ضرورت لقب مباح و مشروع
 ہوا ہے اگر خوف لقب ثابت ہوتا تو اس کا بنانا بھی ہرگز درست نہ ہوتا اس
 شخص کا قول درست ہے یا غلط بر تقدیر غلط اس کے واسطے سنزلے شرعی کیا ہے۔

جواب:۔ شخص مذکور کا قول محض باطل اور قائل ایسے قول کا عقل و دین سے بالکل
 بے بہرہ اور عاقل ہے روضہ منورہ مطہرہ علی صاحبہا الوف الصلوات الباہرہ
 والتسلیمات الزاھرہ کزمانۃ البین سے شکل روضہ بنا لیا گیا۔ جسے اب تک تمام
 علماء و اولیاء کا قبلہ گاہ و موضع و عا و التجار ہا زہار کسی طرح سے بدعت نہیں
 ہو سکتا۔ اور مردار سے تمثیل کا لفظ ناپاک یعنی صرف لفظ مردار جس کی زبان

بے باک سے نکلے سخت شدید شنیع قبیح تخریر کا مستحق والعداب الآخرة اکبر لوکانو
البعیہون اور اگر معنی حقیقی اس لفظ سے مراد ہوں تو قائل کے ایمان پر بھی حرف ہے
والعیاذ باللہ حجاج نے کچھ لوگوں کو روزنہ مطہرہ کے گرد طواف کرتے دیکھا تو کہا۔ انہا
یطوفون بااعواد ورمۃ علماء نے اس پر حکم کفر دیا نقلہ العلامة الزرقانی فی
شرح المواہب اللدنیہ عن الکامل للمبرور۔

سوال :- حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا من البعید جائز ہے یا
ناجائز بہر تقدیر کس قسم کا ندا جائز اور کس قسم کا ندا ناجائز اور ہم سب کے ندا کو
آپ ہر وقت سنتے ہیں یا نہیں اور ہمارے احوال و اقوال کا علم آپ کو ہر وقت حاصل
ہے یا کسی خاص وقت میں بواسطہ نملک یا بلا واسطہ وبالذات مستقل طرح سے اولہ
صمیم سے بخط واضح ارشاد فرمائیے کہ مطلب بخوبی حاصل ہو۔

جواب :- حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا من البعید جائز ہے حدیث حضرت عثمان
بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا امام ترمذی و امام طبرانی وغیرہما اجلہ آئمہ نے
تصحیح کی ہے اُس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کریم سے ایک نابینا
کا اپنی دعا کا عرض کرنا اللہم انی استلک والوجه الیک نبی محمد بنی
الرحمۃ یا محمد انی التوجہ الیک الی ربی۔ اور عثمان بن حنیف رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی تعلیم سے زمان خلافت امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ میں ایک حاجت مند تابعی کا اپنی قفلے حاجت کے لئے پڑھنا مذکور ہے۔
و نیز حدیث اذا راد عونا فلینادیا عباد اللہ اعیتونی باعباد اللہ اعیتونی
کہ مروی ابن السنی ہے اور دونوں قدیم سے معمول مقبول علمائے دین ہیں اس کی سند
کے لئے کافی ہیں ندا باعتبار لفظ منادی دو قسم ہیں۔ ندا باوصاف کریمہ مثلاً یا رسول اللہ
یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ یہ باتفاق جائز ہے۔ دوسرے ندا بعلم اکرم یعنی یا محمد یا احمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں اعلام طیبہ سے اول اور آخر اگر کوئی کلمہ تعظیم نہ ہو

تو غیر مروی میں ضرور ناجائز و حرام۔ قال اللہ تعالیٰ ولا تجلوا دعاء الرسول کدعاء
بعضکم بعضاً۔ اور مروی میں جس طرح حدیث مذکور اول بعض نے نظر یا تباع اثر اجازت
دی اور راجح یہ ہے کہ وہاں بھی یا رسول اللہ و امثالہ سے تبدیل کرنے اور اگر اول و آخر
کلمات تعظیمیہ ہیں تو بعض نے مطلقاً اجازت دی اور راجح یہ ہے کہ اب بھی ممنوع ہے
احتیاط اسی میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف باوصاف کریمہ ہی ندا
کرے تاکہ بالاتفاق جائز ہو۔ افادہ الامام احمد بن محمد الخطیب العسقلانی
فی المواہب والعلامة احمد الشہاب الحفاجی فی النسیم وغیرہما رحمہم
اللہ تعالیٰ۔ اور ندا باعتبار جواب دو قسم ہے اول وہ کہ تو سل میں نفس صریح ہو مثلاً یا رسول
اللہ حضور میری شفاعت فرمائیے۔ یا رسول اللہ حضور اپنے اس غلام کے حق میں دعا فرمائیے
یا رسول اللہ حضور میری حاجت اپنے رب سے عرض کریں یا رسول اللہ حضور میرے کام
اپنے مولیٰ سے بنوادیں۔ یہ باجماع جائز ہے۔ دوسرے وہ کہ خود حضور سے طلب حاجت ہو
مثلاً یا رسول اللہ حضور میری مراد عطا فرمائیے۔ یا رسول اللہ حضور میرا کام بنا دیں یا رسول
اللہ حضور میری حاجت روا فرمائیے۔ یہ کلمات جب زبان مومن سے صادر ہونگے قطعاً معنی
تجوڑ اور توسل پر عملی ہونگے۔ کہ اُس کا ایمان ہی اس پر قرینہ قاطع ہے جس طرح موحّد
کا انبت الريح البقل کہنا کما لا یخفی علی من له ادنی مسکة بالمعانی والبیان۔
ان الفاظ کو خدا نخواستہ معانی حقیقیہ پر عمل کرنا بلا وجہ قلب پر حکم لگانا اور مومن کے ساتھ
اسات ظن اور ناحق ناروا مسلمان کو کافر بنانا ہے۔ وہاں یہ خذ لہم اللہ تعالیٰ اسی کے
عادی و بادی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل سنت کو اس ضلالت سے مضمون اور اس غرابت
سے مامون رکھے۔ آمین یا رب العالمین بحر متہ حبیبک خاتم النبیین۔ ہاں اگر کوئی شخص
تصریحاً اپنا عقیدہ ظاہر کرے کہ وہ کسی غیر خدا کو مالک مستقل و معطی بالذات اور بے
عطلے الہی قاضی حاجات جانتا ہے تو وہ ضرور کافر و مشرک ہوگا۔ بجد اللہ تعالیٰ کلمہ گویں

میں اس کا احتمال بھی نہیں۔ افادہ کل ذلك الامام خاتمة المحدثين تقي الملة
والدين علي بن عبد الكافي السبكي رحمه الله تعالى في شفاء السقام سيد
عالم صلى الله تعالى عليه وسلم کو حضرت حق عزوجل نے سمع و بصر و علم محیط مابین
المشرق والمغرب و حاوی مابین السموات والارض عطا فرمائے ہیں۔ جامع ترمذی
شریف میں حدیث ہے اتی امرنی مالا ترون واسمع مالا تسمعون اطت السماء
و حق لها ان قاط۔ میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اور سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے
ہو۔ آسمان چرچرایا اور سزاوار ہے اسے یہ کہ چرچرائے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ
والله انی لاری حوضی الا ان۔ خدا کی قسم میں بیشک اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا
ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے۔ فتجلی لی کل
شیء۔ ہر چیز میرے لئے روشن ہے۔ طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت
کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان الله رفع لی الدنيا فاذا انظر اليها
والی ما هو کائن فیها الی یوم القیامة کأنما انظر الی کفی هذه۔ بیشک اللہ سبحانہ
و تعالی نے میرے لئے دنیا کو اٹھادیا تو میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونیوالا ہے
سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو ابو عمران عبدالبر و غیرہ کی حدیث میں ہے
ان الله وکل بقبری ملکاً اعطاک اسمع الملائق۔ بیشک اللہ نے میرے مزار مبارک
پر ایک فرشتہ متعین کیا ہے جسے تمام جہان کی آوازیں سننے کی قوت بخشی ہے جہاں کہیں
کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں
حضور پر درود عرض کرتا ہے۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ آسمان زمین میں پانچ سو برس
کی راہ کا بعد ہے اور جنت کا فاصلہ تو اللہ ہی جانتے۔ جب پانچ سو برس کی راہ سے آسمان
کے چرچرائے کی آواز سننے ہیں اور ہزاروں برس کی راہ کے فاصلے سے اپنے حوض
مبارک کو نظر فرما رہے ہیں۔ تو روئے زمین پر کوئی شہر کتنے ہی فاصلے پر ہو۔ مدینہ طیبہ

سے چند سال کی راہ کے بعد پر بھی ہوگا ایسے پاک و مبارک سمع و بصر کے آگے تمام دنیا کی
چیزیں اور آوازیں خواہ غراہ چلاسیا ہوا چاہیں جیسے پیش پا افتادہ اور اس میں معاذ اللہ
سمع و بصر الہی سے تو ہم لساوی نہ ہوگا مگر نرسے مجنوں یا اُس بے دین کو جو اللہ کی قدر نہیں
جانتا و ما قدر واللہ حق قدرہ سمع و بصر الہی ازلی و ابدی واجب الذات
واجب البقا مستحیل التغیر غیر متناہی و غیر محدود میں اور ازل سے ابد تک کے تمام
اشیاء کو شامل و محیط۔ پھر بطلان الہی محبوبان خدا خصوصاً سیدہ الجویین صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کو سمع و بصر محیط تمام اشیا کے دنیا ملجانا کیا بعید و مستلزم مساوات
ہو سکتا ہے جیسا کہ اُس فرشتے کی نسبت خود حدیث ہی میں ارشاد ہوا کہ اُس کا سمع
خلائق کو محیط ہے۔ اشیا کے خارجہ تو درکنار آئندہ دین نے تو یہاں تک تصریح فرمائی
ہے کہ اُمت کے دلوں میں جو خطرے گزرتے ہیں جو ارادے پیش آتے ہیں اُن سب پر
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلع ہیں اور فرمایا ہے۔ وکل ذلک جلی
عندک لاخفاء بہ اور اس کی وجہ فرمائی ہے کہ حضور نورا الہی سے دیکھتے ہیں و لور اللہ
لا لجمہہ شیء نور الہی پر کوئی شے حجاب نہیں ہوتی امام ابن حجاج مالکی مکی نے
مدخل اور امام احمد قسطلانی شارح بخاری نے مواہب لہ نیہ میں یہ تمام مضامین
علمائے کرام سے نقل فرمائے۔ علامہ مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے
ہیں۔ فان النفس الہدی سببہ اذا تجردت عن العلائق عرجت والصلت
الملاء الاعلی ذنری و تسمع الکل کالمشاهد۔ نفوس قدسیر جب علائق
بدنیہ سے جدا ہوتے ہیں ترقی فرماتے اور ملار اعلی سے ملجاتے ہیں ہر چیز کو ایسے دیکھتے
اور سنتے ہیں جیسے آنکھ کے سامنے ہی تفصیل۔ ان سب مباحث کی مع ازالہ ابہام
منکرین بجد اللہ تعالی و فضلہ مجدد مائتہ حاضرہ صاحب حجت قاہرہ المولوی محمد احمد رضا
خالصاحب نے اپنی کتاب مستطاب و رسالہ لاجواب مسمی بہ سلطنة المصطفی فی

ملکوت کل الوری میں فرمائی ہے۔ رزقنا اللہ وسائر احوالنا مطالعتہ اور ایصال
صلوٰۃ و عرض اعمال پر ملائکہ کا متعین ہونا حضور کے اپنے سبح و بصر کے منافی نہیں
کہ یہ داب بارگاہ سلطانی ہے اور حضرت جل و علا عالم الغیب والشہادہ پھر اعمال
عبادہ ہر صبح و شام ملائکہ اس کے حضور عرض کرتے ہیں جیسا کہ صحاح ستہ سے
ثابت ہے۔

حررہ :- العبد المسکین وصی احمد المنیفی المنفی السنی۔

(انہما شریعت حصہ اول ص ۶۲ تا ۶۷)

اصلاح ندوۃ العلماء

جہاد آزادی ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمانان برصغیر شدید افراتفری اور زوال کا شکار ہو گئے
تھے۔ فرنگی حکمرانوں کو اس خطہ کے ہندو باشندے یہ بات اچھی طرح باور کرا چکے تھے کہ جہاد
آزادی میں صرف اور صرف مسلمان شریک تھے۔ یہ جہاد صرف مسلمانوں اور ان کے علماء کے
ایثار پر کیا گیا تھا جسکی بنا پر مسلمانوں پر ترقی کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے۔ خصوصاً
علماء کی کڑی نگرانی کی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ مسلمانوں کے فقہی اختلافات کو ہر ادے کر بحیثیت
مجموعی مسلمانوں کی اسلحہ اور بنیاد کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ
مسلمانان برصغیر شدید افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے اور جہاد آزادی کے تقریباً نصف صدی
بعد تک ان میں مرکزیت پیدا نہ ہو سکی۔ برصغیر کی ہندو آبادی نے کشیدہ صورتحال سے حتی الامکان
فائدہ اٹھایا اور تعلیمی میدان میں وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے۔ سرکاری ملازمتوں
سے لیکر نجی کاروبار تک ہندو اشراف غالب گیا اور مسلمان قلعی طود پر اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ اس
صورتحال کا چند روزہ مندول نہایت خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب
تک مسلمانوں میں تعلیم کو عام نہیں کیا جائے گا اور محبت و یگانگت کو ان کے درمیان فروغ

نہیں دیا جائے گا اُس وقت تک یہ اپنا کھویا سہاوقا حاصل نہیں کر سکتے۔ انگریزی تعلیم کو عام
کرنے میں سید احمد خان بڑا سہم دار ادا کر رہے تھے جبکہ مذہبی تعلیم کو نئے منظر پر استوار
کرنے کے لئے چند علماء اہمیت مستل غور و فکر میں مرقم تھے۔ ایسے میں مداس اسلامیکہ کے
نصاب کی اصلاح کیلئے ۱۸۹۳ء بمطابق ۱۳۱۱ھ میں مسلمانوں کی ایک مذہبی تنظیم ندوۃ العلماء
کے قیام کی تحریک شروع ہوئی۔ بقول مولانا سید حسن مثنیٰ مذہبی اصولی طود پر اس تحریک کا مرکز
مدرسہ فیض عام کانپور تھا جہاں مولانا سید محمد علی کانپوری ثم مونگیری اور مولانا احمد حسن کانپوری
درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مولانا محمد علی مونگیری مولانا احمد حسن کانپوری
اور دیگر علماء نے اس نئی تنظیم و تحریک کے معاملات سرگوشیوں میں طے کئے اور مدرسہ فیض
عام کے مالانہجلیہ دستار بندی کو اس تنظیم کی بنیاد رکھنے کے لئے استعمال کیا۔ ۱۸۹۳ء

۱۳۱۱ھ میں مدرسہ فیض عام کانپور کا سالانہ جلسہ دستار بندی بڑے پیمانے پر منعقد
کیا گیا اس جلسہ میں برصغیر کے علماء و مشائخ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ابتدائی وعظ و تقریر
کے بعد مولانا محمد علی مونگیری نے ندوۃ العلماء کا پہلے سے مرتب کردہ خاکہ اجتماع کے سامنے پیش کیا۔
جسے تمام شرکار جلسہ نے قبول کر لیا۔ اس مجلس کے قیام کی جب خبر عام ہوئی تو عرصے
سے گھٹن اور حسرت کی زندگی گزارنے والے مسلمانوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ مجلس کے
قیام کا خیر مقدم کیا۔ ڈاکٹر شیخ محمد اکرام نے بارگاہ راشدی میں ندوۃ العلماء کے بانی کے عنوان
سے ایک تفصیلی بحث کا آغاز کیا ہے۔ ۱۸۹۳ء ہر چند وہ اپنا مافی الضمیر بیان کرنے میں کسی حد
تک کامیاب رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی گفتگو کو چند افراد تک محدود رکھنے
کی دانستہ کوشش کی ہے۔ جو ایک محقق کے شایان شان نہیں۔ یکطرفہ حوالوں کی بنیاد پر

۱۔ اعتبار میں اس نئی مجلس کا نام ندوۃ العلماء مشہور ہوا تھا لیکن بعد میں اسے بدل کر ندوۃ العلماء کر دیا گیا۔
(بارگاہ راشدی ص ۲۸۴۔ مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۶۱ء)
۲۔ مولانا سید حسن مثنیٰ مذہبی مضمون مجلس ندوۃ العلماء کی بین الاقوامی کانفرنس مطبوعہ دفتر حریت کراچی ستمبر ۱۹۶۵ء
۳۔ ڈاکٹر شیخ محمد اکرام ص ۲۸۴۔ بارگاہ راشدی مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۶۱ء

انہوں نے بڑے بڑے فیصلے دیدیئے ہیں۔ اور کسی ایسے عالم کا نام ندوہ کے ضمن میں نہیں آنے دیا جو بہ اعتبار مسلک ان کا ہنجیال نہ ہو۔ حتیٰ کہ انہوں نے شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی مولانا احمد حسن کانپوری اور مولانا لطف اللہ علی گڑھی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ جو ایک صریح نا انصافی ہے۔ مدرسہ فیض عام کے جلسہ دستار بندی میں جن علمائے بڑے چڑھ کر حصہ لیا ان میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی شاہ محمد حسین الہ آبادی، مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا محمد علی مونگیری، مولانا عبدالحق دہلوی حقانی، شاہ سلیمان پھلوادی، مولانا عبدالقادر بلوچی، مولانا وصی احمد محدث سورتی، مولانا محمد عادل کانپوری، مولانا حکیم مومن سجاد کانپوری وغیرہ شامل ہیں مگر منہجوں کی وجوہ کی بنا پر ندوہ کے ضمن میں ان افراد کا نام محققین کی تحریروں میں بہت کم ملتا ہے جو تعصب کی ایک بدترین مثال ہے۔

مولانا سید سلیمان ندوی حیات کشلی میں لکھتے ہیں کہ ندوۃ العلماء کے قیام میں شامل افراد کا رابطہ عقیدت ایک روحانی مرکز سے بندھا ہوا تھا۔ جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی تھا۔ تیسری صدی کے اخیر میں اور چودھویں صدی ہجری کے اوائل میں یہ ذات گرامی سارے ہندوستان کی روحانی عقیدت کا مرکز تھی۔ سنت سنہ، فقرو غنا، علم و عمل اور نورد معرفت کی تمام خوبیاں اس ایک ہستی میں جمع ہو گئی تھیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی کا یہ تجزیہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا محمد علی مونگیری اور مولانا وصی احمد محدث سورتی کی عقیدت کا مرکز حضرت شاہ فضل رحمن کی ذات تھی بلکہ مؤخر الذکر دونوں بزرگ مولانا مونگیری اور محدث سورتی حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کے مرید و خلیفہ تھے۔ یہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ علم تاریخ کو ہندوستان میں سائنسی بنیادوں پر جن افراد نے استوار کیا یا تو وہ سر سید احمد خان کے حلقہ اثر میں شامل تھے یا اہل حدیث تھے۔ اس لئے تاریخ کے صفحات پر

علامہ مولانا سید سلیمان ندوی صاحب، حیات کشلی مطبوعہ اعظم گڑھ ۱۹۳۳ء

کسی ایک ایسے شخص کا نام نہ آسکا جس نے لاقہ و باہیت یا عدم تعلیق کی مذمت میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا ہو۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ تاریخ کے وہ طالب علم جنہوں نے حاصل مواد پر کٹھا کیا اس تک حقیقت نا آشنا ہیں۔ اور کسی ایسی بات کو تسلیم کرنے سے انکار ہی ہیں جو فی زمانہ راج تاریخی کتابوں میں موجود نہ ہو۔ بہر حال یہاں میرا مقصد ضمنی اختلافات کا بیان نہیں ہے اس لئے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔

ندوۃ العلماء کا قیام بظاہر تو بڑا خوش آئند تھا۔ لیکن درون خانہ یہ جلد ہی مختلف النوع مذہبی اختلافات کا گڑھ بن گیا۔ ان اختلافات کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس میں شرکت کی دعوت عام تھی۔ ندوہ کے اجلاسوں میں غیر مقلدوں، اراقتیوں اور نچرلوں نے بڑی تعداد میں نہ صرف شرکت کی بلکہ اتحاد بین المسلمین کے نعرے کا سہارا لے کر کارپردازان ندوہ سے اس قدر قربت حاصل کر لی کہ وہ ندوہ کے اجلاسوں کی روئیداروں میں سر فہرست نظر آنے لگے۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی بلکہ ان گروہوں کے سرکردہ افراد نے ندوہ کے پلیٹ فارم کو اپنے عقائد کے پرچار کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ متنازعہ مسائل پر تقاریر کی گئیں اور اتحاد بین المسلمین کے بجائے تفرقہ امت کو ہوا دی گئی۔ ندوۃ العلماء کے جلسہ دستار بندی منعقدہ کانپور کی روئیدار میں ہے کہ وہ جلسہ جو مسلمانوں کے اوج اور ان کے باہمی نفاق کو اور ان کے مذہبی جھگڑوں کو دور کر سکتا ہے وہ صرف ندوۃ العلماء ہے اور یہ ہندوستان میں اپنی قسم کا پہلا اجلاس ہے۔ جلسہ دستار بندی میں چونکہ ندوۃ العلماء کے قیام کا اچانک فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس لئے اختلافی مسائل سامنے نہ آسکے۔ اور صرف خیر مقدمی تقاریر ہوئیں۔ جیسا کہ اس جلسہ کی روئیدار سے ظاہر ہے لیکن دوسرے سال مدرسہ فیض عام کانپوری میں پہلے باقاعدہ سالانہ اجلاس منعقدہ ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸

العلماء کے روح رواں تھے۔ اور تینوں اشخاص رو بہ ہدایت اور عدم تعلید میں ایک عرصہ تک سرگرم عمل رہ چکے تھے۔ اس لئے غیر مقلدوں اور دیگر فرقوں کے علماء کو تشویش لاحق ہو گئی اور انہوں نے پہلے باقاعدہ سالانہ اجلاس میں ندوۃ العلماء پر بڑی تعداد میں چھاپہ مارا اور اس کو اپنے مسلک اور عقائد کی ترجمانی کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اخوت اور اتحاد کا کچھ اس انداز سے پرچار کیا گیا کہ تمام اسلامی قیود و ضوابط کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس اجلاس کی روئیداد کے مطابق علامہ شبلی نعمانی، غلام حسنین کنٹوری اور مولوی ابراہیم آرومی نے نہ صرف اس اجلاس میں تقاریر کیں بلکہ بنیادی اراکین ندوہ میں شامل کئے گئے۔ مولوی ابراہیم آرومی جو عدم تعلید کے پرچار میں سرفہرست تھے اپنا رسالہ "اتفاق" ندوہ کی کارروائیوں کے لئے وقف کر دیا۔ اس رسالہ کو ندوۃ العلماء نے بھی پاس کیا اور تمام اراکین ندوہ اس کے خریدار قرار پائے۔ ایک اور غیر مقلد محمد حسن بہاری نے بھی اپنا رسالہ "تخفہ محمدیہ" جو کانپور سے شائع ہوتا تھا ندوہ کے لئے وقف کر دیا۔ ان دونوں رسالوں میں مقلدین کی تذلیل کی گئی اور ائمہ اربعہ کے باہمی اختلافات پر کثرت و مباحثہ کر کے یہ بات ثابت کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہی کہ مقلدین ائمہ اربعہ پر خود ایک دوسرے کی تکفیر واجب آتی ہے۔

شیخ مجتہد علامہ غلام حسنین کنٹوری نے بھی پہلے اجلاس میں تقریر کی اور علماء اہلسنت کی موجودگی میں حضرت علی کی خلافت کو بلا فصل ثابت کرنے کے سلسلے میں ایسے دلائل دیے جن سے شیخین کی توہین ہوتی تھی۔ جلسہ کی روئیداد کے مطابق غلام حسنین کنٹوری کے بیان سے حاضرین جلسہ کوئی الجھلہ تک نہ ہوا اور بعض حضرات نے کچھ بولنا بھی چاہا مگر چونکہ یہ بات قرار پا چکی تھی کہ مجلس میں کسی قسم کی رد و قدر نہ ہو اس لئے خاموشی اختیار کی گئی۔ ندوۃ العلماء کی کارروائی اس وقت ختم ہو گئی تھی مگر مجتہد صاحب کا بیان تنگی وقت کی وجہ سے ختم نہ ہوا تھا چنانچہ پہر کو بھی جلسہ ہوا۔ بیان ختم ہونے کے بعد مولوی ابراہیم آرومی نے بڑے شاندار الفاظ میں مجتہد صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اس جلسے کی روئیداد میں ہے کہ ہم مقلدان اور المجددیت ایک دوسرے سے سیوف العزہ علی ذماتہم الندوہ ص ۱۰۳

کو محدود مومن جانتے ہیں۔ اور کسی مومن کو مشرک اور بدعتی کہنا سخت گناہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بلا کراہت جائز جانتے ہیں۔ سہ اس اجلاس میں مولانا شبلی نعمانی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فروعات دین پر ہمارا اعتقاد نہیں۔ علم سے ہمارا مذہب تعلق ہے۔ کیونکہ مسلمانوں میں کوئی خصوصیت نہیں۔ جن کو کلمہ توحید پر اعتقاد ہے وہ مسلمان ہے۔ سہ حد تو یہ ہے کہ مولانا محمد علی مونگیری نے بھی جو حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کے مرید و خلیفہ تھے۔ اپنا لب و لہجہ بدل لیا اور انہوں نے ندوۃ العلماء کے دوسرے اجلاس قیصر بارغ لکھنؤ منعقدہ اپریل ۱۸۹۵ء میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مقلد اور غیر مقلد کا اختلاف ایسا ہے جیسا ہنسی شافعی مالکی اور حنبلی کا اختلاف ہے۔ ایک شے شافعی کے نزدیک فرض یا واجب ہے وہی حنفیہ کے نزدیک حرام و مکروہ۔ اب خیال کیجئے کہ بلحاظ عمل و اعتقاد دونوں فرقوں کے یہاں کس قدر فرق ہے۔ اگر اس پر خیال کیجئے کہ فرض کو ممنوع اعتقاد کرنے والا اور حرام کو حلال جاننے والا کیسا ہے تو ایسا سخت حکم نکلے گا کہ ان چاروں گروہوں میں اسلامی شرکت بھی نہ رہے گی۔

جلسہ لکھنؤ میں ایک طویل نظم پڑھی گئی جس میں غیر مقلد مولوی نذیر حسین دہلوی اور شیخ مجتہد غلام حسنین کنٹوری اور حکومت وقت کی مدح کی گئی تھی۔ نظم کے کچھ اشعار بطور نمونہ یہاں درج کئے جا رہے ہیں۔

وہ ذی علم و فن مجتہد دوراں غلامی حسنین پر جو ہے نازاں
ہوا مجلس ندوہ پر جن کا احساں کیا متحد قوم کو جس نے ایجاں
ابھی رہے اس کی توفیق یا دور کرے ابکی سال اور کچھ اس سے بڑھ کر

۱۰ سیوف العزہ علی ذماتہم الندوہ ص ۱۰۳

۱۱ سیوف العزہ علی ذماتہم الندوہ ص ۱۰۳

گورنمنٹ وکٹوریہ مشاد آباد
فلک پر میں جب تک تارے چمکتے
گلستاں میں جب تک زمین گل چمکتے
رہے لارڈ الگن کا اقبال یاد

دلش خرم و ملکش آباد آباد
زمین پر رہیں جب تک جگنو چمکتے
دختوں پہ جب تک ہیں طائر چمکتے
مدارج ہوں لیفٹننٹ صاحب کے برتر

نذوہ کے تیسرے اجلاس منعقدہ بریلی میں مولوی عبدالحق مصنف تفسیر حقائق نے مدارک
اسلامیہ کے نصاب پر شدید نکتہ چینی کی اور کہا کہ اگر ناگوار خاطر علماء نہ ہوتے تو صاف صاف
عرض کر دوں کہ پگڑی باندھ کر نکلے ہوئے عالم یا مولوی کا ہر علم میں بہت کم پایہ ہوتا ہے
فقہ میں اس قدر جہارت نہیں ہوتی کہ معاملات کا فیصلہ کر سکے۔ وہ اس قابل نہیں ہوتا
کہ اس کو کہیں کا بیج بنا دیا جائے۔

علماء اہلسنت کو جو پہلے مرحلہ سے ہی — نذوہ العلماء میں شامل تھے اس قسم کی باتوں
سے تکدر ہوا۔ خصوصاً عدم تقلید کے مسئلے کی اشاعت اور تقلید کے خلاف نذوہ العلماء کی تقریروں اور
تقریروں میں دلائل نے ان کو سخت تذبذب میں ڈال دیا۔ مولانا لطف اللہ امپوری اور مولانا
احمد رضا خان بریلوی تو پہلے ہی جلسہ کی کارروائی سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں
نے جلسے اختتام پر ناظم نذوہ اور صدر جلسہ کی توجہ اس فساد فی الدین کی جانب مبذول
کرائی اور اظہارِ حق کر کے نذوہ سے علیحدہ ہو گئے۔ نذوہ اس اجلاس میں مولانا احمد رضا خان
بریلوی نے اصلاحِ نصاب پر ایک مقالہ بھی پڑھا تھا۔ سنا جبکہ دیگر علماء اصلاح کا انتظار
میں نذوہ سے تعاون کرتے رہے۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی چونکہ ناظم نذوہ مولانا محمد علی
مونگیری اور مولانا لطف اللہ علیگرھی کے تلامذہ میں شامل تھے اس لئے ابتدا میں
خاموش رہے۔ لیکن دوسرے جلسہ لکھنؤ میں بھی وہی کچھ ہوا جو پہلے جلسے میں ہوا تھا چنانچہ
انہوں نے اظہارِ حق کو ضروری تصور کرتے ہوئے اصلاحِ نذوہ کی جانب توجہ دی۔ حضرت

۱۔ سیوف العنود علی ذماتہم النذوہ ص ۱۳۱
۲۔ سالانہ رپورٹ نذوہ العلماء مطبوعہ لاہور ۱۳۱۲ھ

مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی تک بھی جوان دلوں شدید استغراق کے عالم میں تھے
نذوہ کی کارروائیاں — پہنچیں اور آپ سخت کبیدہ خاطر ہوئے چنانچہ آپ کے صاحبزادے
مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی جب جلسہ لکھنؤ میں شرکت کی اجازت لینے آپ کی خدمت
میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ وہ معاملات نفس میں بہنڈا وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں
حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کو مولانا وصی احمد محدث سورتی کی حق پرستی ہمیشہ
عزیز رہی یہی وجہ ہے کہ جب محدث سورتی نے غیر مقلدوں کے رد میں جامع الشواہد
الاخلاق العوالمین عن المساجد مرتب کی تو شاہ فضل رحمن نے کسی قسم کے تردد کا اظہار
نہیں فرمایا اور معاملات شریعت میں آپ کے مشورہ کو ضروری قرار دیتے رہے بحیثیت
خلیفہ مولانا وصی احمد محدث سورتی کے لئے یہ ضروری تھا کہ آپ نذوہ سے علیحدگی اختیار کرنے
سے قبل یا اس کے خلاف کوئی فتویٰ دینے سے پہلے اپنے پیرو مرشد شاہ فضل رحمن سے
رجوع کریں چنانچہ آپ نے لکھنؤ کے اجلاس منعقدہ سالگرہ کے بعد گنج مراد آباد حاضری
دی اور تمام روئیداد اپنے پیرو مرشد کے گوش گزار کی۔ چنانچہ شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی
نے مولانا محمد علی مونگیری کو طلب کیا اور مفاسد نذوہ کے سلسلے میں باز پرس کی لیکن ان کے
پاس سوائے خاموشی کے کوئی اور جواب نہ تھا۔ کیونکہ نذوہ پر تو تمام غیر مقلد، رافضی اور
نیچری پوری طرح قبضہ کر چکے تھے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے مولانا وصی احمد محدث
سورتی کو اذین اظہارِ حق ملا۔ اور آپ اصلاحِ نذوہ میں مصروف ہو گئے۔

پروفیسر اصلا حین نے لکھا ہے کہ مولانا وصی احمد محدث سورتی کو ابتدا ہی سے
قومی اور مذہبی مشاغل سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ ملک میں مذہبی علوم کو زیادہ سے زیادہ
پھیلانا چاہتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی کی جلائی ہوئی شمشع کی روشنی کو دور دراز مقامات تک پھیلادیا جائے۔ یہی وجہ

۱۔ مکتوب مولانا سید محمد رضا سندھیلوی لکھنؤ داتا مولانا شاہ فضل رحمان نام مولانا احمد رضا خان ص ۹۳
۲۔ مطبوعہ مکتوب علماء کرام اہل صفا سالگرہ مرتبہ سید محمد عبدالکریم قادری بریلی۔

ہے کہ آپ علم کے نام پر ہر مذہبی تحریک کو آگے بڑھانے میں خاص حصہ لیا کرتے ندوہ کے قیام کی تحریک میں اپنے پیرو مرشد شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کے ساتھ شریک ہو کر گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اور اس کے استیقام کے لئے سعی ملیخ فرمائی مگر افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی اور ان کے بعض رفقاء کے مذہبی خیالات سے آپ متفق نہیں ہو سکے۔ اور ندوہ سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ نیز شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی اور ان کے مریدین نے بھی ندوہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

ندوۃ العلماء کے مفاسد کا ہندوستان میں سب سے زیادہ نوٹس مولانا احمد رضا خاں بریلوی اور مولانا عبدالقادر بدایونی نے لیا اور اصلاح ندوہ کے ضمن میں نہایت سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ مولانا وحی احمد محدث سورتی نے ابتداء میں ناظم ندوہ مولانا محمد علی مونگیری سے مفاسد ندوہ پر بات چیت کی اور براہ اصلاح پر زور دیتے رہے۔ اصلاح ندوہ کے سلسلے میں بریلی سے شائع ہونے والے رسالوں اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں مولانا وحی احمد محدث سورتی کے ساتھ جو علماء کام کر رہے تھے۔ ان میں مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی خلیف مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی مولانا محمد عادل کانپوری،

مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادی، مولانا حکیم خلیل الرحمن پٹیالہ جیسی تلمیذ و شید مقلد لطف اللہ علیگر بھی، مولانا ہدایت رسول لکھنوی اور مولانا احمد حسن کانپوری وغیرہ شامل تھے۔ لیکن ۲۳ ربیع الاول ۱۳۱۳ھ کو حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کی وفات کے بعد یہ تمام حضرات مولانا احمد رضا خاں بریلوی کی قیادت میں متحد ہو گئے۔ ندوۃ العلماء کی مخالفت صرف ان ہی علماء تک محدود نہیں تھی بلکہ گنگوہ اور دیوبند کے علماء بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شریع محمد کلام لکھتے ہیں کہ ندوہ میں مولانا محمود الحسن دیوبندی کی ابتدائی شرکت کے باوجود مولانا شید احمد گنگوہی ندوہ کی تحریک سے حسن ظن نہیں

۱۔ بروفیسر الفار حسین کانپوری ص ۱۱۰۔ ۲۔ گرامنیا۔ مضمون مطبوعہ ماہنامہ پیام حق کراچی جولائی ۱۹۵۸ء

لکھتے تھے۔ بلکہ ایک مرحلہ پر جب علماء اہلسنت کی دعوت اصلاح نے زور پکڑا تو اراکین ندوہ نے علماء دیوبند اور بریلی کے دیرینہ اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء دیوبند کو ندوہ میں شرکت کی دعوت دی۔ لیکن علماء دیوبند بھی ندوہ کی مذہبی اور اخلاقی صورت حال سے آگاہ ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے اس میں شرکت کو قبول نہیں کیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے تو ایک فتویٰ میں ندوہ کے عزائم و قیام کی سخت مذمت کی۔ ایک شخص محمد احسان اللہ غزنوی نے آپ سے استفسار دربارہ ندوہ کیا تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا۔

یہ جلسہ، جلسہ ہمدردی اسلام میں نہیں ہے بلکہ جیسا اس مسئلہ میں ظاہر کیا ہے اس کے موافق باعث ہدم اسلام ہے۔ پس اس میں شرکت اور اس کی اعانت اصلاً درست نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بندہ رشید احمد عفی عنہ۔

اس وقت تک علماء اہلسنت نے کھل کر ندوۃ العلماء سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی تھی اور نہ ہی ندوہ کی حمایت سے عوام الناس کو منح کیا تھا کیونکہ علماء اہلسنت کو اس بات پر یقین تھا۔ کہ ندوۃ العلماء کے طریقہ کار میں ضرور تبدیلی واقع ہوگی۔ مگر یہ تمام خوش فہمیاں اس وقت کا خود ہو گئیں جب ندوہ کے سرکردہ افراد نے ندوۃ العلماء کا تیسرا اجلاس بریلی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان دراصل ایک اعلان جنگ تھا کیونکہ اصلاح ندوہ کی تمام کوششوں کا مرکز بریلی قرار پا چکا تھا۔ اور مولانا احمد رضا خاں بریلوی دعوت اصلاح میں سر فہرست تھے۔ چنانچہ علماء اہلسنت نے ضروری تصور کیا کہ اجلاس بریلی سے قبل ایک مرتبہ پھر ناظم ندوہ سے مفاسد ندوہ کو دور کرنے کی درخواست کی جائے۔

اس مقصد کے لئے مولانا وحی احمد محدث سورتی کو بحیثیت سفارت کار مقرر کیا گیا اور محدث سورتی ناظم ندوہ کے نام مولانا احمد رضا خاں بریلوی کا ایک خط لیکر جس میں پابندی اور مذہب اہلسنت کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کا چند پہنچے اور کسی دن تک مسائل پر بات

۱۔ یادگار شبلی ص ۲۸۸۔ ۲۔ لہر گنگوہ درود ندوہ ص ۱۳۔ مطبوعہ بریلی ۱۳۱۳ھ۔ ۳۔ مولانا احمد رضا خاں احمد ناظم ندوہ مولانا محمد علی مونگیری کے درمیان اصلاح ندوہ کے ضمن میں ہونے والی تمام خط و کتابت مرسلات سنت و ندوہ کے نام سے ۱۳۱۳ھ میں مطبع نظامی بریلی سے شائع ہو چکی ہے۔

چیت کرتے رہے مگر کوئی مثبت جواب نہ ملا نتیجتاً پہلی ہجرت واپس لگے۔ اس عرصے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی رندہ میں اپنا فتویٰ القدرہ لکشف دین النذوہ تحریر فرما چکے تھے۔ اس فتوے کو اطراف و اکناف ہند میں بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ کیونکہ اس میں مختلف بلاد و اقطار کے تقریباً پچیس علماء اہلسنت کی موافقت تھی بلکہ مولانا صی احمد محدث سورتی کو پہلی ہجرت پہنچنے پر یہ فتویٰ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ایک مکتوب کے ہمراہ موصول ہوا۔ جس میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے آپ سے مفاسد نذوہ کے رد میں فتویٰ تحریر کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ محدث سورتی نے اس مکتوب کا جواب ۲۱ شعبان ۱۳۱۳ھ کو تحریر کرتے ہوئے مولانا احمد رضا خان بریلوی کو لکھا۔ مطالعہ استفسار در بارہ نذوہ سے مستفید ہوا۔ کیا لاجواب جواب آپ نے افادہ فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ عنی وعن سائر اہل السنۃ خیر الخیر! میری تحریر کا کوئی اثر پڑنا بظاہر ممکن نہیں معلوم ہوتا ہے مگر آج میں نے بڑے شہ و مد کی تحریر روانہ کر دی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ نتیجہ مطلوبہ مرتب کرے اور ان کی عنان کو حق کی طرف منعطف کرے۔ آمین یا اللہ العالمین ﷻ

مولانا وصی احمد محدث سورتی نے اپنے مکتوب میں جس تحریر کا ذکر کیا ہے وہ آپ کا ناظم نذوہ مولانا محمد علی مونگیری کے نام مکتوب تھا۔ لیکن ارباب نذوہ کی جانب سے حسب سابق خاموشی برقرار رہی البتہ مولانا محمد علی مونگیری نے مولانا وصی احمد کے مکتوب کا جواب ارسال کیا مگر اس میں بھی کسی مثبت اتمام کا تذکرہ موجود نہیں تھا محدث سورتی نے مولانا احمد رضا خان کو ۱۱ شعبان ۱۳۱۳ھ کو ایک اور خط تحریر کیا جس میں مولانا محمد علی مونگیری کے خط کا حوالہ بھی دیا تھا۔

۱۔ سرگزشت و ماجرائے نذوہ ص ۱۰۷ مولانا عبداللہ بی بی جی مطبع نادری بریلی ۱۳۱۳ھ
 ۲۔ فتاویٰ القدرہ لکشف دین النذوہ مطبوعہ قادری پریس بریلی ۱۳۱۳ھ
 ۳۔ مکتوبات علماء ص ۱۱۱ مرتبہ حافظ سید عبدالکریم قادری مطبوعہ مطبع اہل سنت بریلی۔

بحر العلوم مولانا و بالفصل اولنا مولوی احمد رضا خان صاحب عمت فیوضنا ہم المشارق و المغارب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے سابق کے عزیز میں نظر فیض اثر سے گزارنا تھا کہ جناب ناظم صاحب پر میری تحریر کا کوئی اثر نہیں پڑنے کا مگر اون کو متنبہ کروں گا چنانچہ میں نے ایک عزیز اُن کی خدمت میں پیش کیا۔ انھوں نے یہ عنایت کی کہ فوراً جواب دیا۔ الفاظ اُس کے بعینہ مرقوم ذیل ہیں۔

عزیزی السلام علیکم ورحمۃ اللہ! محبت نامہ نے پہنچ کر مسرور کیا۔ آپ کا غصہ یا خصل چونکہ خلوں کی وجہ سے ہے اس لئے مجھے مسرت ہوتی ہے۔ بریلی کی انجمن اسلامیہ نے دعوتِ جلسہ کی اور مولوی احمد رضا خان صاحب کا خلاف ذکر کیا اور مولوی خلیل الرحمن صاحب وغیرہ نے بھی حالت دریافت کی اراکین اب تک اس بات پر ہیں کہ بریلی میں جلسہ ہونا چاہیے دیکھے کیا ہو۔ انتہی کلامہ بقدر الحاجتہ اصل حال یہ ہے کہ ناظم صاحب برائے نام ہیں۔

قالوا وہی لوگوں کا ہے۔ اراکین موجودین میں کوئی خوش عقیدہ نہیں۔ جو خوش عقیدہ تھے مانند شاہ محمد حسین الہ آبادی ﷻ وغیرہ وہ لوگ بھی نذوہ کی حرکتوں سے متفرس ہو کر

مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے فرزند تھے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ مظاہر العلوم میں پائی۔ ۱۲۸۴ھ بمطابق ۱۸۶۷ء کی روایتاً مظاہر العلوم کے تفسیر الغامات کے نقش سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے میرزا بدر سالے میں امتیازی نمبر پائے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد عمارتی لکڑی کا کام شروع کیا۔ جس کا صد مقام پہلی ہجرت تھا۔ نذوۃ العلماء کی تحریک کی ابتداء ہی سے اس سے منسلک ہو گئے۔ اجلاس دوم منقذہ لکھنؤ میں اراکین مجلس انتظامی میں شامل تھے۔ ۱۳۲۳ھ بمطابق ۱۹۰۵ء کو نذوہ کے نائب ناظم یا اختیارات ناظم منتخب ہوئے بعد میں ۱۳۱۵ھ میں مولانا عبداللہ بریلوی کو ان کی جگہ ناظم منتخب کر لیا گیا۔ آخر عمر میں سہارنپور میں مقیم تھے۔ ۱۰ ارزی قندہ ۱۳۵۴ھ بمطابق سہ فروری ۱۳۵۴ء کو سہارنپور میں وفات پائی (ماخوذ حیات عبدالحی ۱۵۱ مطبوعہ دارالمنصفین جامع مسجد دہلی ص ۱۶۷)

۲۔ شاہ محمد حسین الہ آبادی نامور عالم عربی کے زبردست ادیب اور مرشد کامل تھے۔ آپ ۱۲۸۵ھ بمطابق ۱۸۶۸ء میں گنج الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ مولانا نعمت اللہ فرنچی علیہ مولانا ابوالحسنات عبداللہ فرنچی علی اور قادسی عبدالرحمن پانی پتی سے تعلیم پائی۔ کمپیل رسالت کے بعد تاج بیت اللہ کو تشریف لے گئے۔ اور شیخ الاسلام علامہ سید احمد عثمان مکی سے سند حدیث حاصل کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ارادت و علاقت کا شرف حاصل تھا۔ ہندوستان کے روحانی و علمی حلقوں میں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ نذوۃ العلماء کے بانوں میں تھے۔ لیکن بعد میں اہلسنت کے علماء کی فہمائش پر اصلاح نذوہ پر آمادہ ہوئے اور جلدی نذوہ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر شیخ محمد کرام نے یادگار شبلی مطبوعہ ادارہ لغافت اسلامیہ لاہور میں لکھا ہے کہ۔ شاہ محمد حسین الہ آبادی کی نذوہ سے علیحدگی ایک بڑی محرومی ہے۔ ۹ رجب ۱۳۱۳ھ کو سماع کی ایک محفل میں عالم و جد میں روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔

اب کی سال سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اب باقی ماندہ اراکین میں سب سے اول درجے کے ذیل
شعبی مقرر ہیں اور دوسرے درجے کے مولوی خلیل الرحمن صاحب سہارنپوری مولانا شعبی
نے ان کو لکھا ہے کہ جس طرح ہونڈوہ کا جلسہ بریلی میں ہی ہونا چاہیے۔ سہ۔ وصی احمد حنفی
از پبلی بھیت اراکین ۱۳۳۲ھ۔

محدث سورتی نے ہونڈوہ کا اجلاس بریلی میں منعقد ہونے سے قبل اختلافات کو دور کرنے
کی متعدد تدابیر کیں۔ مولانا محمد علی مونگیری اور محدث سورتی میں استاد اور شاگرد کا رشتہ
ہونے کی وجہ سے حد درجہ قربت تھی۔ اس لئے علماء اہلسنت کو اس بات کا یقین تھا کہ
اصلاح ہونڈوہ کے سلسلہ میں مولانا محمد علی مونگیری سے کوئی کارروائی صرف محدث سورتی ہی
کرا سکتے ہیں مولانا محمد علی مونگیری کی کیفیت سے محدث سورتی بخوبی واقف تھے۔ جیسا کہ اپنے
مولانا احمد رضا خان کے نام اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا تھا کہ: ناظم ہونڈوہ برائے نام ہیں قابو
اور ہی لوگوں کا ہے: اس لئے یہ طے کیا گیا کہ مولانا محمد علی مونگیری کو ہونڈوہ کے حصار سے
رہائی دلا دی جائے۔ مگر اس وقت تک مولانا مونگیری ہونڈوہ کے تنخواہ دار ملازم قرار پا چکے
تھے چنانچہ مولانا احمد رضا خان نے یہ تجویز پیش کی کہ ان کو بریلی کے مدرسہ میں بحیثیت صدر
مدرس بلا لیا جائے۔ محدث سورتی نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور آپ شوال ۱۳۳۳ھ میں پھر
کا پور پہنچے تاکہ مولانا مونگیری سے مذاکرات کر سکیں۔ مگر محدث سورتی کے کا پور پہنچنے کے
بعد اس تجویز کی اطلاع ان اراکین دارباب ہونڈوہ کو ہو گئی جو مولانا محمد علی مونگیری کی شخصیت کی
آڑ میں وہ اہلسنت کو دھوکہ دے کر اپنے عقائد کو عام کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے
مولانا محمد علی مونگیری کے گرد اپنا دائرہ تنگ کر دیا۔ اور اس تجویز کو کسی حد تک ناکام بنا دیا
محدث سورتی نے ایک مکتوب کے ذریعہ مولانا احمد رضا خان کو ان حالات کی اطلاع دی
جس کا متن درج ذیل ہے۔

بعد اہدی ہدیہ سنیدہ۔ میں نے حسب ارشاد صواب بنیاد محض بنظر خیر خواہی اسلام

۱۰۸ مکتوبات علماء ہند

تدابیر اصلاح میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ حتیٰ کہ جناب مولانا مولوی محمد علی صاحب کو حضور
کی ملازمت کے لئے آمادہ کیا بلکہ ان سے عہد و شق لیا چنانچہ تاریخ روانگی سے بھی میں حضور
کو اطلاع دے چکا۔ مگر انسوس کہ بوجہ عدیدہ شاہد مقصود منصف ظہور پر حلوہ گر نہ ہوا۔
انا للہ وانا الیہ راجعون — وصی احمد حنفی از کا پور — ۱۵ شوال ۱۳۳۳ھ
ادھر علماء اہلسنت کی جانب سے اصلاح ہونڈوہ کی کوششیں جاری تھیں اور ادھر
ارباب ہونڈوہ بریلی میں اجلاس منعقد کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے جیسا کہ پہلے عرض کیا
جا چکا ہے کہ بریلی علماء اہلسنت کا مرکز دار الخلافہ تھا۔ اس لئے ارباب ہونڈوہ کو یہ فکر بھی
لاحتی تھی کہ کہیں اجلاس ہونڈوہ درہم برہم نہ ہو جائے چنانچہ انہوں نے اجلاس سے قبل
بریلی اور اس کے قرب و جوار میں آباد شہروں میں و فون کیجے جن کو خاص تاکید کی گئی کہ وہ
خود کو مستی ظاہر کرتے ہوئے ہونڈوہ کا پرچار کریں اور عوام اہلسنت کو جو علماء حق پسندی کی
بنا پر مخالف ہونڈوہ ہو گئے ہیں ہونڈوہ کے حق میں ہموار کریں۔ اس سلسلہ میں مولانا شاہ سلیمان
پھلواری پبلی بھیت پہنچے اور تاہم ہونڈوہ میں پبلی بھیت کے عوام کو ہموار کرنے کے لئے کسی ایک
تعداد برکیں۔ ۱۳ ذی قعدہ ۱۳۳۳ھ کو مولانا وصی احمد محدث سورتی نے ایک خط میں مولانا احمد رضا
خان بریلوی کو لکھا کہ گذشتہ جمعہ کو شاہ سلیمان صاحب بخرض اشاعت ہونڈوہ میں مع چند
ہونڈوہ کے وارد پبلی بھیت ہوئے۔ پیشتر امام اور خوش عقیدہ لوگوں مثل حکیم خلیل الرحمن
خان صاحب وغیرہ سے قبل از خطبہ اون کی فہمائش کی ہونڈوہ کے بارے میں آپ کچھ نہ فرمائیں
بندہ نے بھی اتنا کہا کہ مجھ کو ہونڈوہ والوں سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ نہ
کہوں گا۔ مگر بطور تدبیر ما تقدم کے میں حضور کے افادات اور ان کا خط مطبوع اپنے ہمراہ
لینا گیا تھا کہ ان کا کچھ اعتبار نہیں اگر کچھ خلاف گفتگو کی تو فوراً مواخذہ کروں گا۔ مگر بعد اللہ
صراحتاً تو کیا اشارہ بھی انہوں نے ہونڈوہ کا ذکر نہ کیا۔ شاہ محمد شیر صاحب سے ملے
انہوں نے بھی چلکیاں لیں چنانچہ شاہ صاحب سے ناخوش بھی ہوئے۔ سہ

۱۰۸ مکتوبات علماء ہند

اصلاح ندوہ کے سلسلہ میں پہلی بھیت کے علماء و مشاہیر نے بھی بے پناہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ مولانا عبدالحق نے سرگذشت و ماجرائے ندوہ میں لکھا ہے کہ پہلی بھیت کے اہل عمل و روسا و معززین مثل مولانا حافظ شوکت علی، رئیس اعظم پہلی بھیت، جناب محمد عبداللطیف خاں ہمدانجن اسلامپور پہلی بھیت، جناب محمد عبداللہ خان تاجر، مولانا وصی احمد محدث سورتی، مولانا عبداللطیف سورتی، قاضی ممتاز حسین، مولانا حکیم خلیل الرحمن خان تلمیذ رشید مولانا لطف اللہ علیگر لکھی، مولوی عتیق احمد امام مسجد جامع پہلی بھیت، مولانا عبدالحق مدرس تلمیذ رشید مولانا وصی احمد محدث سورتی وغیرہ ہم اکابر کا شکر اہلسنت پر لازم ہے کہ ان حضرات اور ان کے اصحاب کے ثبات و استقامت و سعی و ہدایت نے محمد روزِ اول سے اس اسلامی شہر کو مفاسد ندوہ سے پاک رکھا ہر چند اعیان ندوہ نے جی توڑ کر عرق ریزیاں کیں مگر ناکام رہے۔ مسجد جامع وغیرہ کے جلسوں میں دندان شکن جواب سنے خود عالیجناب کمالات نصاب جناب شاہ جی محمد شیرمیاں صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنے ارشاد و ہمت کو حمایت سنت میں صرف فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک گل گزار ندوہ نے دم ملاقات ان کے حملہ شیرانہ کے حضور اپنی پھلواڑی کارنگ پھیکا اور وزن پھول سے ہلکا پایا۔ گل سے تنگتر گئے تھے اور غنچے سے بستہ اوٹھے۔ منہ کھولنے کا موقع ہاتھ نہ آیا۔ رلہ

شاہ سلیمان پھلواڑی کے فوراً بعد پہلی بھیت کے عوام اہلسنت نے شہرہ آفاق خطیب مولانا ہدایت رسول رامپوری ثمرہ لکھنوی کو پہلی بھیت آنے کی دعوت دی تاکہ شاہ صاحب ندوہ کے سلسلہ میں درون خانہ پہلی بھیت کے چند افراد سے جو جوڑ توڑ کر گئے ہیں اس کا رد کیا جاسکے۔ مولانا ہدایت رسول کی آمد پر حامیان ندوہ بڑے جزبز ہوئے۔ پہلی بھیت کے ایک عالم اور مولانا وصی احمد محدث سورتی کے شاگرد رشید مولانا ناصر علی پشوری، حامیان ندوہ میں شامل تھے۔ چنانچہ انہوں نے مولانا ہدایت رسول لکھنوی کی تعادیر کو

روکنے کی سعی کی۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی ہمیشہ سے دلائل و براہین پر زور دیتے تھے اور کسی پر اپنا مسلک و عقیدہ مسلط کرنے کے روادار نہ تھے۔ اس لئے آپ نے مولانا ناصر علی پشوری کو حمایت ندوہ سے منع نہ فرمایا تا آنکہ ندوہ کی حقیقت خود ان پر عیاں نہ ہو گئی۔ مولانا احمد رضا خان کے نام ایک مکتوب میں محدث سورتی لکھتے ہیں کہ مولانا لکھنوی تشریف لائے تھے۔ مولوی پشاوروی نے بعض میرے احباب سے کہا کہ ہم ندوہ کی طرف سے مامور ہیں کہ مولانا لکھنوی کو بیان نہ کرنے دیں۔ ایک بجے جس وقت ہم جامع مسجد پہنچے اسی وقت دوسرے دروازے سے مولوی پشاوروی بعض مذویوں کے ساتھ پہنچے۔ عبداللہ خان صاحب نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کا کچھ ایسا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، بیشک عبداللہ خان نے کہا بہتر جواب کی رائے میں آدھے کیجئے۔ مگر پھر مجھ سے بھی شکایت نہ کیجئے۔ تب مولوی پشاوروی کے ہوش ہرن ہوئے۔ نخل ہو کر مولانا لکھنوی سے کہنے لگے۔ ندوہ میرا پیر ہے۔ میں ندوہ کا مرید ہوں۔ اس کو کوئی برا کہے گا تو میں اپنی جان دیدوں گا۔ عبداللہ خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو آپ کیوں شریک بیان ہوں۔ نماز پڑھ کر چلے جائیے۔ بعد نماز مولانا لکھنوی ممبر پر بیٹھے، اور کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا۔ مولوی پشاوروی وغیرہ صحن میں ٹہل رہے تھے۔ بعد بیان کے مولوی پشاوروی نے خود ہی کہا کہ دو تین دن قیام فرمائیے تاکہ بقیہ لوگوں کے شہرہ رفع ہو جائیں۔ اور ندوہ کیلئے صرف پلاؤ اور قومہ کی فکریں مہدی ہیں۔ رلہ

مولانا عبدالقادر بدایونی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کو اجلاس بریلی سے قبل ہندوستان کے انٹی سے زائد علماء نے ندوہ کے سلسلہ میں علماء اہلسنت کے موقف کی تائید و حمایت میں ایک سو سے زائد خط تحریر کیے جو ۱۳۱۲ھ میں بریلی سے مکتوبات علماء و کلام اہل صفا کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دیئے گئے تھے۔ اس مجموعہ

مکتوبات میں فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کے نام مولانا وصی احمد محدث سورتی کے آٹھ خطوط شامل ہیں جن میں محدث سورتی نے ندوۃ العلماء سے اختلافات اہلسنت پر بڑی مفصل روشنی ڈالی ہے۔

مولانا وصی احمد محدث سورتی نے اجلاس بریلی ۱۳۱۲ھ کے دوران بھی اختلافات کو دور کرنے کے سلسلے میں حتی الامکان کوشش کی۔ آپ نے مولانا لطف اللہ علی گڑھی مولانا محمد علی مونگیری، مولانا عبدالحق دہلوی حقانی، مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری خلف مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا شاہ سلیمان پھولادی سے مولانا احمد رضا خان اور مولانا عبدالقادر بدایونی کی ملاقاتیں کروائیں۔ کئی کئی گھنٹے مذاکرات جاری رہے حتیٰ کہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی اور مولانا عبدالحق حقانی نے تو علماء اہلسنت سے وعدہ فرمایا کہ اختلافات کو اجلاس کے انعقاد و اختتام سے قبل ہی دور کر دیا جائے گا۔ لیکن جلسہ شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہو گیا۔ مگر اختلافات اپنی جگہ برقرار رہے مولانا عبدالحق علی گڑھی نے ۱۰ سرگذشت ندوہ میں اجلاس بریلی کے دوران کی جانے والی گفتگو کو ششوں کا بڑا تفصیلی احاطہ کیا ہے۔

ندوۃ العلماء کا جو تھا اجلاس میرٹھ میں ہوا۔ اس عرصہ میں مولانا وصی احمد محدث سورتی اپنی کتاب 'تعلیق الجہتی' کے پروف پڑھنے اور اس کی اشاعت میں مصروف تھے۔ لیکن آپ کو تو یہ ندوہ کی جانب سے نہیں ہٹی تھی۔ بلکہ آپ برابر ندوہ سے شائع ہونے والی مطبوعات اور ندوہ کے رویداد میں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ۳۰ صفر ۱۳۱۲ھ کو پہلی ہجرت سے آپ نے مولانا احمد رضا خان کو ایک خط تحریر کیا اور ندوہ کی رویداد پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ 'ندوہ نے ایک مختصر کیفیت طبع کرائی ہے اور اس کے دو حصے کر کے ایک حصہ کو جس میں بڑی بے تہذیبی کے شیخ کلمات لکھے ہیں محمد احسن بہاری کی طرف منسوب کیا ہے۔ جو خاص ناظم صاحب کے ملازم ہیں۔ اور تحفہ محمدیہ کا جو ناظم صاحب نے اپنے ذرا نقد سے جاری کیا ہے۔ ۱۔ ہتہام اور حساب و کتاب اُن کے متعلق کیا

ہے۔ حقیقت میں اس حصہ اول کے تحریر میری رائے میں ناظم صاحب ہی معلوم ہوتے ہیں اور یہ محمد احسن دہلوی ہیں جو آیام ندوہ بریلی میں حاضر خدمت ہوئے تھے۔ جب حضور نے فرمایا کہ رویداد کی عبارت ناظم نے نہیں لکھی بلکہ کسی اور نے لکھی ہے۔ ناظم کی نظر شاید اُس پر نہیں پڑی۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ناظم صاحب کی تحریر ہے۔ فقط، دوسرا خط منشی نہال احمد کے نام لکھا ہے جو خاص دفتر ندوہ کے محرر ہیں۔ اپنے یہاں کی تصنیف میں اس کیفیت کے اکاویب کا رد ملحق کرنا مناسب ہے۔

۱۶ اربیع الآخر ۱۳۱۲ھ کو مولانا وصی احمد محدث سورتی کو ندوہ کے رد میں لکھے جانے والے رسائل وصول ہوئے۔ ان رسائل کے بارے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کو اپنی رائے تحریر کرتے ہوئے ایک مکتوب میں لکھا کہ 'رغم الجہلہ مع غزوہ رسائل پیچھے بہت رسائل بعد اللہ اعلیٰ درجہ کی قبولیت پر فائز ہیں۔' 'رغم الجہلہ' اور 'سطورہ' اور 'غزوہ' کی تحریر عالم طبائع کے نہایت پسند ہوئی۔ عبارات میں ایسی سلیس اور روزمرہ حال کے موافق ہیں کہ ہر قسم کا نظر اُن کے مطالعہ سے محفوظ رہتا ہے اور بے اختیار واہ واہ کہا جاتا ہے۔ آئندہ کو بھی ایسے عنوان کی تحریر اگر ہوں گی تو نہایت خوش ہوگی۔ ندوہ کے سب نفقات کا تلخ و قحیح ہو گیا۔ اُنکی بھی نہایت ضرورت ہے۔' ۱۳۱۲ھ میں حیدرآباد کے ممتاز عالم مولانا عبدالرزاق الہکی نے ایک رسالہ ندوہ کے فسوسات کے رد میں 'فتاویٰ السنۃ لجام الفتنہ' کے نام سے تحریر فرمایا۔ اس رسالہ پر ہندوستان کے متعدد علماء کی تعاریض موجود ہیں۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی نے اپنی تقریر میں تحریر فرمایا کہ 'میں ندوۃ العلماء کے جلسہ اول کانپور اور جلسہ دوم لکھنؤ دونوں میں بااصرار مولانا ناظم ندوہ (محمد علی مونگیری) شریک ہوا۔ اور ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ ندوہ مفاسد شرعیہ سے برکھ ہے۔ الا کہین خاص بااختصاص میں وہ حضرات غالب میں جو دین کو برباد کیا چاہتے ہیں۔ امدان کی ہی رائے صاحب فقہ کی جاتی ہے اور اُن ہی کی تجویز منظور ہوتی ہے۔ بالآخر تیسرے جلسہ بریلی میں

شریک نہوا۔ لیکن خواہاں اصلاح مذہب رہا۔ مولانا تانہم اور حضرت صدر (مولانا لطف اللہ علیہ السلام) سے بہت کچھ عرض کیا۔ لیکن سود مند نہ ہوا۔ اراکین مذہب کی ہٹ دھرمی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور بے قیدی برابر ترقی پاتی ہے۔ کتب سابقہ کے علاوہ اب جو اراکین مذہب نے دو چار تحریریں مصلحین مذہب کے جواب میں شائع کی ہیں۔ ان سے بالکل یقین ہوتا ہے کہ مذہب کے غرض اصول و فروع شرعیہ دونوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ اور اس میں وہ لوگ یہ نفع سوچتے ہیں کہ ترقی دنیا حاصل کرنے کے لئے یہی طریقہ نیچر ہے اختیار ہو سکتا ہے۔ کہ اسلام صرف کلمہ گوئی کا نام سنت صرف شیعیت کے مقابل۔ باقی جس قدر فرقے سب سنیوں میں داخل اختلاف عقائد کا نتیجہ اسکو مذہب سچا اسلام تصور کرتا ہے۔ رہا مدرسہ اگر بالفصل اوس میں کتب دینیہ و حنفیہ کے ہوں لیکن فلسفہ جدید بغیر رد کے بدولت پروفیسروں کی لیاقت دیانت سے یقین ہے کہ انجام کار اصول اسلام کو طالب علم یوں ہی سمجھیں گے اور جب اصول و ضروریات اسلام کا یہ رنگ لازم آتا ہے تو سنت اور حنفیت کا کیا ذکر۔ اس کے استحصال کے لئے تو غیر مقلدین کا سنی قرار دیا جانا ہی کافی تھا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مذہب العلماء کا پانچواں اجلاس شاہجہاں پور میں منعقد ہونا قرار پایا۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی کی مصروفیات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تصنیف و تالیف کی جانب اپنے مکمل توجہ صرف کر دی تھی جس کی بنا پر جلسوں میں شرکت اور پہلی بھیت سے باہر کا سفر تقریباً ترک کر دیا تھا۔ شاہجہاں پور میں مذہب کے اجلاس کی اطلاع ملی تو آپ نے معذرت طلب کی۔ لیکن مولانا عبدالقادر بدایونی کے اصرار پر شاہجہاں پور روانگی کا قصد فرمایا۔ دراصل مولانا عبدالقادر بدایونی کی قیادت میں اجلاس مذہب کے موقع پر ایک وفد شاہجہاں پور جا رہا تھا۔ کہ وہاں پر عوام اہلسنت کو مفاسد مذہب سے آگاہ کر سکے۔ اس وفد میں مولانا وصی احمد محدث سورتی اور آپ کے صاحبزادے سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پہلی بھیتی۔ مولانا مولوی حسن رضا خان بریلوی۔ نواب سلطان

شاہجہاں پور میں اجلاس مذہب کے موقع پر مولانا عبدالقادر بدایونی کی قیادت میں وفد شاہجہاں پور جا رہا تھا۔ کہ وہاں پر عوام اہلسنت کو مفاسد مذہب سے آگاہ کر سکے۔ اس وفد میں مولانا وصی احمد محدث سورتی اور آپ کے صاحبزادے سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پہلی بھیتی۔ مولانا مولوی حسن رضا خان بریلوی۔ نواب سلطان

احمد خان بریلوی۔ مولانا حکیم عبدالقیوم بدایونی، مولانا جمیل الدین خطیب جامع مسجد بدایوں مولانا مولوی حافظ بخش مستوطن اولوہ مدرسہ مدرسہ محمدیہ چودھری گنج اور حکیم مولوی محمد مومن مسجاد کا پوری وغیرہم شامل تھے۔ سہ شاہجہاں پور میں اجلاس مذہب سے قبل وفد نے اراکین مذہب سے مختلف مسائل پر بات چیت کی اور حسب سابق دعوت اصلاح دی۔ مذہب کی جانب سے جن اراکین نے گفتگو کی ان میں مولانا عبداللہ الفزاری، مولوی جمیل الدین احمد خان بہادر ڈپٹی کلکٹر اور نواب عبدالرشید خان حقیدار شاہجہاں پور اور سابق ڈپٹی کلکٹر شاہجہاں پور جناب عثمان خان شامل تھے۔ اجلاس مذہب کی صدارت مولانا محمد شاہ رامپوری کو کرنا تھی لیکن ان کے غیر مقلد ثابت ہونے پر طے کیا گیا کہ مولانا احمد حسن کا پوری سے صدارت کرائی جائے علمائے اہلسنت کی اجلاس مذہب کے موقع پر شاہجہاں پور میں موجودگی۔ بیشتر علماء و اراکین نے اجلاس مذہب میں شرکت سے اجتناب کیا۔ ان افراد میں میاں سید فخر عالم، مولانا ناریاست علی خان، مولوی فضل الجبید، مولوی نور عالم ساکن سرحد، مولوی محمد گل ساکن مراد آباد، منشی سخاوت حسین مجسٹریٹ شاہجہاں پور، اور حاجی عبدالجمید خان پہلی بھیتی وغیرہ شامل تھے علماء اہلسنت نے ایک ہفتہ سے زائد شاہجہاں پور میں قیام کیا اور مفاسد مذہب کو بلا خوف عام کیا۔ متعدد تقاریر کریں۔ اور روز مذہب میں رسائل تقسیم کئے۔ نتیجتاً اہل مذہب کو شاہجہاں پور سے خاطر خواہ تائید و حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ اور علماء اہلسنت فریضہ حق ادا کر کے شاہجہاں پور سے رخصت ہو گئے۔

مذہب کے مفاسد کی تشہیر سے علمائے اہلسنت مذہب کی اصلاح میں تو کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ مذہب کو حسب توقع مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ وہ مذہب جس کو ایک یا دو سال کی مدت میں مستحکم تنظیم کا روپ دھار لینا چاہیے تھا کئی سال تک کٹی پھٹی پننگ کی طرح ہول کے دوش پر

شاہجہاں پور میں اجلاس مذہب کے موقع پر مولانا حکیم محمد مومن مسجاد کا پوری، مولانا جمیل الدین خطیب جامع مسجد بدایوں مولانا مولوی حافظ بخش مستوطن اولوہ مدرسہ مدرسہ محمدیہ چودھری گنج اور حکیم مولوی محمد مومن مسجاد کا پوری وغیرہم شامل تھے۔ سہ شاہجہاں پور میں اجلاس مذہب سے قبل وفد نے اراکین مذہب سے مختلف مسائل پر بات چیت کی اور حسب سابق دعوت اصلاح دی۔ مذہب کی جانب سے جن اراکین نے گفتگو کی ان میں مولانا عبداللہ الفزاری، مولوی جمیل الدین احمد خان بہادر ڈپٹی کلکٹر اور نواب عبدالرشید خان حقیدار شاہجہاں پور اور سابق ڈپٹی کلکٹر شاہجہاں پور جناب عثمان خان شامل تھے۔ اجلاس مذہب کی صدارت مولانا محمد شاہ رامپوری کو کرنا تھی لیکن ان کے غیر مقلد ثابت ہونے پر طے کیا گیا کہ مولانا احمد حسن کا پوری سے صدارت کرائی جائے علمائے اہلسنت کی اجلاس مذہب کے موقع پر شاہجہاں پور میں موجودگی۔ بیشتر علماء و اراکین نے اجلاس مذہب میں شرکت سے اجتناب کیا۔ ان افراد میں میاں سید فخر عالم، مولانا ناریاست علی خان، مولوی فضل الجبید، مولوی نور عالم ساکن سرحد، مولوی محمد گل ساکن مراد آباد، منشی سخاوت حسین مجسٹریٹ شاہجہاں پور، اور حاجی عبدالجمید خان پہلی بھیتی وغیرہ شامل تھے علماء اہلسنت نے ایک ہفتہ سے زائد شاہجہاں پور میں قیام کیا اور مفاسد مذہب کو بلا خوف عام کیا۔ متعدد تقاریر کریں۔ اور روز مذہب میں رسائل تقسیم کئے۔ نتیجتاً اہل مذہب کو شاہجہاں پور سے خاطر خواہ تائید و حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ اور علماء اہلسنت فریضہ حق ادا کر کے شاہجہاں پور سے رخصت ہو گئے۔

چمکولے کھاتا رہا۔ اس کے علاوہ علماء اہلسنت کی کوششوں سے ندوہ کے اندر بھی گروہ بندی شروع ہو گئی۔ انتظامی معاملات، لاکھ عمل کی تیاری اور اس کے نفاذ کے سلسلے میں رکنشی نے اس قدر زور پکڑا کہ ناظم ندوہ مولانا محمد علی مونگیری کو اپنے وقار کے تحفظ کے لئے ندوہ کی نظامت سے مستعفی ہونا پڑا۔

حیات عبدالحی کے مصنف نے لکھا ہے کہ بالآخر ندوۃ العلماء کی تاریخ میں وہ نازک موڑ آ گیا جو تقریباً تمام تحریکوں اور کوششوں کی تقدیر بن چکا ہے۔ یعنی مجلس انتظامی ندوۃ العلماء کے اندرونی اختلافات مزاجوں کے عدم توافق بلکہ تضاد اور تناقض کی بنا پر مولانا سید محمد علی مونگیری نے بار بار کی کوششوں اور ارکان کی معذرت و انکار کے بعد ندوۃ العلماء کی نظامت سے استعفیٰ دیدیا اور وہ جلسہ انتظامیہ منعقدہ ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۲۱ھ بمطابق ۱۹ جولائی ۱۹۰۳ء میں منظور ہو گیا۔ مولانا محمد علی مونگیری کے استعفیٰ کے بعد مولانا یحییٰ الزماں شاہ جہانپوری ناظم مقرر ہوئے۔ اور انہوں نے بھی ۲۱ اپریل ۱۹۰۵ء کو نظامت ندوہ سے استعفیٰ دیدیا۔ پھر یہ سلسلہ برابر جاری رہا ایک ایک کر کے تمام مقلد ندوہ سے علیحدہ ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۹ جولائی ۱۹۱۳ء کو ندوہ کے روح رواں مولانا شبلی نے بھی اختلافات کی بنا پر ندوہ سے استعفیٰ دیدیا۔ یہاں مولانا شبلی کا تفصیلی ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ شبلی نعمانی واحد شخصیت تھے جن کی ذات علماء اہلسنت کے لئے وجہ تنازعہ بنی ہوئی تھی۔ علماء اہلسنت ندوہ میں شامل افراد کو باندھوم و صلوة دیکھنا چاہتے تھے۔ جبکہ مولانا شبلی عالم دین ہونے کے باوجود باندھوم و صلوة سے نفرت رکھتے تھے۔ ان پر علم پابندی نماز، عورتوں سے میل ملاقات اور دینی معاملات میں آزاد خیالی کے الزامات عاید ہوتے تھے۔ علامہ شبلی دارالعلوم ندوہ کو اسلامی ہندوستان کا سب سے بڑا مذہبی مرکز قرار دیتے تھے لیکن دارالعلوم کی چہار دیواری میں مذہب کا جو حال تھا اس کے بارے میں خود علامہ شبلی ایک مکتوب میں مولانا جلیل الرحمن شیروانی کو لکھتے ہیں کہ :-

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ طلباء میں تقدس کا اثر نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ

حیات عبدالحی ص ۱۲۴ سید ابوالحسن علی ندوی مطبوعہ ندوۃ المصنفین دہلی ۱۹۷۰ء

ایک دفعہ ندوہ کے لڑکے ڈیپوٹیشن کے طور پر بھیجنے پر بھی گئے تھے۔ ان کی وضع سے آپ نے سمجھا کہ ملیگر لڑکے لڑکے آئے ہیں۔ یہ میری موجودگی سے قبل کا زمانہ تھا اس کی وجہ میں نے بہت سوچی اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ ابتداء سے آج تک کوئی پرنسپل مقدس اور بااثر نہیں ملا۔

اس صورتحال کے باوجود شبلی نعمانی ندوہ کے صفحات میں دعویٰ کرنے لگے کہ ندوۃ العلماء تمام ہندوستان میں سب سے بڑی مقدر جماعت ہے چنانچہ اہل دیوبند کو شبلی کا یہ دعویٰ گراں گذرا۔ اور دیوبند نے ندوہ کے مفسدات کو اچھا لانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر شیخ اکرام لکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں ندوہ کا ڈنک چاروں طرف بج رہا تھا لیکن ندوہ کے حریت کارساز القاسم باربار لکھتا تھا کہ آواز دہل نہیں اذ در خوش است والا معاملہ ہے اور فی الواقع اگر مولانا کے خطوط غور سے پڑھیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ طعن بے بنیاد نہ تھا۔

ان حالات میں علماء اہلسنت سے توقع رکھنا کہ وہ ندوہ کی حمایت کریں کس طرح ممکن تھا کیونکہ اہلسنت تو پابندی مذہب میں تمام امت پر سبقت حاصل کئے ہوئے تھے وہ کس طرح سے اس مذہبی کجروی پر مہر تقدیر ثبت کر سکتے تھے۔ اس تمام کھیل میں ایک شخصیت ہر اختلافی موڑ پر سر فہرست نظر آتی ہے اور وہ ہے مولوی عبدالمطیٰ رائے بریلوی کی ذات۔ دراصل ندوہ میں اس شخص کی ۲۵ دسمبر ۱۸۹۵ء میں شمولیت اور بحیثیت مددگار ناظم کے انتخاب کے بعد سے ہی مقلدین کے اٹھار اور ندوہ پر غیر حتمی اور غیر مقلدین کا غلبہ شروع ہو گیا تھا۔ مولوی عبدالمطیٰ نے اپنی عبا میں شریعت و طہریت کے ہفت رنگ کے پیوند لگا رکھے تھے۔ اور کبھی اپنے اصل رنگ کو ظاہر نہیں

ہونے دیا۔ لیکن اس کے باوجود عدم تقلید ان کی عبا کا بنیادی رنگ تھا۔ جن کا اندازہ ان کی تحریروں اور ندوہ میں شمولیت کے بعد ان کے کردار سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ دراصل کثرت سے کٹ کر کبھی بھی اقلیتی تحریکیں پروان نہیں چڑھ پاتی ہیں اس لئے مولوی عبدالمطیٰ کے لئے یہ ناگزیر تھا کہ وہ مقلدین سے کٹ کر یا ان کا ندوہ سے فوری طور پر پتہ صاف کر کے ندوہ کے معاملات پر گرفت کر لیں اس لئے وہ شروع سے ہی مقلدین کی آڑ میں اپنا کھیل کھیلتے رہے اور بالآخر علامہ

علامہ مکتب شبلی حصہ اول ص ۱۹۵ علامہ یادگار شبلی ص ۲۵۷

شبلی نعمانی کے استغفری کے بعد ۱۳۱۵ء کو وہ ندوہ کے ناظم منتخب ہو گئے اور مرتے دم تک اس حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس تمام عرصے میں ندوہ غیر قلعہ بن کا گڑھ بن چکا تھا چنانچہ مولوی عبدالحی کے بعد نواب حسن علی خان ناظم مقرر ہوئے اور ان کے فوراً بعد ہی مولوی عبدالحی کے لڑکے حکیم سید عبدالعلی ناظم ندوۃ العلماء مقرر ہوئے جس کے بعد ندوہ کی نظامت اور ندوہ عبدالحی کے گھر تک محدود ہو کر رہ گیا اور آج بھی مولوی ابوالحسن علی ندوی کا سکہ ندوہ پر چلتا ہے ان تمام حالات اور واقعات کی روشنی میں اگر علماء اہلسنت کے ندوہ کی پالیسیوں سے اختلاف پر نظر ڈالی جائے تو بخوبی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ علماء اہلسنت کی نگاہ دور رس نے مستقبل میں ندوہ کے خدو و خال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اور وہ جانتے تھے کہ اگر ندوہ کے مفاسد کو عام نہ کیا گیا تو عوام الناس کو مستقبل میں شدید و موکد اٹھا پڑے گا۔ آج ندوۃ العلماء سے متعلق جتنی کتابیں اور مضامین شائع ہو رہے ہیں ان میں دانستہ اختلافی مسائل کو نہیں چھیڑا جاتا کیونکہ ندوہ کے ابتدائی اختلافی حالات اگر سامنے آئے تو عوام الناس کو انصاف کے مواقع میسر آجائیں گے۔ چنانچہ ندوہ سے شائع ہونے والی سیرت مولانا محمد علی مونگیری، حیات عبدالحی، تاریخ ندوۃ العلماء، حیات شبلی اور دیگر کتابوں میں ندوہ کے ابتدائی حالات و واقعات اور اختلافات پر گفتگو نہیں کی گئی ہے جس کی بنا پر اب تک تصویر کا صرف ایک ہی رخ سامنے آسکا ہے۔ علماء اہلسنت کی ندوہ کے قیام میں کوششوں اور اصلاح ندوہ کی تحریک کو بہر حال ندوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا وحید محمد سورتی کی ندوہ کے قیام میں شرکت اور بعد میں مفاسد ندوہ کو عام کرنے کی جدوجہد کو پورے ہندوستان میں بنظر استہسان دیکھا گیا خصوصاً فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان نے کئی مقامات پر محدث سورتی کی خدمات کا بہت توصیفی انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ حاشیہ المعتقد المنقذ میں فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ فاضل کامل، کوہ، استقامت و کنتز کرامت ہمارے دوست اور محبوب مولانا محمد وحید احمد حنفی محدث سورتی وطناً اور مقیم علی بحیثیت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور وہ دین کی نصرت کرتے ہوئے اور بدعتیوں کا استحصال کرتے ہوئے باقی رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو حق پر پوری طرح قائم رکھے۔ ہمارے یہ دوست مولانا محمد علی مونگیری کے

شاگرد تھے جو کہ ندوہ کے ناظم ہیں اور مولانا لطف اللہ کے بھی شاگرد تھے۔ جو کہ ندوہ کے صدر تھے مگر مولانا وحید احمد کے قدموں کو یہ لوگ لغزش نہ دے سکے۔ حالانکہ مولانا کی معاش ندوہ سے وابستہ تھی جس نے آپ کے ساتھ عداوت کی اور آپ کو نقصان پہنچایا۔ لیکن مولانا نے دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دی اور میں نے اسی دن سے انہیں "الاسد الاسد الاشدا لاشد" کا خطاب دیا اور وہ اس کے اہل ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں۔ رلہ

۱۳۲۱ء میں مدراس میں ندوہ کا اجلاس ہونا قرار پایا۔ اس موقع پر فاضل بریلوی کے خلیفہ و مرید الحاج منشی محمد لعل خان دیلوری مدراس نے عوام الناس کو ندویوں کے عقاید باطلہ سے آگاہ کرنے کی مہم شروع کی اس ضمن میں انہوں نے بڑے پیمانے پر پمفلٹ اور کتابچے شائع کر کے عوام میں تقسیم کئے محدث سورتی کا نظر ثانی شدہ فتویٰ "الفتح الشواہد" بھی تقسیم کیا گیا جس کے نتیجے میں اجلاس ندوہ درہم برہم ہو گیا اور ندویوں کو خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا یہاں پر فاضل بریلوی نے الحاج منشی لعل خان کو مبارکباد دی۔ اور خط تحریر کیا جس میں آپ نے ندوہ کے سلسلے میں محدث سورتی کی خدمات کا وا شگاف الفاظ میں احترام کیا ہے۔ الحمد للہ کہ اللہ عزوجل نے مدراس میں ندوہ غمزدہ پر آپ کو فتح نمایاں بخشی۔ الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو حق کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں بے شمار نعمتیں اور اجر کثیر عطا فرمائے۔ اور آپ جیسے عالی ہمت خادم سنت ہادیم بدعت اہل سنت میں کثرت پیدا کرے۔ آمین۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم اجمعین آمین۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ آپ اور مولانا قاضی عبدالوحید صاحب اور مولانا مولوی محمد وحید احمد صاحب محدث سورتی کی شان کا ایک ایک سنی بھی ہر شہر میں پیدا ہو جائے تو انشا اللہ تعالیٰ اہلسنت کا طوطی بول جائے۔ رلہ

رلہ المعتقد المنقذ ص ۲۳۳، مولانا احمد رضا خان مطبوعہ مکتبہ حامدیہ لاہور۔

رلہ خزانہ کرامت ص ۱۱۱، حکیم منشی محمد لعل خان دیلوری مطبوعہ مطبع حنفیہ پٹنہ ۱۳۲۲ھ

ہندوستان میں ترک تقلید کی تحریک و جماع مشاہد

نافع الملن مولانا وصی احمد مدنی سورتی مسیحی امت حضرت امام ابوحنیفہ کے مقلد تھے غیر مقلدوں اور خصوصاً محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد و خیالات کا اتباع کرتے دہوں کو وہ لائق تکفیر تصور کرتے تھے۔ اصلہ ان کے والد مولانا محمد طیب سورتی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ملتے جلتے انداز میں تقلید کی اہمیت اور حوت سے آگاہ کیا کہ غیر مقلدوں کو خارج از ملت تصور کرنے لگی۔ ۱۸۵۴ء سے قبل اور اس کے بعد ہندوستان میں عدم تقلید کی تحریک نے بہت زور پکڑ لیا تھا۔ خصوصاً سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کی عظیمیسی اندیم مذہبی تحریک جہاڑے اس فتنہ کو عام کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس گروہ نے جو اصولی اللہ کے مکتبہ فکر سے اپنی نسبت کا دعویدار تھا۔ ایسی کتابیں تحریر کیں اور ایسے عقائد و نظریات کو پیش کیا جو مسلمانوں کے مابین شدید فرقہ وارانہ اختلافات کا باعث بنے۔ سوئین عرب میں چلاں سے اس فتنہ نے سراٹھایا تھا غیر مقلدوں اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کا تبلیغ کرنے والوں کی سرکوبی کی جا چکی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا بیان ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کی جماعت سے علماء مجاز اور عوام کو سخت نغصہ و عناد تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے وہابی ہمت پر اہم قرار دے لکھا تھا۔ اور دہلیوں کی جماعت ایک باغیانہ جماعت بھی جان تھی۔

اس کے برخلاف ہندوستان میں غیر مقلدوں کی تحریک رفتہ رفتہ فروغ پا رہی تھی اور اس کی تائید و حمایت میں سینکڑوں کتابیں اور اسلئے شائع ہو چکے تھے۔ ۱۸۵۰ء کے بعد شاہ اسٹیو سے وابستگی کا اظہار کر لیا۔ ایسے میاں ندیر حسین دہلوی غیر مقلدین کی جماعت کے امام قرار پائے۔ اور ان کی نگرانی میں اس جماعت کے عقائد و نظریات کی اشاعت و تبلیغ کا کام چلایا۔

۱۰۔ ابوالکلام آزاد کی کہانی خود ان کی ذہانی مدد سے مرثیہ مولوی عبدالذوق علی قلی بلوچ طبعات چٹان لاہور ۱۳۲۰

تھا۔ میاں ندیر حسین کو ہندوستان میں برسرِ اقتدار انگریز حکمرانوں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اس لئے غیر مقلدوں سے ٹکر لیتا یا ان کا محاسبہ کرنا حکومت وقت کی مخالفت کے مترادف تھا۔ لیکن اس کے باوجود ۱۸۵۰ء سے قبل امام المسکین مولانا فضل حق خیر آبادی سیف السلول مولانا فضل رسول بیالونی قادری عبدالرحمن پانی پتی اور مولانا نقی علی خاں نے اور ۱۸۵۴ء کے بعد مولانا ادریش حسین دہلوی، مولانا برکات احمد ٹوٹکی، مولانا عبدالقادر بدایونی، مولانا لطف اللہ علیگر علی، مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا مامی احمد مدنی سورتی اور دیگر علماء نے عدم تقلید کے فتنہ کی سرکوبی کے لئے کھل کر کام کیا۔ مولانا ادریش حسین دہلوی نے میاں ندیر حسین کے اعتقادات پر مشتمل کتاب معیار الحق کا رد انتقاد الحق کے نام سے لکھا اور مولانا احمد حسن کانپوری نے غیر مقلدوں کے عقائد کے رد میں ایک کتاب تنزیہ بہ الرحمن تصنیف فرمائی۔ جس کی تقریظ و تصدیق میں مولانا لطف اللہ علیگر علی نے بھی غیر مقلدوں کے عقائد پر سخت تصدیق کی۔

مکہ معظمہ میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور مولانا خیر الدین (والد بزرگوار مولانا ابوالکلام آزاد) رد و ہامیت میں بہت پیش پیش تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں علماء مکہ نے والد مرحوم (مولانا خیر الدین) سے کہا کہ وہابی عقائد کی کتابیں اور وہابیوں میں جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے نیز محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد کا رد بھی کافی طور پر نہیں ہوا ہے۔ شیخ احمد دحلان نے اس بارے میں خاص طور پر زور دیا اور اس طرح والد مرحوم نے ایک کتاب نہایت مشروح و بسط کے ساتھ لکھی جو ان کا تعارف میں صحت سے بڑھی ہے اس کا نام خبہ..... الرحمن الشیاطین ہے۔ یہ کتاب دس جلدوں میں ختم ہوئی ہے اور ہر جلد بہت ضخیم ہے۔ اس کتاب کی ترتیب اس طرح ہے کہ ایک سو چودہ مسکے مابہ النزاع منتخب کئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد جزئی اختلافات کے استحصا کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ ہر مسئلے کے لئے ایک باب قائم کیا ہے۔

۱۱۔ اصل کتاب میں بھی اس کتاب کا نام اس طرح درج ہے اور مولوی عبدالرناؤ نے حاشیہ پر لکھا ہے کہ اصل سورہ میں یہ کتاب کا نام اسی قدر لکھا ہوا ہے۔

اور اس میں پہلے قرآن سے پھر احادیث سے پھر اقوال علمائے اہل سنت سے رد کا التزام کیا گیا ہے اس طرح یہ کتاب ایک سو چورہ ابواب پر مشتمل ہے۔ ایک جلد صرف مقدمہ میں ہے۔ اور چونکہ وہ ان مسائل کے متعلق نہیں اس لئے معلومات کے اعتبار سے لگا بڑا کم ہے اس میں اصولی طور پر عقائد اہلسنت پرکٹ کی گئی ہے۔ اور ہر طرح کے اختلافات کو ختم کر کے اپنے مسلک کو بہت شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ انتظام یہ کیا گیا تھا کہ کتاب کی تصنیف و اشاعت ایک ساتھ ہو چنانچہ پہلی جلد جوں ہی تیار ہوئی چھپ گئی۔ اسی طرح دوسری جلد بھی، یہ دونوں جلدیں سرکاری پریس مطبع میری میں چھپی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کے درمیان میں سفر و پیش آگیا اس لئے بقیہ جلدیں چھپ نہ سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور رسالہ بھی اسی مطبع میں شائع ہوا ہے جس میں والد مرحوم نے وہ ایک سو چورہ مسئلے بلا تردید کے اس طور پر درج کئے ہیں کہ ایک کالم میں وہ ہیں اور دوسرے میں وہ عقائد ہیں جن کو وہ عقائد اہلسنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ شریف مکہ کی فرمائش اور مفتی حجاز شیخ احمد حلالان کے اصرار سے اس رسالہ کو مرتب کیا گیا ہے۔

سرد میں عرب پر دو ہا بیت کے زور و شور نے ہندوستان کے غیر مقلدوں میں بڑی بے چینی پیدا کر دی تھی چنانچہ وہ مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ عدم تقلید کی تحریک کو مستحکم بنانے کے لئے کسی صورت مرکز المسالین مکہ معظمہ کے ابواب اختیار سے تائید و حمایت حاصل کی جائے۔ لیکن ان کو اپنی ہر کوشش میں منہ کی کھانی پڑی، ۱۸۵۴ء کے بعد ہندوستان سے علماء و باہر کی ایک جماعت جو اکتیس افراد پر مشتمل تھی اپنے عقائد کی تائید حاصل کرنے مکہ معظمہ پہنچی۔ اس جماعت میں مولوی محمد انصاری، مفتی محمد مراد جنگالی، شیخ عبداللطیف، قاضی محمد سلیمان جوٹا گڑھی، اور کئی افراد شامل تھے۔ اس جماعت کے مکہ معظمہ پہنچنے پر مولانا خیر الدین نے جو ان دنوں مکہ میں ہی تھے۔ شدید احتجاج کیا اور شریف مکہ سے مطالبہ کیا کہ ان کے عقائد کی تحقیقات کریں چنانچہ شریف نے ایک مجلس مقرر کر دی۔ اور مولانا خیر الدین نے اس مجلس کے سامنے علماء کی

۱۸۵۴ء کی کہانی

اس جماعت سے سترہ سوالات کئے۔ جن میں وجوب تقلید شخصی، استیجاب قیام زیارت قبور کے لئے سفر اور استمداد و توسل بالعالمین وغیرہ سے متعلق جوابات طلب کئے گئے تھے۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد اس موقع پر بجز تین شخصوں کے اور سب نے تقیہ کیا۔ اور کسی نے بھی استقامت نہ دکھائی۔ سوائے چنانچہ اکتیس افراد پر مشتمل اس جماعت کو خارج البلد کر دیا گیا۔ اور حجاز کا پولیس نے انہیں جہاز لاکر برٹش کونسل کے حوالہ کر دیا جہاں سے یہ لوگ جہاز میں بیٹھ کر بمبئی واپس آئے۔ سرد میں حجاز سے علماء و باہر کی جماعت کا اخراج بظاہر تو علماء اہلسنت کے نزدیک بڑا مستحسن تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں وہابیوں کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ مناظروں اور مباحثوں کی دعوت عام ہو گئی۔ فقہ کی عدم ضرورت پر اصرار کیا گیا۔ اور بعض متشدد افراد نے مقلدوں پر کفر کے فتوے لگائے جیسا کہ کتاب اعتصام السنۃ مطبوعہ کانپور مصنف مولوی عبداللہ محمدی ساکن موالہ آباد میں درج ہے کہ چاروں ائمہ اربعہ کے پیروکار اور چاروں طریقوں کے متبع یعنی حنفی مالکی شافعی حنبلی اور چشتی قادری نقشبندی و مجددی یہ سب لوگ کافر ہیں۔

غیر مقلدوں کی ان فتنہ سامانیوں نے سواد اعظم میں ایک سہجان پیدا کر دیا تھا علماء اہلسنت نے یہ جانتے ہوئے بھی کاس گروہ کے سربراہ میاں نذیر حسین کو انگریز حکمرانوں کے پوری طرح تائید و حمایت حاصل ہے۔ بلا خوف و خطر اور مصلحت سے بالا تر ہو کر اس فتنہ کی شدید مذمت کی جبکہ علماء کی ایک جماعت نے جو بعد میں دیوبندی مکتبہ فکر کی صورت میں ظاہر ہوئی عدم تقلید کے فتنہ کی تردید میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف مسلمانوں میں فرقہ الہمدیث کا اضافہ ہو گیا بلکہ تاویانیت اور پرویزی فتنہ انگار سنت کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔

۱۸۵۴ء کی جنگ آزادی میں میاں نذیر حسین نے کمپنی کی حکومت کا ساتھ دیا تھا اور

۱۸۵۴ء کی کہانی
یہ تمام تفصیلات بھی ابوالکلام کی کہانی سے اخذ کی گئی ہیں۔
۱۸۵۴ء اعتصام السنۃ۔ مصنف مولوی عبداللہ محمدی، مطبوعہ کانپور۔

معاصر علماء کے مؤقف کی جو انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے تاہم انہیں کی تھی۔ میاں نذیر حسین کی سوانح عمری 'الحیاء بعد الہمامہ' میں مولوی فضل حسین بہاری نے لکھا ہے کہ میاں صاحب حکومت انگلشیہ کے بڑے وفادار تھے، زمانہ غدر ۱۸۵۷ء میں جبکہ دہلی کے چند مقتدر اور بیشتر معمولی مولویوں نے انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ دیا تو میاں صاحب نے نہ اس پر دستخط کئے اور نہ مہر لگائی۔ وہ خود فرماتے تھے کہ 'میاں وہ ہلتر تھا بہاد شاہی نہ تھی۔ وہ بے چارہ بوڑھا بہاد شاہ کیا کرتا۔ حشرات الارض کی طرح خانہ براندازوں نے تمام دہلی کو خراب، ویران، تباہ اور برباد کر دیا۔ شرائط امارت و جہاد بالکل مفقود تھے۔ ہم نے تو اس فتویٰ پر دستخط نہیں کیا۔ مہر کیا کرنے اور کیا لکھتے۔ مفتی صدالمدین خاں صاحب چکرمیں آگے بہاد شاہ کو بھی بہت سمجھایا کہ انگریزوں سے لڑنا مناسب نہیں ہے۔ مگر وہ باغیوں کے ہاتھ کٹھ پتلی ہو رہے تھے۔ کرتے تو کیا کرتے۔' سہ

میاں نذیر حسین نے جنگ آزادی کے دوران جبکہ فرنگی سپاہی دہلی میں ہر گئی اور کوچہ کو پھانسی گھاٹ میں تبدیل کر چکے تھے۔ مجاہدوں کی یوزشوں سے انگریزوں کو بچانے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے مجاہدین کو جہاد سے باز رکھنے اور ان میں مایوسی پھیلانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی۔ جیسا کہ 'الحیاء بعد الہمامہ' کے بعض واقعات سے ظاہر ہے۔ حتیٰ کہ میاں نذیر حسین کو کمپنی کی حکومت کا تحفظ اس قدر حاصل تھا کہ جس زمانے میں پناہ شہر دہلی محصور اور قلعہ بند تھا تو وہ آزادانہ طور پر دہلی کے گلی کوچوں میں گشت کرتے رہتے تھے۔ 'حیاء بعد الہمامہ' میں درج ہے کہ عین حالت غدر میں کہ جب ایک ایک پکر انگریزوں کا دشمن ہو رہا تھا۔ میاں صاحب ایک دفعہ میم سنرلیسنس کو رات کے وقت اٹھا کر اپنے گھر لے آئے پناہ دی۔ علاج کیا کھانا دیتے رہے۔ اس وقت اگر ظالم باغیوں کو ذرا خبر بھی ہو جاتی تو آپ کے قتل اور خانماں بربادی میں مطلق دیر نہ لگتی۔ طرہ اس پر یہ تھا کہ پنجابی کٹرہ والی مسجد کو تعلقاً باغی دخل کئے ہوئے تھے اور اسی سے ملا ہوا میاں صاحب کا زمانہ مکان تھا۔ اس میں اس میم کو چھپائے رہے اور ماٹھے

تہ 'الحیاء بعد الہمامہ' ص ۱۲۵ مولوی فضل حسین بہاری، مطبوعہ مکتبہ شعیب کراچی ۱۹۵۹ء

تین ماہ تک کسی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ حربی کے مکان میں کتنے آدمی ہیں۔ تین مہینوں کے بعد جب پوری طرح امن ہو گیا تب اس میم کو جواب تند دست ہو چکی تھی انگریزی کیمپ میں پہنچا دیا جس کے صلہ میں میاں صاحب اور ان کے اہل خانہ کو مبلغ ایک ہزار تین سو روپیہ اور انگریزی سرکار سے وفاداری کے سرٹیفکیٹس ملے۔ سہ

ان تمام واقعات کی روشنی میں میاں نذیر حسین اور ان کی جماعت کو انگریزوں کا مخالف کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ۱۸۵۷ء بمطابق ۱۸۵۳ء میں میاں نذیر حسین نے سفر حج کا ارادہ کیا تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ شاید مخالفین مکہ میں کوئی رکاوٹ پیدا کریں چنانچہ انہوں نے اس ارادہ کا اظہار فرنگی حکمرانوں سے کیا۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد مولانا نذیر حسین نے چونکہ غدر میں سنرلیسنس کی جان بچائی تھی۔ اس لئے حکام سے ان کے تعلقات اچھے تھے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر دہلی کے ذریعہ سے فارن آفس (دفتر خارجہ) میں سلسلہ جنباتی کی اور جدہ میں برٹش کونسل کے نام ایک سفارشی چٹھی بھجوائی جس میں لکھا تھا کہ ان کی حفاظت کی جائے اور جو ضرورت انہیں پیش آئے سستی الامکان اس میں پوری طرح مدد دی جائے۔ سہ

میاں نذیر حسین نے ۱۰ اگست ۱۸۵۳ء بمطابق ہر ذی قعدہ ۱۲۷۲ھ کو کٹرہ دہلی مسٹر جے ڈی ٹریملیٹ اور سنرلیسنس کے شوہر سے بھی سفارشی خطوط حاصل کئے جن میں لکھا تھا کہ 'مولوی نذیر حسین دہلی کے ایک بڑے مقتدر عالم ہیں جنہوں نے نازک وقتوں میں اپنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ثابت کی ہے وہ اپنے فرض زیارت کعبہ کے ادا کرنے کو مکہ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برٹش گورنمنٹ انسر کی وہ چاہیں گے وہ ان کو مدد دے گا کیونکہ وہ کامل طور پر اس مدد کے مستحق ہیں۔' سہ

مولانا ابوالکلام آزاد کا بیان ہے کہ 'ہندوستان میں اس وقت چونکہ تقلید اور عدم تقلید کا فتنہ زور پر تھا اور مولانا نذیر حسین غیر مقلدین کے سب سے بڑے شیخ سمجھے جاتے تھے۔

سہ 'حیاء بعد الہمامہ' ص ۱۲۵ (مذکورہ سرٹیفکیٹس کی نقول بھی اسی کتاب میں شامل ہیں۔)

سہ ابوالکلام کی کہانی۔ ص ۱۱۹

سہ 'حیاء بعد الہمامہ' ص ۱۲۰

اس لئے فردائے مکہ اطلاع دی گئی کہ جماعت رہا بیہ کاسب سے بڑا سرغنہ آرہا ہے۔ اگر یہاں کوئی کلہوڑائی نہ کی گئی تو اس بات کو وہابی حجاز میں اپنی فتح سے تعبیر کریں گے۔ اور عوام میں اس سے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا نذیر حسین کی کتابوں اور فتاویٰ کے بعض مطالب کا عربی میں ترجمہ کر کے پیش کیا گیا۔ ۱۳۰ھ

جامع الشواہد کی اشاعت

میاں نذیر حسین کی سفر حجاز پر روانگی سے قبل یعنی ذیقعد ۱۲۹۸ھ میں غیر مقلدوں اور مقلدوں کے درمیان شہر دہلی میں جو میاں نذیر حسین کا ہیڈ کوارٹر تھا شدید تنازعہ پیدا ہو گیا۔ نزاع کی یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ دیوانی اور فوجداری عدالت میں مقدمات دائر ہو گئے میاں نذیر حسین نے اس سلسلہ میں کمشنر دہلی سے مدد چاہی اور کمشنر نے فریقین کے بعض افراد کو اپنی کورٹھی پر طلب کر کے باہم ملاپ اور دفع فساد کرانا چاہا۔ چنانچہ ۲۸ ذیقعد ۱۲۹۸ھ کو ایک معاہدہ مابین فریقین ہوا۔ جس کی رو سے ایک دوسرے پر اعتراضات کا حق ختم کر دیا گیا۔ اس معاہدہ پر فریقین میں موجود علماء، طلباء اور شہریوں کے دستخط موجود تھے۔ دہلی کے عوام اہلسنت نے اس معاہدہ کا مکمل احترام کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن غیر مقلدوں نے اس معاہدے کو بڑی تعداد میں شائع کرا کے پورے ہندوستان میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ معاہدہ نہیں فتویٰ ہے۔ جو فریقین کے علماء نے مشترکہ دستخطوں سے جاری کیا ہے۔ ۱۳۰ھ

غیر مقلدوں کی یہ حرکت سواد اعظم کے لئے بہت تکلیف کا باعث ہوئی۔ خصوصاً دہلی کے علماء اہلسنت نے اس کا سختی کے ساتھ نوٹس لینے ہوئے ہندوستان کے علماء سے اپیل کی کہ وہ غیر مقلدوں کے اس پروپیگنڈہ کا جواب دیں اور غیر مقلدوں کی مذہبی حیثیت مسلمانان

۱۳۰ھ ابوالکلام کی کہانی۔ صفحہ ۱۳۰

۱۳۰ھ جامع الشواہد مرتبہ مولانا وصی احمد محدث سورتی بطور مدد ملحق فیض محمدی لکھنؤ۔

ہند پر واضح کریں۔ علماء کی اس اپیل کا پورے ہندوستان میں خیر مقدم کیا گیا اور متعدد کتابیں و رسالے رد و ہا بیہ میں شائع ہوئے۔

تنازعہ دہلی سے پیدا ہونے والی کشیدگی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی کہ میاں نذیر حسین کے ارادہ نزع نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔ ایک مرتبہ پھر علماء اہلسنت کمر بستہ ہو گئے۔ اور ہر مکہ مکرمہ سے مولانا خیر الدین نے علماء ہند کے نام مکتوب ارسال کئے۔ کہ وہ میاں نذیر حسین کے عقائد کے سلسلے میں فتویٰ ارسال کریں تاکہ یہاں ان کی مضبوط گرفت کی جاسکے۔ اس موقع پر مولانا وصی احمد محدث سورتی نے میاں نذیر حسین اور ان کے تلامذہ کی عبارتوں سے ایک فتویٰ 'جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد' ترتیب دیا جس پر علماء دہلی، دیوبند، لدھیانہ، کانپور، فرنگی محل اور بمبئی کے دستخط و مواہر ثبت تھے۔ یہ فتویٰ مدرسۃ الحدیث پبلیشمنٹ کے دارالافتاء سے جاری ہو کر مطبع فیض محمدی لکھنؤ سے شائع ہوا اور پورے ہندوستان میں تقسیم کیا گیا۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی نے اس فتویٰ کی کچھ کاپیاں ہندوستان کے عازمین حج کے ساتھ حجاز بھی روانہ کیں۔ مولانا عبدالقادر بدایونی خلف مولانا فضل رسول بدایونی بھی اس سال حج بیت اللہ کی زیارت کو جا رہے تھے چنانچہ مولانا وصی احمد نے ان کے ہاتھ جامع الشواہد مولانا خیر الدین، مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ارسال کی جو حجاز میں رد و ہا بیہ کی تحریک میں پیش پیش تھے۔

غرض جب میاں نذیر حسین جب اپنی جماعت کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں صورتحال ہی مختلف تھی۔ مولانا خیر الدین حجاز کے حکام کو تمام حقائق سے آگاہ کر چکے تھے اس لئے مکہ میں میاں نذیر حسین اور ان کی جماعت کی نگرانی شروع ہو گئی۔ مولانا ابوالکلام انانے میاں نذیر حسین کے درود مکہ اور قیام حجاز کی بڑی جامع تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں ہندوستان میں ایک فتویٰ جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد کے نام سے مرتب ہوا تھا۔ والد مرحوم (مولانا خیر الدین) نے مولانا نذیر حسین مرحوم کے عقائد

ذوالحجہ پانچویں امرتسر کے ہفت روزہ اخبار الفقہیہ نے اپنی ۵ جولائی ۱۹۱۹ء کی اشاعت میں یہ توبہ نامے من وعن شائع کر دیے۔ اخبار لکھتا ہے کہ۔ ناظرین باتمکین۔ یہ وہ توبہ نامہ ہے کہ مذہب و ہابہ کے امام مولوی نذیر حسین سودج گڑھی شہ الدہلوی مع جماعت و ہابہ شہ میں جب حج کے واسطے مکہ معظمہ گئے اور والی حجاز کو ان کی لامذہبیت کی اطلاع ہوئی تو ان کو گرفتار کر کے حکمہ علیہ میں طلب کیا تب مولوی نذیر حسین نے وہابیت سے توبہ کی اور بقلم خاص تحریر کیا کہ اب میں وہابیت سے تائب ہوا اور مذہب حنفی اختیار کیا۔ چنانچہ وہ توبہ نامہ حسب حکم والی حجاز کے (مطبع میرہ واقع مکہ معظمہ) ۲۶ ذی الحجہ ۱۳۳۸ھ میں طبع ہو کر اطراف عالم میں پہنچا ہر ملک کے لوگ اس توبہ نامہ سے واقف ہیں۔ اصل توبہ نامہ مطبوعہ مکہ معظمہ حافظ عبداللہ مرحوم (امام مسجد جامع بہار) کے مکان میں موجود ہے اور اس کی نقل عالم اہل اسلام کی یاد دہانی کے واسطے شائع کی جاتی ہے۔

نقل توبہ نامہ :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخذہ و نصلی علی رسولہ الکریم
 اما بعد فان السید المولوی محمد نذیر حسین الدہلوی والی حجاز
 ابن الحاج اسماعیل بن غیر القلند سرتار ہیں ایک گمراہ فرقہ غیر مقلدین وہابہ کے۔ یہ دونوں اشخاص مکہ مکرمہ میں آئے
 وصلوا الی مکة المکرمة فلما ظهر حالهما احضرا فی المحكمة العلیة واستماعا قبا با عن
 العقیدة الفصالة الجدیدة والطریقة الحبشیة الوهابیة بین یدئ حضرت المشیرة المفتحة والدستور الکریم والوزیر المعظم والی ولایة الحجاز
 بسم اللہ الرحمن الرحیم بخذہ و نصلی علی رسولہ الکریم
 اما بعد مولوی سید نذیر حسین دہلوی اور مولوی الحاج سلیمان ابن الحاج اسماعیل جو ناگڑھی جو کہ
 سردار ہیں ایک گمراہ فرقہ غیر مقلدین وہابہ کے۔ یہ دونوں اشخاص مکہ مکرمہ میں آئے
 جب انکی حقیقت کھل تو ان دونوں کو حکمہ عالیہ میں طلب کیا گیا باز پرس ہوئی پس
 دونوں نے توبہ کی اس نے گندے عقیدے اور طریقہ حبشیہ وہابہ سے حجاز مقدس کے
 فرمانروا والی سید عثمان نوری ان کے اقبال

دوالتو السید عثمان نوری لا زالت شمس اجلالہ من انق الاقبال بازغہ وکتبا
 بقلمہما ما ترجمتہ هذا وكذلك تاب کل من کان عقیدة عقیدتہما من رفقاءہما و
 ممن اقام بمکة المکرمة وذاک فی السادس والعشرین من من الحجۃ من عام ۱۳۳۸ھ
 کا سوزح ہمیشہ ضو فلکن رہے کے دربار میں
 دونوں اشخاص نے اپنے قلم سے ایک توبہ نامہ
 لکھا جو سوزح ذیل ہے اور اس طرح تمام حاضرین
 میں سے جو لوگ اس عقیدہ کے حامل تھے اور
 جو ان کے ہم عقیدہ رفیق تھے اور مکہ میں مقیم
 تھے سب نے توبہ کی۔ ۲۶ ذی الحجہ ۱۳۳۸ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً ومصلياً اما بعد
 فان العجز السید محمد نذیر حسین متبع السنۃ والجماعة عقیدة تبتلا وانا اعلم ان
 خلافتها من المذاهب کلها سوء سواع کان من الرافضیة والخارجیة والوهابیة
 وانی افتی موافقا للمذہب الحنفی وانا حنفی المذہب وبتت مما اخطأت و
 صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً ومصلياً اما بعد
 ناچیز سید محمد نذیر حسین متبع ہے سنت و جماعت کا اندوئے عقیدہ و عمل کے مجھے معلوم
 ہے کہ مسلک اہلسنت کے علاوہ ہر مذہب برا ہے۔ خواہ رافضیہ کا ہو خواہ خارجیہ کا
 یا وہابہ کا اور میں مذہب حنفی پر فتویٰ دیتا ہوں اور حنفی ہوں اور جو مجھ سے لغزش
 ہوئی میں ان سے توبہ کرتا ہوں صلوات و سلام نازل ہوں ہمارے آقا و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پر اور آپ کی آل پر صحابہ پر اور سب پر۔

الراقم السید محمد نذیر حسین بقلمہ
 الراقم السید محمد نذیر حسین بقلم خود

بنیادی طور پر جامع الشواہد کی ترتیب و اشاعت کا مقصد سرزمین حجاز پر میاں نذیر حسین کے عقائد کی گرفت تھا لیکن بعد میں یہ فتویٰ غیر مقلدوں کے رد میں ایک جامع دستاویز کی شکل اختیار کر گیا۔ اور تقریباً نصف صدی تک اس فتویٰ کی گونج ہندوستان میں سنائی دیتی رہی۔

غیر مقلدوں کے رد میں لکھی جانے والی بیشتر کتابوں میں علماء نے اس فتویٰ کو اپنا ماخذ بنایا اور بیشتر کتابوں میں بطور حنیفہ بھی اسے شامل کیا گیا۔ ہر چند اس فتویٰ پر مختلف بلاد و اصعار کے علماء کی مواہیر ثبت ہیں اور اس فتویٰ کی عبارتوں کی تصدیق موجود ہے لیکن اس کے باوجود غیر مقلد ہمیشہ اس کی صحت سے انکار کرتے رہے۔ چنانچہ غیر مقلد مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی نے اپنے پرچے اشاعت السنہ نمبر ۹ جلد ششم بابت ماہ رجب ۱۳۲۷ھ میں ایک اشتہار دیا جس کی عبارت یہ تھی کہ جو شخص ان اعتقادات اور عملیات کو جو کہ فرقہ غیر مقلدین کی طرف ایک پرچہ جامع الشواہد مطبوعہ فیض محمدی لکھنؤ میں منسوب کر دیے گئے ہیں ان کی کتب معتبرہ سے ثابت کر دے تو ہزار روپے نقد پائے۔ سہ مولانا عبدالعلی آسی مدداسی نے اپنے رسالہ تنبیہ الوبابین میں اس اشتہار پر تبصرو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غیر مقلدوں نے عوام مقلدین حنیفہ کو بہکانے اور شک میں ڈالنے کے واسطے یہ ایک نیا طریقہ نکالا تاکہ وہ عوام پر یہ تاثر دے سکیں کہ جو کچھ ہمارے بارے میں تحریر کیا جا رہا ہے وہ سب غلط اور بے بنیاد ہے جبکہ فتویٰ جامع الشواہد میں مفتی لبیب نے پہلے ہی سے بایں خیال کہ کسی منکر کو ان عقائد و اعمال کے مان لینے میں گنجائش انکار کی نہ ہو ہر ایک عبارت کو جو الہ ہند صغیرہ کتاب مع تصریح نام مطبعہ مصنف کتاب کے صاف صاف لکھ دیا اور ان ہی غیر مقلدین کی چھپ ہوئی تحریر سے ان کے عقائد و فاسدہ اور اعمال کا سہ کو بخری ثابت کر دیا ہے پھر ان مسائل کے طلب ثبوت میں اشتہار دینا کس قدر جاہل اور فریب دہی عوام ہے۔ اور کتنی بڑی دھوکے بازی کا یہ کام ہے۔ اسی زمانہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ زید اپنے آپ کو حنفی بتاتا ہے اور وہ مولوی نذیر حسین کاملاح ہے اور یوں کہتا ہے کہ جامع الشواہد میں جو عقائد غیر مقلدین کے درج ہیں وہ غلط ہیں۔ صاحب جامع الشواہد نے غیر مقلدوں پر تہمت کی ہے؟

مولوی رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا کہ: غیب کی بات کو اللہ جانتا ہے مگر اصل حال

سہ مولانا عبدالعلی آسی مدداسی ص ۴۲ تنبیہ الوبابین صغیرہ ختم السین مطبوعہ آسی لکھنؤ ۱۳۰۸ھ
سہ مولانا عبدالعلی آسی مدداسی ص ۴۲ تنبیہ الوبابین صغیرہ ختم السین مطبوعہ آسی لکھنؤ ۱۳۰۸ھ

ہے کہ اس زمانہ میں غیر مقلد تھیہ کر کے اپنے آپ کو حنفی کہہ دیتے ہیں اور واقعہ میں حنیفہ کو شرک بتلاتے ہیں۔ خود مولوی نذیر حسین نے منکر معتبرہ میں غیر مقلد سہنسے تبری اور حلف کیا اور حنفی اپنے آپ کو بتلایا اور ہندوستان میں وہ ہر روز سخت غیر مقلد تھے اور اب بھی وہ ایسے ہی ہیں۔ سو امام کا جب یہ حال تو ان کے مقتدی کیسے کچھ ہوں گے۔ اور مولوی نذیر حسین کا حنیفوں کو بدتر از ہنود کہنا معتبر لوگوں سے سنا گیا ہے اور خود غلطی ان کے شاگرد ان کے تعلید شخصی کو شرک بتلاتے ہیں۔ تو یہ شخص مداح ان کا کس طرح حنفی ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ اس کا قابل قبول نہیں بظاہر حال اور جامع الشواہد سے لاریب دوسرے غیر مقلدین بھی تبری کہتے ہیں مگر جس جس رساں سے صاحب جامع الشواہد نے عبارتیں نقل کی ہیں ان میں ہرگز تحریف نہیں چند موقع سے بندہ نے بھی اس کا مطالعہ کر دیکھا ہے اور یہ عقائد بعض غیر مقلدین کے بعض معتبروں کی زبانی دریافت ہوئے۔ اور وہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سہ

فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان سے بھی ۱۰ ارشوال ۱۳۲۷ھ میں مولانا محمد فضل الرحمن امام جامع مسجد صدر بازار فیروز پور پنجاب نے غیر مقلدوں کے سلسلہ میں ایک مسکرو دیانت کیا جس کا جواب فاضل بریلوی نے ۱۰ النہی الاکید عن الصلاة و ادعاء عدی التقليد کے تاریخی نام کے ساتھ ایک رسالہ کی شکل میں دیا۔ اس جواب کی دلیل سرگم میں فاضل بریلوی نے جامع الشواہد فی اخراج الوبابین عن المساجد کو ماخذ بنایا ہے اور لکھا ہے کہ جتنا مولوی دسی احمد صاحب سورتی سلمہ اللہ تعالیٰ نے عقائد غیر مقلدین نقل کر کے ان کے بعض عملیات بھی جامع الشواہد میں تلخیص کئے ہیں یہاں اس کے چند کلمات بطور اتعات لکھنا کافی سمجھتا ہوں۔ سہ

جامع الشواہد مختلف بلاد و اصعار سے مختلف ادوات میں متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ بعد تحقیق اس کی اشاعت کے سلسلہ میں جو معلومات فراہم ہوئی ہیں ان کی ترتیب یہ ہے۔

۱۔ مطبعہ فیض محمدی لکھنؤ ۱۳۹۸ھ تعداد اشاعت دس ہزار

۲۔ مطبعہ نظامی کانیپور ۱۳۰۸ھ تعداد اشاعت دو ہزار

سہ محمد عاشق اپنی میرٹھی ص ۱۴۵ مذکورہ رشید احمد اول مطبوعہ مکتبہ تفسیر گنج روز میرٹھی
سہ فرادی ہنویہ ص ۳۰ جلد سوم سرگم فاضل بریلوی مطبوعہ سنی دارالاشاعت مہلک پورا مظہر گڑھی ۱۳۱۱ھ

- ۳۔ مطبع گلزار محمدی لاہور ۱۳۰۲ھ تعداد اشاعت پانچ ہزار
- ۴۔ فیض بخش روزنامہ پریس لاہور ۱۳۰۸ھ تعداد اشاعت ایک ہزار
- ۵۔ مطبع کرمی لاہور ۱۳۵۲ھ تعداد اشاعت ایک ہزار
- ۶۔ مکتبہ بنوریہ لاہور ۱۹۵۸ء تعداد اشاعت ایک ہزار
- ۷۔ مکتبہ اہلسنت پبلی جھیت ۱۳۴۲ھ تعداد اشاعت ایک ہزار
- ۸۔ مطبع ریاض اگرہ (سن اشاعت و تعداد معلوم)

اس کے علاوہ جن کتابوں میں جامع الشواہد کو بطور ضمیمہ پیش کیا گیا ان کی تفصیل ہے۔

- ۱۔ فتح البین مؤلف مولانا منصور علی خان مطبع دارالعلم والعمل فرنگی محل لکھنؤ ۱۳۰۱ھ
- ۲۔ تنبیہ الوبابین مؤلف مولانا عبدالعلی مدداسی مطبع آسی لکھنؤ ۱۳۰۸ھ
- ۳۔ نصر المقلدین مؤلف حافظ احمد علی بٹالوی مطبع آسی مدداسی لکھنؤ ۱۳۲۰ھ
- ۴۔ اخراج المناہقین مؤلف مولانا بنی بخش حلوانی مطبع کرمی لاہور ۱۳۵۲ھ

جامع الشواہد کو اکثر علمائے ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے ایسی کتب کی فہرست طویل ہے چنانچہ تفصیل سے گریز کرتے ہوئے یہاں جامع الشواہد کا اصل متن شائع کیا جا رہا ہے جو مولانا عبدالعلی مدداسی کے رسالہ تنبیہ الوبابین کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہوا تھا۔ اور اس میں تمام بلاد و معاصر کے علمائے کرام کی مواہب تصدیقات و تقریحات بھی شامل ہیں۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جس طرح ابوالکلام آزاد نے میر عظمت اللہ کے خبر ملکہ امی کے رسالہ "ذباہ خاطر" کا نام اپنے مجموعہ مکاتیب کے لئے مستعار لیا ہے اسی طرح انہوں نے حضرت محدث سورتی کے رسالہ "جامع الشواہد" کا نام بھی سوامی ششروہا شند کو جامع مسجد جلی میں لے جانے اور منبر و سول برعطا کر تقریر کروانے کی حمایت میں اپنے تصنیف کردہ ایک رسالہ "تخلیہ مستعار لیا اور اس کا نام جامع الشواہد لے کر خول غیر المسلم فی الساجد رکھا۔ (خواجہ رضی حیدر)

ایک غلط بیانی کا ازالہ

تطبی تذکرہ نویس جناب ایوب قادری نے اپنی کتاب "جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں تحریک مجاہدین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جس کے سرگروہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی تھے اور جنہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلمانان ہند کی بڑھتی ہوئی نفرت کا رخ سکھوں کی طرف پھیرنے کی ناکام سعی کی تھی۔ اس تحریک کا تاریخی پس منظر، معاصر واقعات اور ہندوستان میں وہابی تحریک کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتیوں کا اجمالی جائزہ پیش کیا ہے۔ محمد ایوب قادری نے اس ضمن میں یک طرفہ فیصلہ دیتے ہوئے معاصر اور غیر معاصر کی تمیز بھی اٹھادی اور بیک قلم ان تمام کتابوں کا تحریک مجاہدین کے ضمن میں تذکرہ کر دیا جو تحریک مجاہدین کی ناکامی کے پچاس یا ساٹھ سال بعد ضبط تحریر میں آئی تھیں۔ اس وقت تک وہابی عناصر مختلف چہلے بدل چکے تھے۔ اور صرف فرقہ الہمدیث سے وہابی مراد لی جاتی تھی جیسا کہ بعد میں ایک وہابی مولوی محمد حسین بٹالوی نے حکومت برطانیہ کی باقاعدہ دفناری کا اعلان کیا اور سرکاری تحریرات میں وہابی کے بجائے اہل حدیث لکھے جانے کے باقاعدہ احکام جاری کرے۔ ایسی صورت میں حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور وہ بھی ان افراد کی جانب سے جو تاریخی شعور کو اپنی جاگسیز تصور کرتے ہیں۔ تاریخ کے ساتھ صریحاً انصافی ہے۔

محمد ایوب قادری نے اپنی کتاب میں بعض علمائے کرام کے عنان کے تحت لکھا ہے کہ:۔۔۔ بہت سے علمائے مذہبی خدمات سمجھ کر وہابیوں کی مخالفت کی۔ حکومت نے ایسے علمائے سرگرمیوں کو بہ نظر سسان دیکھا اور ان علمائے کرام کو بالواسطہ ان خدمات کا معاوضہ دیا۔ وہابیوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ مقدمات قائم کر کے ان کے قبضے سے مسجدیں نکالی گئیں۔ مولوی وصی احمد سورتی ثم پہلی بھیت (ف ۱۳۳۲ھ) نے ایک فتویٰ جامع الشواہد فی اخرج الوبابین عن المساجد مرتب کیا۔

گم نام سے گمنام مولوی نے اس پر دستخط کئے۔ اس فتوے کی خوب شہیر ہوئی۔
حضرت مولانا دوسی احمد محدث سورتی کے رسالہ جامع الشواہد کو تحریک جہاد کے ضمن میں
پیش کرنے کی یہ کوشش تاریخی شواہد کی روشنی میں بے جواز اضافہ معلوم ہوتی ہے۔ جو سلسلہ سربندی
پر مبنی ہے۔ جناب ایوب قادری جیسے زور و قہم مذکورہ نویس کی جامع الشواہد کے تاریخی پس منظر سے
لا علمی ٹبری مضمون کو خیر معلوم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے کرم فرمادوں کی مزید خوشنودی
کے لئے سوالوں کے اجتماع کی کثرت ضروری سمجھی ہو اور اس افراتفری میں وہ یہ بھول گئے ہوں کہ
جامع الشواہد کا سن اشاعت و ترتیب ۱۲۹۸ھ ہے جبکہ تحریک جہاد تقریباً نصف صدی
قبل کا قصہ ہے۔ جہاں تک جامع الشواہد پر گمنام سے گمنام مولویوں کے دستخط کی بات ہے تو
میں صرف اتنا یاد دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فتویٰ پر قاری عبدالرحمن پانی پتی مولوی رشید
احمد گنگوہی، مولوی محمود الحسن، مولوی یعقوب نانوتوی، مولوی حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا
محمد عادل کاپوری، مولانا محمد علی مونگیری اور مولانا محمد مہدی فرننگی علی کے نام دستخط کرنیوالوں
میں قابل ذکر ہیں۔ جو اُس زمانے میں نہ صرف ہندوستان گیر شہرت کے حامل تھے بلکہ مختلف
مدارس میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر
یہ ہے کہ جامع الشواہد کا مقصد میاں نذیر حسین دہلوی کے عقائد کو الہم لشرح کرنا تھا جیسا
کہ جامع الشواہد کی اشاعت کے باب میں درج کیا جا چکا ہے اور میاں نذیر حسین کو کشتہ دہلی
وانگریزوں کی مکمل تائید حاصل تھی اس لئے جامع الشواہد پر یقیناً ان علمائے جو بالواسطہ
یا بلاواسطہ حکومت ہند سے وابستہ تھے۔ وقتی مصلحتوں کے پیش نظر دستخط یا تصدیق سے
گریز کیا ہوگا۔ کیونکہ جامع الشواہد کی ترتیب و اشاعت اُس وقت انگریزوں سے دشمنی مول

۱۔ مولانا ایوب قادری صاحب جنگ آزادی ۱۸۵۷ء اور دوسری جنگ ۱۸۵۷ء اور دوسری جنگ ۱۸۵۷ء اور دوسری جنگ ۱۸۵۷ء
پر سنی ایک اور عبارت ایوب قادری نے سید احمد بریلوی پر جو تھانوی کی کتاب کے مقدمہ میں درج کی ہے جو
۱۸۵۷ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اُس غلط فہمی کو بار بار ضبط تحریر میں لاکر اسے تاریخ کا
حقتہ بنا چاہتے ہیں۔ ایک تذکرہ زین کو اس قسم کی سبب تحریر پر ہمنامیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تاکہ مستقبل کا
مورخ اُس کے بارے میں مبالغہ رائے قائم کر سکے۔

لینے کے مترادف تھی۔ اسی طرح جناب ایوب قادری کا یہ بیان بھی بے بنیاد ہے کہ وہاں ہوں کی
مخالفت کرنے والے علمائے کی سرگرمیوں کو حکومت بہ نظر استہسان دیکھتی تھی اور ان کو ان
خدمات کا بلاواسطہ یا بالواسطہ معاوضہ ادا کرتی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ حکومت
برطانیہ کی باقاعدہ دفاداری کا اعلان کرتے ہوں اور جج پر مدانگی کے لئے بھی اپنے مجازی
خداؤں کی سفارشی چٹھیوں کو ضروری سمجھتے ہوں ان کے خلاف کام کرنے والے علمائے کی
سرگرمیوں کو حکومت کس طرح بہ نظر استہسان دیکھتی ہوگی۔ یوں بھی انگریزوں نے برصغیر
میں اپنے قدم تادیر جمائے رکھنے کے لئے اپنے حاشیہ برداروں کا پوری طرح تحفظ کیا اور ان کو
مالی فائدے پہنچائے۔ مصلحت بھی اس میں تھی کہ دفاراروں کے حلقوں کو کشادہ کیا جائے تاکہ
ان کے مخالفوں کی سرپرستی کی جائے۔

اور سنات اسلام پر عمل ہو سیر و ہم اسی کتاب ثبوت الحق بفتح کے صفحہ ۳۰۳ و ۳۰۴ میں مولوی تہذیب حسین نے
 تقلید کو بدعت مذمومہ اور مخالفت طریق اسلام قرار دیا جو اور ایڈ مجتہدین کو شل اجارہ و رہبان یعنی علمائے یوں
 و ترساکے بنایا جو اور حضرات مقلدین کو مصداق ان آیات کا تھیرا یا سبب الخیار و غیرہ و غیرہ انھیں ازبلیا
 میں دون اللہ طواذ اقبل لھما شیءا ما انزل اللہ قالوا بل ننبیج مسا لفتینا علیکہ انباءنا
 حال آکر یہ آیتیں یوں و مضاری و کفار مشرکین کی شان میں اور ہیں انوس کہ مصداق اسکے مؤمنین مجتہدین
 اسلام تھیرائے ہا میں اس سے بڑھ کر نصب اور گمراہی کیا ہوگی سے از برون طعن زنی بر یا زیدہ زور و نت
 تنگ میدان و زیدہ خیال کرنا چاہیے کہ تفسیر آیات سے ظاہر ہو تا ہو کہ نبی اسرائیل نے جو تحرم مامل اسلہ و قلیل
 محرم امیر میں اپنے اجارہ و رہبان کا اتباع کیا تو کافر و مشرک ہو گئے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ تحلیل اور تحرم
 محرمات و مباحات یقیناً ضروری کی تھی یا ایسے محرمات و مباحات کی کہ جنکی حرمت و اباحت میں امتلا
 اور ضرورت اجتناد کی ہو پس در صورت اول مولوی صاحب کو ایڈ اربعہ یعنی اسد غنم کی نسبت بھی تحلیل و
 تحرم محرمات و مباحات یقیناً ضروری کی ثابت کرنا چاہیے حتی کہ انکے مقلدین سبب اتباع کرنے کے ایسی
 تحلیل و تحرم میں مشرک و کافر قرار دیے جائیں اور بدون اثبات اس امر کے مقلدین ایڈ کہ مشرک قرار دینا
 قیاس نادر اور اجنبہ و جابو اور در صورت ثانی صاف صاف صحابہ کرام کا مشرک و کافر ہونا لازم آتا ہے کیونکہ انھوں نے
 لفظائت حلالی کلاشا سے طلاقات ثلاثہ واقع ہونے میں حضرت عمر کا اتباع کیا ہے بلکہ خود نا خود بدولت اور انکے
 اکابر کا شل قاضی شوکانی و ابن قیم وغیرہم کے لازم آتا ہے اس واسطے کہ انھوں نے لفظ ثلاثہ سے طلاقات ثلاثہ
 زواقع ہونے میں ابن تیمہ و داؤد ظاہری و ابن خرم کی تقلید کی ہے جس شق اول تو یہی البطلان ہے کہ صحابہ
 سے تحرم مامل اسد ہر گز نہیں ہو سکتی اور شق ثانی بزعم مولوی صاحب کے تعیین ہو گئی اب اسکا کیا جواب ہے
 کیون ایسی بات کیجیے کہ انکا ازام اسکا اپنے اوپر نیچے چہار و ہم رسالہ الاحترامی سالہ الاستو اقصینف
 نواب صدیق حسن خان امیر بھوپال مطبوعہ گلشن اودھ گفتو میں لکھا ہے کہ خدا عرش پر بیٹھا ہے اور عرش اسکا مکان ہے
 اور دونوں ہم اپنے کرسی پر رکھے ہیں اور کرسی اسکے قدم رکھنے کی جگہ ہے اور ذات خدا کی جہت فوق اور
 طرف علویں ہے اور اسکو فوقت جہت کی جو نہ فوقت رتبے کی اور وہ عرش پر رہتا ہے اور آرتا ہے ہر شب کو
 طرف آسمان دنیائے کے اور اسکے لیے وہنا بایان ہاتھ اور قدم اور پتلی اور انگلیان اور دو آنکھیں اور منہ
 اور پتلی وغیرہ سب چیزیں بلا کین ثابت ہیں اور جو آیتیں اس باب سے ہیں سب محکات و من
 آیات تشابہات نہیں اور ان آیات و احادیث میں تاویل کرنا چاہیے سب آیتیں اور حدیثیں اپنے

اور سنات اسلام پر عمل ہو سیر و ہم اسی کتاب ثبوت الحق بفتح کے صفحہ ۳۰۳ و ۳۰۴ میں مولوی تہذیب حسین نے

بے شک ان آیات و احادیث میں تاویل کرنا چاہیے سب آیتیں اور حدیثیں اپنے

ظاہر میں پر محمول ہوئی اور اسی ظاہر میں پر عمل اور اعتقاد رکھنا چاہیے اسی حال آکر یہ مذہب فرقد مجسوم
 مشربہ و جلا خا بڑ کا ہو اور مخالفت برائیل توحید و ارباب تشریح سنت جماعت کے چنانچہ اس رسالے کے
 رد میں رسالہ سبلا علی الاضواء مطبع مصطفائی لاہور میں چھپ چکا ہے اور دوسرا رسالہ بھی اسکے جواب میں سوم ہفت روزہ الاہلیان نے
 تشریح لکھی ہے جس میں طبع ہوا ہے اور دونوں رسالوں میں منبر بل حق کو بد تفسیل سے لکھا ہے اور جواب میں
 عقائد کفر بخوبی کیا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے صفات کلامانی تشریح پر ہر گز ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ ظواہر میں تشابہات پر
 اپنی رائے اور تاویل اور تفسیر کے موافق ایمان لائے ہیں اور اس سے مصداق نام نہیں اور عقیدت فی الدین کے بنائے ہیں
 بیساکر حق تعالیٰ فرمایا ہوتا اللہ ربی فی کل شئ یوسف ذبیح فیتبعون ما انت ابہمیتہ انتعائہ العفتۃ
 و انتعائہ تاویلہ و سلفکے تاویلہ الا اللہ ربی من لوگون کے دلوں میں کمی اور گمراہی ہو سو وہ
 پیروی کرتے ہیں ظواہر میں آیات تشابہات کی بغرض فقہان گیزی اور واسطے چاہنے اسکی حقیقت کے حال آکر
 حقیقت اسکی اسدی جانتا ہے جس اس باب سے میں مذہب اہل سنت جماعت کا یہی ہے کہ آیات و احادیث
 صفات باری تعالیٰ باعتبار الفاظ اور کلمات کے حکم ہیں یعنی صاف اور واضح الفاظ ہیں اور باعتبار معانی
 اور معانی کے تشابہات نہیں لائے کسی کوئی معنی ہیں اور باہمالات کے ظاہر الفاظ پر ایمان لانا کافی اور بغیر
 اسکی تفسیر اور تاویل نہ کہیں اور حق تعالیٰ کو ان معنوں کے حقائق سے پاک اور منزہ جائیں اور اسکے مزاوی
 معنوں کو علم الہی کے سپرد لوگوں کو اسکی کیفیت سے سکت اور خاموش رہیں اور اسکے کسی معنی کو نہیں کریں مثلاً
 یہ نہ کہیں کہ اسکو یعنی استقرایا جلوس کے ہو یا یعنی قدرت یا جبار کے ہو یا جو یعنی ذات یا سونہ کے ہو بلکہ اتنا
 کتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور صاحب بیاد صاحب جبر ہے کیونکہ ظاہر میں تشابہات کے لینے سے
 اللہ تعالیٰ کے واسطے جسم اور صورت اور جہت تختانی و فوقتانی اور مکان و زمان و جوارح و دیگر لوازم جسمیت
 من صفات کوارث و امکانات ثابت ہوتے ہیں حال انکلا اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور ان چیزوں سے منزہ ہے اور پاک ہے
 اور اسکا درہنہ بڑا ہے اور نہ وہ چھتا ہے اور نہ آرتا ہے اور پر ہے کینت سے تاخیر و تاخیر و تاخیر و تاخیر
 القہر اور ولحیونہ و لا تکلن من الظلمہ و لا تغیر القلیدین پانزوی ہم میں کت تراویح کو
 بدعت اور ضلالت جانتے ہیں اور اس باب سے میں حضرت عمر کو صریحاً عالمی اور فخر جہت ضلالت کا تھیرا لائے ہیں
 چنانچہ نواب صدیق حسن خان امیر بھوپال نے کتاب الاستعداد للزوج مطبوعہ مطبع علوی گھنٹہ کے صفحہ ۶۲ و ۶۳ میں
 حضرت عمر کو نہایت میاکی سے صاف عالمی اور بدعت ضلالت کا تھیرا لکھا ہے اور یہ بات کلی ہے کہ انکا کہ ہم اللہ تعالیٰ
 ہدینا علیس فی المیدۃ سائمدح بل کل بدعۃ ضلالتہ و کینت المراد بئسۃ الخلق الکرہین
 و کلیر تقہم الموائعہ بطریقہ من جہاد لاعتقاد و تقویۃ شعائر الدین و نحو ما و معانہم
 میں قواعد الشریعۃ آتہ لیس لخلیفۃ زائید ان یشریح طریقۃ عذیر ما کان علیہ اللیس

آیات تشابہات صفات باری تعالیٰ سے تاویل کرنا چاہیے سب آیتیں اور حدیثیں اپنے

بے شک ان آیات و احادیث میں تاویل کرنا چاہیے سب آیتیں اور حدیثیں اپنے

کتاب کی مجتہد نقل کی جاتی ہو۔ ششستن منی از برای استفادہ است نہ بنا بر نجاست و بر نجاست
 ضروری مسکرات دلیلی کہ صالح ترک باشد موجود نیست و غیر حرام است و ہر حرام نجس نیست کیفیت
 کہ اصل در ہم چیز باطلت است و در نجاست سنگ و لقمہ خاک خلط است و ہر خون وادی نجس نیست
 و دم سفوح حرام است نجس استی شوم اسی طریقہ محمدیہ کے صفحہ ۱۰۸ و ۱۰۹ میں اور فتح المغنیث کے صفحہ ۱۰۸
 ۱۵ میں لکھا ہے کہ جب زمین زکوٰۃ مگر اونٹ لگے بکری میں اور اموال تجارت میں بھی زکوٰۃ نہیں ہر دو
 زیور پر بھی اس مفتی نے عدم وجوب زکوٰۃ کا حکم لکھا ہے چنانچہ کتاب بیع المقبول مطبوعہ مذکور کے صفحہ ۲۰
 میں اس مضمون کو لکھا ہے خلاصہ اسکا یہ ہوا کہ تجارت اور سوداگری کے مال میں اگر چہ کرور ہاروپے
 کا ہوا و ذیل بھینس اور بھیر وغیرہ جانوروں میں اگر چہ کرور ہاروپے کے ہوں اور سونے اور چاندی کے
 زیور میں اگر چہ کرور ہاروپے کا ہوزکوٰۃ نہیں ہے جس جب لوگ زمین زکوٰۃ کے ادا کرنے میں باوجود
 فرض ہونے کے سستی اور غفلت کرتے تھے اور تاہم اموال تجارت اور زیور میں ہزاروں اور لاکھوں
 روپے کی زکوٰۃ کا نئے تھے اور فریے اہل اسلام اس سے فیض پاتے تھے بہت مجتہد غیر مقلدین نے حکم لکھا
 کہ زکوٰۃ ان چیزوں میں واجب نہیں ہے تاہم ہارون اور حیلہ سازوں کو منہل گئی اتسوس کہ دروازہ خیر کا
 بند ہو گیا اور مجتہد صاحب بھی متاع الخیر مکتوبہ الخیر کے پورے پورے مصداق ہو گئے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا
 اِلَیْہِ رَاجِعُونَ چھارم ایک طلاق سے نامہ دو طلاقیں دی ہوں یا تین اور بیچ میں بجمع نہ کیا ہو
 تو دو طلاقیں یا تین طلاقیں واقع ہوگی اور اسکے خاوند کو وہ عورت بغیر حلالہ (یعنی بغیر نکاح دوسرے شوہر کے)
 درست ہو جائیگی چنانچہ یہ مسالہ اسی کتاب طریقہ محمدیہ کے صفحہ ۲۰۹ میں مرقوم ہے اور اسی طرح صفحہ ۱۰۸ فتح المغنیث
 میں لکھا ہے کہ حلالہ کرنا حرام ہے (یعنی طلاق ثلاثہ کا نکاح دوسرے شخص سے کر کے پھر اپنے نکاح میں پھر لینا)
 حال آنکہ یہ مسالہ تمام اہل اسلام بلکہ نص قرآن کے خلاف ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے يَاۤنۡ طَلِّقُهَا فَلَاحِلٌ لَّہَا
 مِنْۢ بَعْدِ حَقِّ شَرِّکِہَا ذُوۡ جَانِبِہَا یعنی چاہتی ہو تو میں طلاقیں دے تو پھر نکاح اس عورت کا اس مرد
 سے جائز ہوگا جب تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے جس بموجب نص قرآنی کے جو نکاح ثانی طلاق کا ہر حال
 کرنے کے نتیجے اول پر طلال تھا اسکو مجتہد صاحب نے اپنی رائی سے حرام کر دیا یہ حکم مرد پر سونے کا زیور میں ہونا و چیزوں کا
 چنانچہ یہ عبادت طریقہ محمدیہ کے صفحہ ۳۸ و فتح المغنیث کے صفحہ ۲۰۵ میں واقع ہے جسکے خلاصہ یہ ہوا کہ مرد کو خواہ
 وہ مولوی ہو یا وہ غلام مفتی ہو یا قاضی کشتا ہو یا بھیر چاندی کی بالیاں ہائے کوشے چھڑے کنگن وغیرہ زیور ہر
 سے ان کا زکوٰۃ دہوان چین کنتہ ہشت ششم اسی کتاب فتح المغنیث کے صفحہ ۱۰۸ میں لکھا ہے اور کافی ہے
 مسیح کرنا بعض مسکرات اور مسکرات پر اتنی جسکا مطلب یہ ہوا کہ بعض مسکرات مسیح کر کے تو بگڑتی اور علم سے

کتاب کا یہ مسالہ ہے

کتاب کا یہ مسالہ ہے

کتاب کا یہ مسالہ ہے

کتاب کا یہ مسالہ ہے

کرنا کافی ہو حال آنکہ یہ خلاف نص قرآنی کے ہے و ششستن منی از برای استفادہ است نہ بنا بر نجاست و بر نجاست
 اسی اس مضمون ہوا کہ زمین کو کچھ ذیل زمین تھلینے سے نہ سونے و نہ جانا نہ ہوا حال آنکہ یہ اصل چھ ششم اسی کتاب کے صفحہ ۱۰۸ میں مرقوم
 کہ زکوٰۃ والی ہم کی وہی چیز زمین توڑنے والی و سونے کی زمین پس اس مضمون کا پانی کے کھینے اور اسپر قدرت پانے سے ہم زمین کشتا
 حال آنکہ یہ غلط ہے ششم اسی کتاب کے صفحہ ۱۰۸ میں لکھا ہے کہ اگر خلل پڑے نماز میں امام کی تو وہ خلل امام پر ہے نہ مقتدین
 پر اتنی اس سے ظاہر ہوا کہ امام نہیں ہوا اس سے کوئی فرض ترک ہوا اسکا کثیرا نجس ہوا اسے و سونہ لکھا ہو یا سونہ
 اسکا ٹوٹ گیا ہو تو فقط امام کی نماز فاسد ہوگی اور مقتدین کی نماز میں کچھ نقصان نہ آئیگا حال آنکہ یہ اصل ہے
 و ششم اسی کتاب کے صفحہ ۱۰۸ میں لکھا ہے کہ حرام ہے زکوٰۃ یعنی اشم اور انکے طلاقیں پر اور اسودہ اور تدرست کا ڈپر
 اتنی اسکا یہ مطلب ہوا کہ صورت زکوٰۃ کے واسطے میدی لازم ہے اور اگر فقیر تدرست ہوگا تو اسکو زکوٰۃ یعنی حرام
 ہوگی حال آنکہ یہ شخص غلط ہے یا زکوٰۃ ششم اسی کتاب کے صفحہ ۲۰۵ میں مرقوم ہے کہ جائز ہے دو دھرتی پلانا بھری عرواے کا
 اگر جدا رہی رکھتا ہو واسطے ہائے نظر کے اتنی یہ بات تو سوائے طلب بعض باروں کے کسی بیٹی اگر کوئی جوان
 مرد کسی عورت پر عاشق ہو تو وہ اس دو دھرتی کے پلانی سے اس عورت کو ہر روز دیکھا کرے اور اسکی چھاتیاں
 چھوئے پس جس عورت سے یہ بات حاصل ہو تو پھر پردہ چھینی دار و آواز دہم وضو میں بجای پاؤں دھونے کے
 مسخ فرض ہے چنانچہ فتاویٰ ہامایہ صفحہ ۱۰۸ میں لکھا ہے کہ مقلد مطبوعہ مطبع دھرم پرکاش الہ آباد کے صفحہ ۱۰۸ میں
 مطبوعہ حال آنکہ یہ رافضیوں کا دستور ہے ششم شیشاب کے بعد پانی سے استنجا کرنا اور دھیلنا تجارت
 چنانچہ کتاب تصام السنہ کے صفحہ ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ میں مرقوم ہے اسکی موجود ہے زکوٰۃ رحمت انکے نزدیک اسافل ہے
 کہ جو حضرت کے بعد ہوا ہوا ہر دو رحمت منکالت ہے اور ہر منکالت فی التاریخ ہر بدعتی انکے نزدیک ناری اور
 دوزخی ٹھہرا تو کلوت اور پانی سے استنجا کرنے والا بھی دوزخی ہوا حال آنکہ یہ سنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت
 ہے جس بقول انکے سادات حضرت عمر بھی بدعتی اور دوزخی ٹھہرے چھار دہم جو کوئی اپنی بی بی سے جماع کرے
 اول انزال ہو تو اسکی نماز بغیر غسل کے درست ہے چنانچہ کتاب ہدایت قلوب قاسیہ جواب گلزار آریہ تصنیف مولوی
 محمد سعید شاگرد مولوی ذریعین کے صفحہ ۲۶ میں موجود ہے یا پانچ دہم تیرہ رکعت سے زیادہ تو داخل پڑھاؤ
 تسانی رات سے زیادہ عبادت میں جاگنا بدعت مذکور ہے چنانچہ کتاب معیار الحق صفحہ ۱۰۸ میں مرقوم ہے مطبوعہ علی
 کے صفحہ ۲۲ میں مذکور ہے کہ اکثر شب یا تسانی رات سے زیادہ عبادت کرنا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام
 و صحابہ کرام و اولیای عظام مثل حضرت عوف و غیرہ سے ثابت ہے انکے نزدیک گناہ ہے سادات شازدہم
 سبتلی خالہ یعنی جسکا باپ ایک ہوا اور مان جدا جدا اس سے اسکے جاننے کا نکاح درست ہے چنانچہ فتاویٰ ہامایہ
 عبدالقادر مقلد امام کالی سجد علی میں مرقوم ہے کہ چہرے انکے استاد مولوی ذریعین کی سر بھی ثبت ہے چھ ششم

کتاب کا یہ مسالہ ہے

کتاب کا یہ مسالہ ہے

کتاب کا یہ مسالہ ہے

چاہیے کیونکہ مجالست اور مخالفت اور مصاحبت اہل شرف و فساد اور اہل بدعت کے ساتھ جو یہ
 حدیث صحیح کے اجماع ممنوع ہو قال الامام النووی فی شرح صحیح مسلم قبیل کتاب القدر فی بلد استجاب
 مجالسة الصالحین ومجانبة قرناء التوسع فیہ تغذیہ صلواتہ علیہ وسلم الجلیس الصالح
 یحامل المساک والجلیس السوء ینافخ الکیر فیہ فضیلة مجالسة الصالحین واهل الخیر
 والمردة ومکلام الاخلاق والورع والعلم والادب والتمہی عن مجالسة اهل الشر واهل
 البدع ومن یقاب الناس ویکثر فحشہ ویطالتہ فخذک من الانواع المذمومة المستحقة
 اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ علیہ ثنوی من فرماتے ہیں

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| یار بد بد تربود از یار بد | یار بد تنہا ہمین بر جان زند | دور شو از اخست ملاط یار بد |
| نارخندان باغ را خندان کند | صحبت نیکانت از نیکان کند | یار بد بر جان و بر ایمان زند |
| صحبت طالع ترا طالع کند | پس اہل سنت و جماعت کو فرود نہ آئے لہذا زبان غیر مقلدین کی صحبت | صحبت صلاح ترا صالح کند |

سے بہت اقرار کرنا اور پچھنا چاہیے خود امن صحیحہ کے ساتھ تقرر و من الاسد کو واسطے کہ صحبت کو
 بڑا اثر ہے حضرت خواجہ غفران علی رایتنی رحمہ اللہ علیہ محبوب العارفین میں ارشاد فرماتے ہیں سے
 نشین باہان کہ صحبت بد اگر چہ پاکی ترا پیدا کند | آفتابی بدین بزرگی را | ذرہ ابرنا پیدا کند
 جس حالت میں کہ غیر مقلدین خارج از اہل سنت و جماعت اور داخل اہل بدعت و فرق ضالہ ہوں
 میں ٹھہرے اور نماز اہل سنت و جماعت کی ان لائمہوں کے پیچھے غیر صحیح و ناجائز و نادرست ہوئی
 اور مخالفت اور مجالست بھی حسب روایات مذکورہ اسے ممنوع ہوئی تو اہل سنت و جماعت کو چاہیے
 کان لائمہوں کو اپنے مساجد سے نکال دین اور ہرگز نہ آنے دین اس واسطے کہ انکے آنے سے مسجدوں
 میں شرف و فساد و فتنہ پیدا ہوگی قال اللہ تعالیٰ ذالذی اذیبتہ اشد من القتل ذوقلہ تعالیٰ واللہ
 لا یحب الفساد اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی وقت نماز کے لمسن پازگند نا وغیرہ بودا
 چیز کہ جسکے کھانے سے نہ میں بد پیدا ہوگا کہ مسجد میں آئے تو اسے دخول مساجد سے منع کرو
 عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلعم من اکل من هذه الشجرة فلا یقر بن مسجدنا
 کلا یوذینا بریح التوم رواہ مسلم وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلعم قال من اکل من
 هذه الشجرة یغض التوم فلا یقر بن المساجد رواہ مسلم وعن عمر بن الخطاب قال انکم
 ایہا الناس تاکلون شجرین لا لہما الا خبثتین هذا البصل التوم ولقدایت رسول اللہ
 صلعم اذا وجد رجحما من الرجل فی المسجد امر به فاخرجہما الی البقیع فمن اکلہما فلیعتہما

طبخا رواہ مسلم قال النووی فی شرح صحیح مسلم فی باب فی من اکل ثوماً او بصلاً او کراثاً
 او نحوھا مما لہ رائحة کریمہ عن حضور المسجد حتی ینہد ذلک الرجیح داخلہ من المسجد یغض
 صلعم من اکل هذه الشجرة یعنی التوم فلا یقر بن المساجد هذا نص صحیح یعنی من اکل التوم
 وغضہ عن دخول کل مسجد وهذا من ذهب العلماء كافة انتہی پس یہ حدیث صحیحہ
 دال بین اس امر پر کہ جس شخص کی ذات سے لوگوں کو تکلیف دہا یا پونچھے اسے مسجد میں نہ آنے دینا
 چاہیے پھر ظاہر ہے کہ لائمہوں کے مسجدوں میں آنے سے شرف و فساد اور فتنہ پیدا ہوگا اور لوگ بے علم
 بر غیر بچا رہے انکی صحبت سے بگڑتے اور خراب ہوتے ہیں پس لازم و مناسب ہے اہل سنت و جماعت
 کو کہ ایسے غیر مقلدین کو اپنی مسجدوں میں نہ آنے دین اور ایسے فساد لائمہوں کو اپنے مساجد سے
 اخراج کریں اور نکال دین والسلام علی من تبع الہدی و اخذ عوانا ان الحمد للہ رب العالمین جزا الفقیر
 الفقیر الی اللہ نبی الراجعی الی سعة اللہ اکبر العالی الوالی القوی القوی محمد احسن بن
 ابوالصبر المعروف بسید محمد اکبر علی الحسن الجلی فی الخفی القدر المشرق
 التقیہ ولادہ ہلوی غفر اللہ لہ ولوالدیہ واحسن الیہما والیہ



تجقق متقین در مسجد ہم موجود فتنہ است والفتنة اشد من القتل دال بر اخراج کردن این شرک
 باطلہ ہدایت اولاً این فرقہ تالیف متشابہات اندک مثل حکامات میدانہ چنانچہ در رسالہ استوی علی
 علی العرش استوی از نواب بھوپال موجود است داین ہمد بدان عقیدہ باوی متفق اند حال آنکہ انصار کلم
 از متشابہات کلام غزول و یا یصلکرتا و بیلہ الا اللہ ثابت پس ہر دو من فسر القرآن بر آیہ فلیتبعوا
 مقعدہ من الشار ہمین شرفہ مبطلاند ثانیاً منکرین قیاس و اجماع اند بنا علیہ مجتہدین را بدیگویند
 و مقلدین را مشرک میدانند حال آنکہ کتاب اسد ثابت است بقولہ غزول فلیتبعوا اولی البصائر
 و حدیث نبوی نیز وہو نہ اما روی ان النبوی صل اللہ علیہ وسلم حین بعثت معاذاً الی الیقین
 قال کیف تفتن بامعاذ فقال بکتاب اللہ قال فان لم تجتہ فی کتاب اللہ قال فبسننہ
 رسول اللہ قال فان لم تجتہ قال اجتہ برأی فقال علیہ السلام محمد اللہ الذی وفق
 رسول رسولہ بما یرضی بہ رسولہ فان لم یکن القیاس حججاً لا ذکرہ بل حمد اللہ علیہ

بڑا کنا بڑا جانا جائز رکھتے ہیں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے امیدوار ہیں اور پوری آنت باہر پھیلا کر حاضرین پر گوارا کھا جب مولوی محمد ابراہیم صاحب نے اس وقت حضور کو دیکھا تو بے پروا ہو کر اٹھ کر بلند کھا بارک اللہ جزاکم اللہ اس وقت آپ کی تقریر نہایت دلچسپ اور لطیفان بخش ہوئی مرحاضا بائیں ہم لوگوں کو آپ لوگوں سے نفرت کی وجہ اور کہ ورت کی علت محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد سے موافقت کرنے کے سبب تھی جس نے صد ہا عطا کو کھنڈ میں قتل کر ڈالا اور حرم شریف میں خون کی ندی جاری یہ وہ جگہ جو کہ جسکی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَ كَانَ مُبْتَلًا مِمَّا سَخَّرْنَا لَكُمُ الْيَوْمَ زَيْدًا رُوح اور چوٹی اور بطن کو بھی ستانے اور مارنے کی طاقت ہوا افسوس کہ وہ ان ابن واپسٹا ہونے کے علاوہ مقلدین کے قتل کرنے کا حکم لگا دیا ایسا کہ شاہی حاشیہ رقم ۱۱ اور یہ خالصتاً صحیح ہے قتل اہل اللہ و جملہ ائمہ عالیہ حال اکہ وہ ملک انگریز پرست تھے قبر پرست نہ تھے بت پرست نہ تھے مشرک نہ تھے فاسق نہ تھے فاجر نہ تھے ان مقلد ذہب تھے تب پھر مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں بزرگ انکا تاج نہیں ہوں اور نہ کوئی جھکوانے واسطہ پر عرض کہ جلد برخواست ہوا میرے روز پھر اس امر میں گفتگو پیش ہوئی کہ ایسے عقائد والے جیسا کہ مولوی صاحب نے بیان کیا جو مسجدوں میں آئیں جائیں اتنا وہ محبت قائم رکھیں جو کہ مولوی ابراہیم صاحب نے اپنے دستخطی تحریر میں بد بیان عقائد سمجھ لکھا تھا کہ ناز ایک کی دوسرے کے چھچھے جلا کر اہت درست ہوتے ہیں کہ اس میں مقتدر اور شرط لگائیے کہ جو امام ہوتے ہیں ان کی رعایت و ضرورت وغیرہ میں ضرور ملحوظ رکھے اور تاہم صاحب کو یہ عقائد حاضرین نے بھی اس شرط کے ساتھ اتفاق فرمایا اگر مولوی عبدالعزیز صاحب حیدرآبادی نے مشورہ کیا اور مولوی ابراہیم صاحب کو بھی اس سے باز رکھا اور یہ کہ ایک لفظ بھی اگر اس رقم میں پڑھے گئے گا تو نہ جاری و نہ نظر نہ ہم صلح میں ہوگا یہ کہ مولوی ابراہیم صاحب وغیرہ کو اس مقام سے اٹھا کر لیے چلے گئے اور اس وقت حاضرین کو بڑا افسوس ہوا کہ صلح اور اتحاد کی بنی بنائی بات صرف ایک شخص کی مخالفت سے بگڑ گئی اور اس شخص کو سوائے یہ بھی وہ نہ انمازی وقت پر انمازی کے کوئی بات مائل نہ ہوتی کہ وہی مثل سے شام گذر قیامت میں کشتان گذار شتی گوشت خشک ہا ہم برادر نہ باشد آخر ب ملائی یہ اسے قرار پائی کہ ہر گاہ ہم مقلدین میں باخود ہا کھا کھا جلا کر بلا اترام جو کہ نفعی جب امام ہوتا نفعی وغیرہ کی رعایت ضرور ملحوظ رکھے اور شاہی امام ہوتے دوسرے ایسے مجتہدین کے مقلدین کی ضرور رعایت کرے کہ یہ لوگ نہیں ملتے ہیں نہ زمین مگر بعض علماء حاضرین کی یہ اسے ٹھہری کہ بلا اس شرط کے مانے جو ہے کہ کرا لکے چھ ناز پڑھی جا سکتی ہو یہاں تک جلد برخواست ہوا اور نادان لوگوں کے پیچھے جائز نہیں رکھی گئی دوسرے روز سب لوگ اپنے اپنے مکان کو روانہ ہوئے مغرب کیفیت کھڑے چھپ کر آگئی اسکے دیکھنے سے اس پر بیان کی پوری پوری تصدیق ہو گیا کہ یہ بھی

واقعات آراء

مولوی محمد ابراہیم صاحب میری ملاقات کو غازی پور شریف لائے اور میری دعوت کر کے آئے لیکن میں اپنی جگہ کے ساتھ مولوی ابراہیم صاحب کے مکان پر گیا مولوی صاحب کو ہم عقائد اہل حدیث کے اپنے ہمراہ لیکر آگئی سب میں مختصر و مفصل اتفاق باہمی کا بیان کر کے مولوی صاحب کو جامع مسجد میں لایا مولوی صاحب نے عمر و عقائد و مضامین کے ساتھ و حفظ فرمایا انہما و نظیرین جو دوسری جاہلی شجاعت علی صاحبہم آ رہے تھے لہذا کہ ایسے مجتہدین کا کچھ ذکر فرمایا مولوی صاحب نے بڑے زور شور سے تقریر کیا اور مجتہدین اور عقائد مقلدین کی بیان فرمائی اور بعد ختم و خط کے یون دعا کی۔ اور اس جگہ ایسے مجتہدین و محدثین کی فرمائندہاری میں ذمہ رکھنا اور انکی محبت میں مارنا اور قیامت میں اسکے تابعداروں میں مشورہ کرنا۔ تمام حاضرین کو بڑی خوشی ہوئی تین تک کا ایک دوسرے سے ملے اور جوش محبت سے طرفین کے دلوں پر ایک جگہ رقت رہی۔ اھو مد کائنات میں مصالحت کا رنگ خوب جم گیا عشاق کی ناز ہوئی جو کہ میں مسافر تھا قصر کی وجہ سے حافظ عبدالرزاق صاحب پیش امام جامع مسجد نے نماز پڑھائی باخود ہا کی محبت اور باہمی صلح کا اثر تھا کہ ہم ذہب مولوی ابراہیم صاحب جو میرے مثل میں تھے نہ زور سے آئیں کہی نہ فرغ الیدین کیا اور جس نے آئیں باہم کی بھی تو ایسی خفیت آواز سے کہ اسکے قریب کے چلا آدینوں نے سنی اس سے سب کو بڑی خوشی ہوئی اور نہایت نرمی کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنا محبوب صادق سمجھنے لگا اور آپس میں خیال ازاد و محبت کا ہو گیا۔ گزرا پور بنارس۔ و دیگر بلاد میں ہنوز تھینے کا عنوان کوئی قائم نہیں ہوا اس وجہ سے ہنوز کوئی غیر مقلد مقلدین کی مسجد میں نہیں آسکتا اور نہ کوئی مقلد مقلدین کی مسجد میں جا سکتا غازی پور میں فقیر نے خود حافظ عبدالہ صاحب سے (جو سہ گروہ غیر مقلدین ہیں) کہا کہ صرف جس قدر مولوی ابراہیم صاحب نے جلد نہ وہ علماء کثیر میں بیان کیا اور آپ نے بھی اسکو بیان سنا جو آپ بھی کہہ بیٹھے اور مسجدوں میں باہم آمد و رفت رکھے اور کسی ایک دوسرے کو منع نیکیے کرے حضرت رضی نہیں ہوئے اور کہا کہ مولوی ابراہیم نے کہا جو میں ہرگز نہیں کہوں گا پھر کہو نہ کہ مصالحت ہوتی اور مولوی محمد سعید بنارس سے بھی بنارس کے لوگوں نے کہا کہ بطور پر مولوی ابراہیم صاحب نے اپنی صفائی کر لی آپ بھی ویسے ہی عقائد کا اظہار کر دیجیے تو مسجدوں میں آئیے جائیے گراختوں نے بھی حافظ علیہ صاحب کی طرح سے نہ مانا بلکہ اسے زیادہ شورش کی اور تمام لوگوں میں اپنے انکار کا اشتہار دیا اور مولوی ابراہیم صاحب کو سخت کلامی سے یاد کیا پس بنارس کے لوگوں نے بھی جواب دیا کہ آپ لوگ اگر پہلے عقائد پر جسے رہیں گے ہرگز سب امتنان میں نہیں جا سکتے چنانچہ غازی پور بنارس مرزا پور وغیرہ میں نہ غیر مقلدین نے تصدیق کی صفائی ظاہر کی اور صلح کی بات ہونے ہی خدا رحم فرمائے اور مسلمانوں کو باہمی اتفاق کی توفیق دے اور ختم و مفاد کی باہم چائے افسوس صد افسوس جو ان مولویوں نے چکے

ثُمَّ أَتَى كَثْرَانَ بَطْلَانَ عَقِيدَهُ نُوْرًا عِنْدَ نُوْرٍ لَمْ يَسْكُتُوا عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ إِذَا غَلِبُوا عَلَيْهِمْ
خَدَّاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ حَبِيبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكْتَبِ الْحَقِّ فَهُوَ شَيْطَانُ
الْحَرَسِ قَبْلَتْ أَنْ هَذَا قَوْمٌ لَا يَحْصِي قِيَامَهُمْ وَخِيَانَتَهُمْ فِي الْإِيمَانِ فَحَسْبُ عَلَيْهِمْ حُزْنُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ
وَالْكَفَالِ الَّذِينَ اسْتَقْرَأُوا عَلَى هَذِهِ الضَّابِطَاتِ لَا يَدْرِي خَلْقُهَا هَذَا الْقَوْمُ فِي سَلْبِهِمْ وَلَا يَصَابِحُوا مَعَهُمْ
أَبَدًا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَتَبَهُ تَرَابِ أَقْلَامِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ الْمَدْعُو
عَجْدُ عَبْدِ السَّلَامِ الْكَاشْمِيرِيُّ وَطَنًا وَالْحَنْفِيُّ مِنْ قَبْلِ الْوَالِدِ الْحَقِّ



النَّظَامِيُّ الْفَخْرِيُّ النَّيَازِيُّ مَشْرُوبٌ أَخْفَتَرَ اللَّهُ لَهُ
فِي حَيَاتِهِ وَوَدَّ خَلَهُ الْجَنَّةَ بَعْدَ مَمَاتِهِ آمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَصَلَّى عَلَى سُوْرِهِ الْكَرِيمِ حَلَّاهُ وَصَحْبِهِ ذُوِي الْفَيْضِ الْعَلِيمِ
ان لاندھوں کے پیچھے جو جامع الشواہد کے عقائد و اعمال کے قائل و من مقلدین اہل سنت و جماعت کو
نہاڑ پڑھنا نہ چاہیے کہ یہ لوگ مضدین فی الدین اور سبائین سلف صاحبین بھی ہیں اور انکے عقائد
و اعمال جمہور فقہاء و محدثین کے بالکل خلاف ہیں اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ سب بزرگان دین
اور صوفیہ کالمین کو مانتے ہیں اور سب مقلدین کو علی الحق جانتے ہیں انکی اقتدا کرنے اور انکے پیچھے
نہاڑ پڑھنے میں ہرگز کچھ کلام نہیں جس جو لوگ منعی جامع الشواہد کو بے سمجھے بوجھے اور بغیر ان کتابوں
کیوں جو جمع کیے جکاوا لہ بقید ہند و صحفیات دیباچہ تراجم لکھتے ہیں بلکہ گالیان دیتے ہیں ہم انکو بھی
اہل سنت و جماعت سے خارج جانتے ہیں اور لاندھب سمجھتے ہیں راست گوئی میں کوئی تعصب
اور نفسانیت نہیں ہے دین کی بات میں صاف صاف نہ کہنا تو منافقوں کی خانہ بیکو اس میں دین کا
نقصان ہو بیان جو دل میں ہو وہی زبان ہو تجھے تو ہزاروں لاندھوں اور سیکڑوں غیر مقلدین
کام پڑا اور برسوں اور مہینوں انہی جھگڑا رہا ہم ہمیشہ انکو صلح کی بات بتاتے رہے اور فساد سے
بچاتے رہے لیکن ادھر یہ رضی ہو گئے اور ادھر وہی مخالفت کی زمین اور وہی کھٹکے اور وہی فساد کی گھاٹیں
سے کوئی کوتاہ نہ پایا ان جان سرو بالائین

جیسے دیکھا نظر آیا وہ باون گز کا کھامین
چنانچہ اس بیان کی تصدیق اس خط اور اسکے جواب اور واقعہ گورہ سے جو بھی حال میں ہو انجمنی ہو جائیگی

خط

افظرت شاہ رحمت احمد صاحب ہمدت حضرت مولانا صاحب قبلہ فاضل پوری دام بافیض انہوی اہل ہمدی
جناب مستطاب خیر اللہ شاہ محمد امانت احمد صاحب زاد ہمدی

بعد یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے مکتف ہوں کہ انواع و اقسام کی خبریں جو بغلیہ اخبار کے شائع
ہوئی ہیں علی الخصوص اخبار زمانہ میں۔ ایسی عجیب تشویش پھیلی ہوئی ہے کہ ہندو حقیقت و واقعہ سے جو کچھ میں سنا
جلسہ ندوۃ العلماء تصفیہ میں المقلدین و غیر المقلدین ہوا پسے طور پر آگاہی نہیں ہوئی اور نیز آج سے میں بھی کیا گزرا
کچھ حال معلوم ہوا لہذا برای خدا صبح صحیح و اوقات مطلع فرمائیے اور ہر کر دیکھے تاکہ ہم لوگوں کو اطمینان ہو سکتا
آپ کو خراس خیر عطا فرمائے۔ راقم شاہ محمد رحمت احمد سو داگر ساکن محلہ خدا کی پورہ

جواب

بخدمت شریف برادر محب قلبی مجلس دلی مقبول بارگاہ آگشاہ محمد رحمت احمد صاحب ہمدی ہمدی
بعد یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مضرت کے واضح ہو کہ آپ کا خط سرت نظایا حال معلوم ہوا واقعی صاحب
اور ملاپ بمقام کھٹو مجمع عام جلسہ ندوۃ العلماء واقعہ بارہوی قیصر فی ضرور ہوا اس طور پر کہ بعد نماز صبح کے
مولوی محمد ابراہیم صاحب آروی بمقام کھٹو ہمارے فرد گاہ پر مع چند علما کے تئیں لوی سید محمد علی صاحب
ناظم جلسہ بھی تھے تشریف لائے اور اپنے عقائد کو مثل ہم لوگوں کے بیان کیا اور اسی مضمون کی ایک تحریر
پر مستظاہر مولوی صاحب مجمع کے پیش کر چکی تھی جس سے ہمارا دل بہت خوش ہوا اور ہنسنے کہا بارگاہ احمد
بزرگ احمد اب ہمارے طبیعت آپ سے صاف ہو گئی۔ کیونکہ اصل مخالفت آپ سے عقائد کی وجہ سے
تھی ہر گاہ آپ نے مثل اہل سنت و جماعت کے اپنا عقیدہ ظاہر فرمایا تو صرف آئین باجماعہ یعنی عیدین
ایسا امر نہیں ہے کہ سجدہ دن کی آمد و رفت میں تکرار ہو بہتر ہو گا کہ آج دوسرے جلسہ ندوۃ العلماء کا یہ ہزار ہوا
و خاص اور بڑے بڑے علما کا مجمع ہے آپ تشریف لیا کر اپنا عقیدہ عام طور پر بیان کر دیجیے تاکہ تمام
سامعین و حاضرین کی تشفی ہو جائے۔ اور برسوں کا جھگڑا اٹھائے مولوی صاحب مجموعہ مع ناظم صاحب
و قیصر کے جلسے میں تشریف لائے مولوی محمد ابراہیم صاحب نے آبدیدہ ہو کر خدا کو گواہ کر کے کہا کہ جو
خیالات عرض سے میرے دل میں تھے سب کو آج میں نے بطیب خاطر باجبر و تعدی نظر انسان سے
واپس لیکر میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں آپ لوگ نیے قیامت کے روز میرے اس عقیدے پر آپ
لوگوں کو گواہی دینا ہو گا۔ وہ ہودہ میں خدا تعالیٰ کو حودہ شریک جاننا ہوں ہر محمد صلعم کو اس کا سچا رسول و خاتم
النبین مانتا ہوں اور گل اکابر دین و صحابہ کرام و ائمہ مجتہدین و محدثین و اولیاء اللہ و علما سے مقلدین کہ
اپنا پیشوا اور مقتدی جاننا ہوں اور انکا پیچھے دل سے ادب کرتا ہوں اور انکی بے ادبی کرنا اور انکی طرف
سے کھینچا رہنا گناہ جاننا ہوں اور معجزات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ وکرامات او لیاہ احمد رحمت اللہ علیہم کو ہر حق
سمجھتا ہوں اور ہم مقلدین ائمہ دین اور اہل حدیث ہر ایک دوسرے کو موصوفہ ہوں کہتے ہیں اور کسی تکلف
کو شرک و بدعتی کہنا سخت گناہ جانتے ہیں۔ اور نہ خود کسی مقتدی اور امام کو بڑا کہتے ہیں اور نہ کسی کو

والیہ المعاد۔ الا لا یتفوه بذلك العقائد المدکورۃ الا من له ذهن سقیم
 والله سبحانه یتفوه من یشاء الی صراط مستقیم۔ کتبہ العبد الاثم
 ابو الجمیل معین الدین محمد عبد الجلیل صانہ اللہ عن کل ذمیل وزمیل

مہر تلمیذ حضرت
 مولانا مولوی

محمد عبد الحق خان
 محمد عبد الجلیل بن

محمد ارشاد حسین
 مدرسہ المشرقین

اصاب من اجاب

محمد ضیاء الحق

هو الموفق

ان هذہ الجواب موافق
 للسنة والکتاب کتبہ العبد
 المذنب محمد عبد العاد

محمد عبد الحق

الجواب صحیحہ والمجید مصدقہ

محمد عبد اللہ

هو المستعان

فی الحقیقت یہ جواب باصواب
 معین مقدرین اور حق یقین ہے
 محمد عبد العاد خان

ولد عبد الجبار خان
 عبد القادر خان

ان هذہ الجواب صحیحہ

محمد فضل الرحمن

هو الرحمن الرحیم

لاشک ان هذہ الجواب
 صحیحہ والمجید مصدقہ فقط
 حرزہ الا تلی محمد عبد اکرم

محمد عبد اللہ

تبلیغی سفر

حضرت محدث سورتی کی عملی زندگی کا آغاز جہاد آزادی ۱۸۵۷ء سے ہوتا ہے جب آپ
 نے اپنے والد گرامی کے ہمراہ سورت سے حجاز مقدس کی جانب ہجرت کی۔ اس وقت حضرت محدث
 سورتی کی عمر تقریباً ۱۹ برس تھی۔ اور اغلب یہی ہے کہ حضرت محدث سورتی کا یہ پہلا سفر تھا۔ ہجرت
 ایک مقدس سفر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اگر یہ ہجرت کسی مقدس سرزمین کی سمت ہوتی ہے تو اس
 کا تقدس دو اثناء ہو جاتا ہے۔ حضرت محدث سورتی نے نہایت مصروف شب و روز بسر کئے
 قال اللہ وقال رسول کی روح پرور نصا کے لئے آپ نے بیرون پیل بحیثیت سفر اختیار کیا۔ بریلی،
 گنچ مراد آباد، کانپور، لکھنؤ، رامپور، شاہجہاں پور، اور بدایوں تو آپ اکثر بیشتر تشریف لیا کرتے
 تھے لیکن درددلاز مقامات کا سفر طویل وقفے کے بعد اختیار کرتے۔ اس تمام آمد و رفت کا
 مقصد ہمیشہ تبلیغ دین ہوتا تھا۔ حضرت محدث سورتی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے
 ۱۲۹۱ھ میں دہلی، ۱۲۹۳ھ میں حیدرآباد اور ۱۲۹۱ھ میں اجیر و ٹونک کا سفر اختیار کیا لیکن
 ان دونوں کی تفصیلات کہیں درج نہیں ہیں البتہ ۱۲۹۱ھ میں حکیم محمد واصل خان برادر بزرگ
 حکیم اجمل خان سے دہلی میں ۱۲۹۲ھ میں حضرت مولانا عبد الفلاح گلشن آبادی سے
 بمبئی میں اور ۱۲۹۱ھ میں قزاق محمد علی خان والی ٹونک سے ملاقاتیں ثابت ہیں۔

عظیم آباد (پٹنہ) کا سفر

حضرت محدث سورتی نے ۱۳۱۸ھ میں پٹنہ کا سفر اختیار کیا۔ جہاں مدرسہ اہل سنت پٹنہ کا سالانہ جلسہ رجب المرجب کی ۷ سے ۱۳ تاریخ تک منعقد ہونے والا تھا۔ یہ جلسہ ہر چند جلسہ دستار بندی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن مدرسہ کے متمم قاضی محمد عبد الوحید حنفی فردوسی نے جلسہ میں شرکت کیلئے اتنی کثرت سے علماء کو مدعو کیا تھا کہ یہ جلسہ ایک عظیم الشان سنی کانفرنس کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت محدث سورتی کا اس مدرسہ اور قاضی عبد الوحید فردوسی عظیم آبادی سے خاص تعلق تھا۔ کیونکہ محدث سورتی کے عزیز شاگرد مولانا ضیاء الدین پٹیل بھٹی مولانا فضل حق رحمانی اور مولانا مغز اللہ خاں پٹیل بھٹی اس مدرسہ میں مدرسہ اول مدرسہ دوم اور مدرسہ چہارم کے منصب پر کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت محدث سورتی بحیثیت ممتحن اس سال پٹنہ پہنچے تھے اور آپ کو معقول معاوضہ بھی قاضی عبد الوحید نے پیش کیا تھا۔ جیسا کہ اس جلسہ امتحان کی مطبوعہ روئیداد بنام تاریخ دیوبند حق و ہدایت سے ظاہر ہے۔ اس جلسے میں مولانا محمد اعجاز حسین مجددی رامپوری مولانا ہدایت اللہ خاں جوہپوری، مولانا حکیم سراج الحق علیگرھی، مولانا حافظ بخش بدایونی، مولانا ظہیر الحسن رامپوری، مولانا عبید اللہ آبادی، حکیم خلیل الرحمن خان پٹیل بھٹی، مولانا عبد السلام جہلپوری، مولانا سید احمد دلائی، مولانا عبد الکاظم آبادی، مولانا عبدالمقتدر بدایونی۔ مولانا فضل مجید بدایونی۔ مولانا حکیم مومن سجاد کاپوری، مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ مولانا وصی احمد محدث سورتی، مولانا سید سلیمان اشرف بہاری، مولانا شاہ محمد اجمل الہ آبادی، مولانا سید محمد فاخر الہ آبادی، مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا حکیم عبد القیوم بدایونی، مولانا حسن رضا خان بریلوی، مولانا شاہ عبد العمد سہوانی، مولانا حامد رضا خان مولانا عبد اللطیف سورتی تلمیذ مولانا عبد الحسی لکھنوی، مولانا محمد رمضان خان اکبر آبادی،

۱۔ دربار حق و ہدایت ص ۲۳ مرتبہ محمد عبد الوحید حنفی فردوسی مطبوعہ حنفیہ پٹنہ ۱۳۱۹ھ

مولانا شاہ امین احمد بہاری کے علاوہ معززین و مشائخین نے شرکت کی۔

امر لٹر کا سفر

حضرت محدث سورتی مجلس علمائے حنفیہ امر لٹر کی دعوت پر ۶ رجب ۱۳۲۰ھ کو امر لٹر پہنچے۔ آپ کی امر لٹر آمد کا مقصد مجلس علماء حنفیہ امر لٹر کے اجلاس میں شرکت کرنا تھا۔ جو مسجد مہر آفتاب میں ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ رجب المرجب کو ہونا قرار پایا تھا۔ علماء اہلسنت کی ندوۃ العلماء سے علیحدگی کے بعد یہ معمول بن گیا تھا کہ جس شہر میں ندوۃ العلماء کا سالانہ اجلاس منعقد کیا جاتا وہاں علماء اہلسنت بھی جمع ہوتے اور ندوہ کے مفاسد کو عوام پر واضح کرتے۔ اس سال ندوہ کا اجلاس امر لٹر میں ہوا تھا چنانچہ مجلس علماء حنفیہ امر لٹر نے علمائے اہلسنت کو امر لٹر مدعو کرنے کی ذمہ داری لی اور عظیم الشان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پٹنہ سے امر لٹر تک حضرت محدث سورتی کے ہمراہ سفر کرنے والوں میں قاضی عبد الوحید فردوسی عظیم آبادی، مولانا سید سلیمان اشرف بہاری، ابوالساکین مولانا ضیاء الدین پٹیل بھٹی مدیر تحفہ حنفیہ پٹنہ اور سلطان الواعظین مولانا عبد اللہ خلیف سعید حضرت محدث سورتی شامل تھے۔ جلسہ کی روئیداد کے مطابق بدایوں سے مولانا محب احمد بدایونی اور دیگر علماء ساتھ ہوئے اور علماء اہلسنت کا یہ قافلہ ۶ رجب بروز پنجشنبہ دو بجے دن امر لٹر پہنچا۔ ایٹیشن پر مجلس علماء حنفیہ کے بانی و ناظم مولانا مفتی محمد عبد العمد، مولانا شاہ عبد الغنی، اور مفتی عبد الغفر نے ایک کثیر جماعت کے ساتھ علماء کا استقبال کیا۔ مولانا مولوی حافظ بخش مدرس اول مدرسہ محمدیہ بدایوں اور مولانا حکیم عبد الحسی بدایونی پہلے ہی امر لٹر پہنچ چکے تھے۔ علماء کی رہائش و قیام کا انتظام کٹھہ رام گراہ میں کیا گیا تھا۔ ۶ رجب بعد نماز ظہر علماء اہلسنت کے جلسہ کا آغاز مسجد مہر آفتاب میں ہوا۔ تلاوت قرآن حکیم حمد و نعت کے بعد علمائے پنجاب نے تعاریر کیں۔ خصوصاً مولانا غلام قادر بھروی تلمیذ مفتی صدر الدین آذر دہلے نے نہایت

عالمانہ تقریر کرتے ہوئے مذوہ کی برائیاں بیان کیں اور فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان سے ملاقات کی تمنا ظاہر کی۔ بلکہ رات کو بعد نماز عشاء حافظ غلام رسول نے تلاوت کلام مجید سے جلسہ کا آغاز کیا پھر درود شریف کی کثرت ہوئی میزبانوں کی جانب سے مولانا سلیمان اشرف بہاری نے اہل امرتسر کی دینی حمایت کی تعریف کرتے ہوئے مذوہ کی گمراہیاں بیان کیں۔ ۷ رجب بروز جمعہ ۱۳۳۲ھ بعد نماز فجر علماء کی فرودگاہ پر مذاکرہ علمیہ ہوتا رہا۔ بعد نماز جمعہ جلسہ شروع ہوا اور مولانا محب احمد بدایونی نے تقریر شروع کی۔ دوران تقریر مولانا عبدالمقصد بدایونی، مولانا فضل المجید، مولانا عبدالمجید بدایونی بھی جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ اس طرح علماء کی کثرت میں اضافہ ہوتا رہا۔ مولانا ضیاء الدین نے لکھا ہے کہ علمائے اہلسنت کی امرتسر آمد سے شہر میں دھوم مچ گئی اور ہر طرف سے عوام و خواص علماء اہلسنت کی خدمت میں پہنچ کر مذوہ العلماء کے جنابت معلوم کر کے اس سے دستبردار ہوتے رہے۔ حضرت محدث مولانا ۱۲ رجب المرجب کو آخری اجلاس سے خطاب کیا۔ اور معجزات فخر موجودات سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کئے اور مذوہ کے مفادات سے عوام کو تفصیلاً آگاہ کیا۔ محدث سورتنی کا امرتسر میں قیام تقریباً پندرہ دن رہا۔

لاہور کا سفر

حضرت محدث سورتنی نے ۱۹۱۲ء میں انجمن نعمانیہ لاہور کے پچیسویں سالانہ اجلاس میں شرکت کی یہ اجلاس جو چار روزہ کانفرنس پر مبنی تھا۔ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ ایک ہی وقت میں علماء و مشائخ عظام کی اتنی بڑی تعداد اس سے قبل لاہور میں بیک وقت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی تھی۔ علامہ نور بخش توکل لکھتے ہیں کہ خوش قسمتی سے اس اجلاس میں مشاہیر علماء کرام و صوفیاء عظام کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ بجائے

۱- رواد جلسہ اہلسنت امرتسر ۱۳۳۲ھ۔ مرتبہ ابوالسائین مولانا ضیاء الدین مطہر مطبع حنفیہ پشاور ۱۳۳۲ھ

تین روز کے چار روز تک متواتر جلسہ ہوتا رہا۔ اور سامعین کے اصرار کے باوجود رات کو بارہ بجے تک جلسہ کو جاری رکھنا پڑا اور بفضلہ تعالیٰ سامعین بھی جوق در جوق ہر وقت موجود اور کمال اشتیاق سے سہمہ تن گوش رہتے تھے۔ علامہ شاہ حسین گروہری نے لکھا ہے کہ اس اجتماع کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ دیگر علماء کرام کے علاوہ برصغیر پاک و ہند کے تین ممتاز عالم دین مولانا شاہ وحی احمد محدث سورتنی، مولانا دیدار علی محدث الوری اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی بھی اس جلسہ میں بیک وقت موجود تھے۔ اور تینوں حضرات کا وعظ بھی ایک جہاں ہوا۔ یہ تینوں بزرگ ۱۲۹۵ھ میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے پاس دورہ حدیث میں شامل تھے۔ اور ۳۵ سال بعد ان کے باہم اجتماع نے جلسہ کی رونق دوبالا کر دی تھی۔ ۱۲۹۵ھ اس اجلاس کی پہلی اور انتہائی نشست ۲۷ دسمبر کو بعد نماز جمعہ شروع ہوئی انجمن نعمانیہ کے صدر اور روزنامہ رفیق ہند لاہور کے ایڈیٹر مولانا محرم علی چشتی نے اپنی انتہائی تقریر میں علماء کرام و مشائخ عظام کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے انجمن کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد ملک محمد عمر حیات ٹوانہ مولانا اکرام الدین بخاری امام و خطیب مسجد وزیرخان لاہور، مولانا مفتی ولی محمد جالندھری، مولانا عبدالمجید پانی پتی وغیرہ نے تعادیر کیں اور جلسہ رات گئے تک جاری رہا۔ دوسری نشست ۲۸ دسمبر کو صبح دس بجے شروع ہوئی جس سے مولانا محمد ذاکر چشتی بگٹی خطیب بادشاہی مسجد لاہور مولانا غلام احمد شوق فریدی اور مولانا عبدالحکیم پشاوری نے خطاب کیا۔ ظہر بعد پھر جلسہ شروع ہوا جس کے آغاز پر خواجہ سید غلام محی الدین گولڑوی نے تلاوت کلام مجید فرمائی اس کے بعد فخر طریقت اعلیٰ حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی نے ایک نغمہ الخ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نہایت فصیح و بلیغ اور عالمانہ تقریر فرمائی کہ عوام تو عوام علماء و مشائخ بھی عیش عیش کراٹھے۔ مولانا نور بخش توکل نے جنہوں نے اس جلسہ کی روئیداد مرتب کی تھی

۱- انجمن نعمانیہ کا ماہوار رسالہ شمارہ نومبر ۱۹۱۲ء مطبوعہ لاہور۔
۲- عظیم الشان کانفرنس منہ ۹- شاہ حسین گروہری۔ مضمون مطبوعہ سنی کانفرنس پشاور ۱۳۳۲ھ۔

لکھتے ہیں کہ جب پیر صاحب قبلہ عالم تقریر فرما رہے تھے تو اہل علم پر وہ جان کی کیفیت طاری تھی۔ خلیفہ تاج الدین کی حالت کو تو کوئی صاحب حال ہی سمجھ سکتا ہے۔

ملفوظات مہرہ میں درج ہے کہ قبلہ عالم کے بعد المہنت کے شہور عالم مولانا شاہ دہسہ احمد محدث سورتی نے عصر تک تقریر فرمائی۔ محدث سورتی نے اپنی تقریر کے شروع میں فرمایا کہ سبحان اللہ حضرت پیر صاحب نے ابتدا میں اتنی بلند پرواز فرمائی کہ ارباب علم کو مجھ حیرت کر دیا۔ اور آخر میں اس قدر عام فہم مسائل فقر پر گفتگو فرمائی کہ عوام کو بھی مضمون ذہن نشین کر دیا۔ بلکہ عصر کے بعد مولانا دیدار علی شاہ محدث الوری نے مغرب تک تقریر فرمائی اور بعد نماز عشاء مولانا احمد حسین خان رامپوری، مولانا شفقت حسین بلاری، مولانا محمد یعقوب، مولانا محمد عمر مراد آبادی، مولانا عبدالحلیم اور مولانا عبدالمجید پانی پتی نے خطاب کیا۔ ۲۹ دسمبر کو صبح دس بجے سے نماز عصر تک جلسہ جاری ہوا۔ ۳۰ دسمبر کو دس بجے سے نماز ظہر تک حضرت مولانا دہسہ احمد محدث سورتی اور مولانا انیسیم الدین مراد آبادی نے تعاریر فرمائیں۔ ظہر سے عصر تک مولانا محمد فاضل جالندھری، مولانا سید محمد امین اور عصر سے مغرب تک دیوان سید محمد سجادہ نشین پاک پٹن شریف و مولانا دیدار علی محدث الوری نے خطاب کیا۔ آخر میں مولانا امجد علی اعظمی انصاری نے فاضل بریلوی کا مرتب کردہ مسودہ عقاید عوام کے سامنے پیش کیا جسے علمائے کرام نے منظور کیا۔ اختتام جلسہ کے بعد حضرت محدث سورتی نے تقریباً پندرہ یوم لاہور میں قیام کیا۔

سیالکوٹ کا سفر

پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے ۱۹۰۳ء میں مذہبی اور قومی خدمات کے

لئے ایک جماعت انجمن خدام الصوفیہ کے نام سے لاہور میں قائم کی جس کی تقریباً پورے ہندوستان میں ضلعی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ کے حضرت محدث

۱۔ انجمن نغز نیلا ہور کا ماہوار رسالہ ص ۱۰
۲۔ ملفوظات مہرہ از مولانا گل فقیر احمد پوری مطبوعہ گولڑہ شریف راولپنڈی۔
۳۔ ملفوظات مہرہ از مولانا گل فقیر احمد پوری مطبوعہ گولڑہ شریف راولپنڈی۔

سورتی سے اہرادرانہ مراسم تھے۔ جس کی بظاہر وجہ یہ تھی کہ پیر صاحب حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی اور مولانا احمد حسن کانپوری کے شاگرد تھے اور اپنے عہد کی ان دونوں عظیم شخصیتوں سے حضرت محدث سورتی کی قرابت داری تھی۔ پیر سید جماعت علی شاہ کے صاحبزادے مولانا سید خادم حسین نے محدث سورتی سے علم حدیث پڑھا اور سند حاصل کی تھی۔ چنانچہ پیر صاحب اور محدث سورتی باہم بہت زیادہ شیردشکر تھے۔ پیر صاحب کے مریدوں کی پہلی بھیت میں اچھی خاصی تعداد تھی۔ اور پیر صاحب اکثر و بیشتر پہلی بھیت تشریف لایا کرتے تھے۔ خصوصاً اردو کے سب سے وقیح لغت گو شاعر قاضی خلیل الدین حسن حافظ پہلی بھیت سے آپ کے بڑے دیرینہ مراسم تھے۔ انجمن خدام الصوفیہ کے اجلاس منعقدہ مئی ۱۹۱۵ء میں شرکت کے لئے پیر سید جماعت علی شاہ کی خصوصی دعوت پر حضرت محدث سورتی سیالکوٹ پہنچے اور تقریباً دو ہفتہ قیام کیا۔ ماہنامہ انوار الصوفیہ کی ایک اطلاع کے مطابق ۱۱ مئی ۱۹۱۵ء کو بعد نماز عشاء انجمن خدام الصوفیہ کے جلسہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ مجلس کی صدارت مولانا مولوی حاجی دہسہ احمد صاحب محدث سورتی ناظم اعلیٰ مدرسۃ الحدیث پہلی بھیت کر رہے تھے۔ مولوی محمد امانت اللہ بنارسی نے کرامت و محبت صوفیہ کے کرام پر تقریر فرمائی۔ حضرت امیر ملت (پیر جماعت علی شاہ) نے خوش ہو کر تمغہ عنایت فرمایا۔ اس کے بعد شیخ محمد ابراہیم آزاد و کیل بیکانیر اور شیخ نثار احمد و کیل نے صوفیانہ کلام سنایا جس سے حاضرین بہت محظوظ ہوئے۔ امیر ملت نے ان کو بھی تمغے عطا فرمائے۔ اس کے بعد ختم شریف ہوا اور حضرت محدث سورتی نے دعا پر جلسہ کا اختتام کیا۔

کلکتہ کا سفر

حضرت محدث سورتی ۱۲ شعبان ۱۳۱۹ھ بمطابق یکم دسمبر ۱۹۰۱ء مجلس اہل سنت

کلکتہ کی دعوت پر پہلی بھیت سے بریل اور پھر بریلی سے کلکتہ پہنچے۔ مجلس المہنت کلکتہ

۱۔ ماہنامہ انوار الصوفیہ لاہور ص ۱۰ ماہ جون ۱۹۱۵ء

لے ہندوستان کے مختلف بلاد و اقصاء سے علماء اہل سنت کو اظہار حق کے لئے مدعو کیا تھا۔ کیونکہ انہی آیام میں ندوۃ العلماء کا جلسہ کلکتہ میں ہونے والا تھا۔ حضرت محدث سورتیؒ جو ندوۃ العلماء کے ابتدائی اجلاسوں میں شرکت کے بعد ارباب ندوہ میں غیر مقلدین کی شہولیت پر احتجاجاً ندوہ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ ہمیشہ ندوہ کے مفادات سے عوام اہل سنت کو آگاہ کرتے رہتے اور اس ضمن میں سفر بھی اختیار کرتے تھے۔ اجلاس پٹنہ کے موقع پر علماء اہلسنت نے ایک مرتبہ پھر ارباب ندوہ کو مناظرہ کی دعوت دی لیکن ندوی حضرات نے کوئی جواب نہ دیا چنانچہ طے کیا گیا کہ اس دعوت کی کلکتہ کے اجلاس کے موقع پر تجدید کی جائے۔ اس سلسلے میں فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کے ایک خلیفہ الحاج منشی لعل خاں نے جو کلکتہ میں مقیم تھے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اجلاس ندوہ سے قبل دعوت مناظرہ کو بصورت اشتہار شائع کرا کے نہ صرف تقسیم کیا بلکہ اخبارات میں بھی شائع کرایا جس کے جواب میں مولوی شاہ نظام الدین ندوی نے مناظرہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے منصفین کے دو پنچول کے قیام کی ضرورت پر زور دیا چنانچہ علماء اہلسنت کلکتہ نے آٹھ حکم مقرر کئے جن میں مولانا احمد حسن کانپوریؒ، مولانا شاہ عبدالوہاب لکھنویؒ، مولانا ہدایت اللہ خان جوینوریؒ، مولانا شاہ امین احمد سجادہ نشین بہار شریف۔ مولانا شاہ بدر الدین سجادہ نشین پھلواری شریف۔ مولانا محمد عادل کانپوریؒ، دیگر علماء شامل تھے۔ متکلمین و مناظرین میں مولانا شاہ عبدالصمد ہوانیؒ مولانا دھمی احمد محدث سورتیؒ، مولانا عبدالسلام جیلپوریؒ، مولانا قاضی عبدالوحید فردوسیؒ عظیم آبادیؒ، اور مولانا حکیم مومن سجاد کانپوریؒ شریک تھے۔ مناظرہ کی دعوت ۱۶ اگست ۱۹۱۹ء کے اخبار نصرت الاسلام کلکتہ میں شائع کی گئی چنانچہ ارباب ندوہ کلکتہ پہنچے اجلاس اختتام پذیر ہوا مگر مناظرہ کی یہ دعوت جسے ابتداً قبول کر لیا گیا تھا۔ بعد میں خاموشی کے ساتھ رد کر دی گئی۔ جو علماء اہلسنت کے لئے کلکتہ میں ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ مجلس اہل سنت کی دعوت پر جو علماء کلکتہ پہنچے

تھے۔ ان میں فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں بریلویؒ، مولانا محمد عادل کانپوریؒ، مولانا شاہ عبدالصمد ہوانیؒ، قاضی عبدالوحید عظیم آبادیؒ، مولانا عبدالسلام جیلپوریؒ اور دیگر علماء شامل تھے۔ اس موقع پر علماء اہلسنت کے ایک وفد نے جس میں فاضل بریلویؒ اور حضرت محدث سورتیؒ شریک تھے مولانا خیر الدین دہلوی والد بنو گوار مولانا ابوالکلام آزاد سے بھی ملاقات کی تھی اس ملاقات کا تذکرہ مولانا محمود احمد قاری نے تذکرہ علماء اہلسنت میں بھی کیا ہے۔ کلکتہ میں علماء اہلسنت نے کسی روز قیام کیا۔ اور عوام کو برابر مفاسد ندوۃ العلماء سے آگاہ کرتے رہے۔





وظیفہ روز و شب

حضرت مولانا امجد محمدت سورتی کے معمولات دینی و دنیوی علماء سلف و صالحین کا آئینہ تھے۔ آپ ہر کام میں احکام شریعت کو پیش نظر رکھتے۔ اور فرماتے کہ ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا جلنا سب کچھ اللہ کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کم گوئی آپ کا شیوہ خاص تھا۔ مدرسہ ہو یا مسجد، گھر ہو یا محفل آپ اکثر و بیشتر خاموش رہتے اور اختلافی مسائل میں صرف اُس وقت رائے دیتے جب آپ سے دریافت کیا جاتا۔ مدرسہ

یا گھر پر بغرض ملاقات آنے والے حضرات سے نہایت انکسار کے ساتھ مصافحہ کر کے متعلقین کی خیریت و زیارت فرماتے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے پھر اُس وقت تک خاموش رہتے جب تک کہ آنے والے گفتگو کا آغاز نہ کرتا۔ چھوٹے اور بڑوں کی یکساں تنظیم فرماتے۔ اور بسا اوقات اس درجہ انکسار سے کام لیتے کہ مخاطب پر وقت طاری ہو جاتی۔ پہلی بھیت کے ایک بزرگ قبلہ محمد احمد خان نے راقم الحروف کو ایک ملاقات میں بتایا کہ حضرت محدث سورتی کی علمیت اور زیارت کا شہرہ پورے ہندوستان میں عام تھا۔ اور خلق خدا اور دروازے سفر کر کے آپ کی زیارت کے لئے پہلی بھیت آتی تھی۔ مدرسہ اور مسجد میں ہمیشہ مسافروں کا قیام رہتا تھا۔ جن میں بڑی تعداد طالب علموں اور علماء کی ہوتی تھی۔ میں نے حضرت محدث سورتی کو تقریباً پندرہ برس نہایت قریب سے دیکھا کیونکہ آپ ۱۲ ربیع الاول کی صبح ہمارے گھر میلاد میں مشہر یک ہوئے۔ اور فاتحہ خوانی تک قیام فرماتے۔ آپ ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے اور بہت کم مخاطب کی سمت دیکھتے۔ بچوں سے خصوصی انس و پیار تھا یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کے تمام بچے نماز عصر کے بعد آپ کے چاروں طرف حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے اور آپ اُن کو نصیحت فرماتے رہتے۔ عموماً نماز عصر سے مغرب تک مسجد میں قیام فرماتے۔ لیکن اس دوران بچوں کے علاوہ کوئی اور شخص آپ کے قریب نہ جاتا۔ کیونکہ آپ وظائف میں مصروف رہتے تھے۔ آپ تہجد کے بعد وظیفہ پڑھتے اور نماز فجر سے کچھ قبل گھر کے تمام افراد اور مدرسہ کے طالب علموں کو بیدار کرتے۔ اگر کوئی کسلمندی کا اظہار کرتا تو اُس پر پانی ڈال دیتے اکثر آپ کے برادرِ بخور مولانا عبد اللطیف مشکوہ کرتے تو فرماتے میں تو اس لئے ہی سوسوی میں پانی ڈال رہا ہوں تاکہ مرجائے۔ جب نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر زندہ رہنے کا کیا حق ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور اشراق کی نماز سے قبل ناشتہ کرتے اور کچھ دیر مطب میں بیٹھے پھر مدرسہ تشریف لے جاتے بارہ بجے دوپہر کے قریب کھانا تناول فرماتے اور کچھ دیر قبیلے کے بعد ظہر کی نماز کو جاتے اور ظہر کے بعد سے عصر تک طالب علموں کو حدیث شریف کا درس دیتے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان خانہ اذان

کے پیروں کو حدیث کا درس دیتے جس میں محلہ کی عورتیں بھی کثیر تعداد میں شریک ہوتی تھیں۔ بٹنا کی نماز کے بعد رات گئے تک لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے۔ حضرت محدث سورتی نہایت دھی آواز میں گفتگو فرماتے حتیٰ کہ محافل و عطا اور دیگر اجتماعات میں بھی یہی طریقہ برقرار رہتا۔ چہری نمازوں میں بلند آواز سے قرأت یا تلاوت فرماتے خصوصاً فجر کی نماز میں بسی سورتیں تلاوت فرماتے اور اکثر و بیشتر دوران تلاوت رقت طاری ہو جاتی۔ حضرت محدث سورتی سے پہلی بحیثیت کے رہنے والوں کی عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ دوران کے محلوں سے لوگ فجر کی نماز آپ کے پیچھے ادا کرنے کے لئے بیلوں والی مسجد آیا کرتے تھے۔ تاکہ روزگار پر جانے سے قبل آپ کی زیارت و مصافحہ سے شرف یاب ہو سکیں۔ مدرسۃ الحدیث میں زیر تعلیم طلبہ کے لئے پہلی بحیثیت کے اکثر گھروں سے وظائف بندھے ہوئے تھے۔ خصوصاً مولانا فضل حق پنجابی سواگر تلمیذ حضرت محدث سورتی طالب علموں کے لئے ظہر بعد کھانے کا انتظام کرتے اور اپنی نگرانی میں طلبہ میں کھانا تقسیم کرتے۔ حضرت محدث سورتی کے برادر خورد مولانا عبداللطیف سورتی بھی طالب علموں کا خصوصی خیال رکھتے اور سال میں دو مرتبہ طالب علموں میں کپڑے کے جوڑے تقسیم کرتے اس کے علاوہ شہر کے دیگر متمول افراد بھی مدرسہ کی ضروریات کے پیش نظر عطیات دیتے رہتے تھے۔ حضرت محدث سورتی کی صاحبزادی فخرہ کریم النساء دامت برکاتہم نے راقم الحروف کے نام ایک خط میں حضرت محدث سورتی کے معمولات بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت محدث سورتی لباس میں سفید ملبس کا بنچا کرتا، مغلیں پانجامہ، اور اچکن استعمال کرتے تھے۔ عموماً انکھ استعمال کرتے۔ جس پر ٹاشکی صدری ہوتی تھی۔ بمبئی کے قالب والی گول ٹوپی لگاتے جس پر صافہ باندھا کرتے تھے جس کا پلو ہمیشہ ہاتھ پر ہوتا تھا۔ لباس کا رنگ ہمیشہ سفید ہوتا تھا۔ دھاری دار کپڑے نہ خود استعمال کرتے اور نہ ہی کسی کو استعمال کرنے دیتے تھے۔ خوراک بہت کم تھی۔ گندم کے پلکے پھلکے اور بکری کے گوشت کا شور بہ دونوں وقت کھانے میں شامل ہوتا تھا۔ مرچ اور گرم مصالحے سے پرہیز کرتے۔ لیکن کباب شوق

سے کھایا کرتے تھے۔ رات کو استراحت کے لئے پلنگ استعمال کرتے جس پر نرم گدا اور عدد کافی نرم ٹیکے ہوتے۔ حضرت محدث سورتی کے معمولات کا ایک سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ آپ کے پاس دوران درس ایک تھیلا موجود رہتا تھا جس میں قدیم کو فی طرز تحریر کا قرآن حکیم کا پہلا پارہ رکھا رہتا تھا۔ یہ پارہ اپنی قدامت کے اعتبار سے کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ جبکہ تھیلا بھی کسی جگہ سے نکل گیا تھا۔ مگر تھیلا جو نہایت خوبصورت قدیم پارچہ کا سلا ہوا تھا۔ دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی خاص مقصد کے لئے بنایا گیا ہے۔ حضرت محدث سورتی اکثر اس تھیلے کی تفصیلاً کو چھپاتے تھے۔ لیکن جب کوئی اصرار کرتا تو فرماتے یہ وہ تھیلا ہے جو میری والدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور جس میں پہلی مرتبہ یہ پارہ لیکر مدرسہ پڑھنے گیا تھا۔ یہ تھیلا میری متاع عزیز ہے۔ جہاں یہ میری والدہ کی نشانی ہے وہاں اس کی ہر وقت موجودگی مجھے یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ میں بنیادی طور پر طالب علم ہوں۔ جس دن یہ احساس میرے دل سے معدوم ہو گیا اس دن میرے علم اور جہالت میں کوئی حد فاصل نہیں رہے گی۔

محمد ابراہیم بادشاہ کشمیری شہ پہلی بحیثیت کے حضرت محدث سورتی سے بڑے قریب مرام تھے۔ آپ کا مکان حضرت سورتی کے مکان سے تقریباً ملا ہوا تھا۔ جس کی بنا پر آپ ہر وقت محدث سورتی کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اور محدث صاحب کے بیشتر کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ سفر میں بھی آپ حضرت محدث سورتی کے ہمراہ ہوتے تھے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے مرید تھے۔ اس لئے جب اعلیٰ حضرت پہلی بحیثیت تشریف لاتے تو ابراہیم بادشاہ اٹیشن سے محدث سورتی کے مدرسہ تک رنگ برنگی جھنڈیاں لگاتے اور اپنے مکان پر چڑھنا کرتے۔ ابراہیم بادشاہ کا بیان ہے کہ حضرت محدث سورتی جیسا مرغان فریخ اور با وضع انسان میں نے نہیں دیکھا۔ ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ کھینچی رہتی۔ سادگی اور انکساری طبیعت

۱۔ محمد ابراہیم بادشاہ نے جون ۱۸۵۰ء میں کراچی میں ۹۰ سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کو سمیٹن قبرستان دارقہ نامہ آباد میں مولانا حکیم قاری احمد علی بحیثیت کے قریب سپرد قبر کیا گیا۔

میں اس درجہ تھی کہ ایک عام آدمی کا گمان ہوتا۔ کبھی اپنی قابلیت اور خدا داد عزت کو وجہ امتیاز تصور نہ کیا۔ اگر کبھی کوئی شخص غیر ضروری تعظیم و تکریم سے پیش آتا تو اسے اس قدر عاجزانہ رویہ اختیار کرنے سے منع فرماتے اور کہتے کہ اپنے نفس کو مجروح ہونے سے بچا یا کرو۔ حضرت محدث سورتیؒ نے جس کسر نفس اور فروتنی سے اپنی زندگی گذاری وہ صرف اہل اللہ کا خاصہ رہی ہے۔ اعراض و نقصانیت کا دور در نزدیک نام و نشان نہ تھا بصیبت پر بصیبت کو ترجیح دیتے۔ اور برائی کو عام ہونے سے روکنے کی حتی الوسع سعی کرتے چنانچہ آپ کو اکثر مخالفین کے غیض و غضب کا شکار بھی ہونا پڑا۔ مگر آپ تصد اصلاح کے پیش نظر صبر و تحمل سے کام لیتے۔ بسا اوقات مخلصین جو ابی کارروائی کی اجازت طلب کرتے تو آپ فرماتے ہم نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ محدث سورتیؒ نہایت رقیب القلب اور کریم النفس بزرگ تھے۔ دوسروں کی تکلیف پر بے اختیار بے چین ہو جاتے اور دفع تکلیف کے لئے دعا کرتے۔ جہانی طور پر معذور افراد سے خصوصی شفقت اور محبت فرماتے اور خدمت کی نیت سے ان کو اپنا مہمان رہنے کی پیشکش کرتے۔ یہی وہ عادت و صفات تھیں جنہوں نے حضرت محدث سورتیؒ کو نہ صرف اپنے ہم عصر علماء میں ممتاز کیا بلکہ عوام الناس میں حد درجہ مقبول بنا دیا تھا۔



علاقت و غفلت

حضرت محدث سورتیؒ نے تقریباً چالیس سال درس حدیث دیا اور سینکڑوں طلباء نے آپ سے سند فراغت حاصل کی۔ دس و تدریس کے علاوہ مسلک المہنت کی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں بھی آپ نے روز و شب ایک کئے جس کے نتیجے میں آخر عمر میں شدید اعصابی کمزوری واقع ہو گئی اور تقریباً چار ماہ طلبہ کو بستر غلاقت سے ہی درس دیا بعض اوقات تشیح اور کمزوری اعضا کی بنا پر آپ مسجد تک نہ جاسکتے۔ اور لیٹ کر ہی نماز ادا کرتے۔

ماہ ربیع الاول اور ربیع الثانی اسی عالم میں گذرا۔ جو اس بحال رہے لیکن جمادی الاول کے آغاز پر ہی غشی اور غفلت کا آغاز ہو گیا۔ مولانا خلیل الرحمن پبلی بھیتی کے صاحبزادے حکیم سعید الرحمن خان اور محدث سورتی کے ایک شاگرد حکیم عبد الجبار خان تمام وقت حجرے میں حاضر رہتے ہر طرح کا علاج و معالجہ جاری تھا۔ لیکن غفلت میں اضافہ ہوتا گیا اور ۱۳ اپریل ۱۹۱۶ء بمطابق ۸ جمادی الاول ۱۳۳۳ھ یوم چہار شنبہ بوقت تہجد روح قفس عنقریب سے پرواز کر کے مالک حقیقی سے جا ملی (انا لله وانا الیہ راجعون)

محدث سورتی کے ایک شاگرد مولانا الزار احمد کانپوری نے لکھا ہے کہ ۶ جمادی الاول کو بعد نماز ظہر حجرہ کے باہر علماء، علماء دین شہر اور شاگردوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ غفلت سے بیدار ہوئے تو پوچھا: کیا دن ہے؟ بتایا گیا۔ دو شنبہ ہے۔ فرمایا: بخاری شریف کی پہلی جلد ختم ہو گئی۔ آخر وقت تک تباہ سنت کا یہ عالم تھا کہ ایک صاحب ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ان سے کہہ دو میں ان سے ناراض ہوں۔ وعدہ کیا تھا کہ ڈارٹھی نہیں کتر وادوں گا۔ مگر پھر کتر وادے ہیں۔ ایک صاحب نے آکر کہا آداب عرض ہے۔ فرمایا: میں نہیں جانتا کہ آداب عرض کس بلا کا نام ہے، اہل اسلام کا سلام، السلام علیکم ہے۔ حکیم عبد الجبار خان نے اسی دوران آپ کی بیعت دیکھنے کے لئے آپ کے بائیں ہاتھ پر چنا ہاتھ رکھا تو فوراً ہاتھ کھینچ کر ہاتھ بٹھا دیا۔ مسجد سے عصر کی اذان بلند ہوئی۔ تو آپ نے باوا بلند نیت کی، اور پھر دونوں ہاتھ زیر ناف باندھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ دو دن اسی طرح نماز پڑھنے میں گزرے۔ ۸ جمادی الاول کی شب میں پھر غفلت سے بیدار ہوئے اور فرمایا: یہ اسرافیل ہیں اور آگے تمام ملائکہ کا نام لینا چاہتے تھے کہ قصداً زبان کو بند کیا معاً بعد بیعت کر دونوں ہاتھ مصافحہ کے لئے بڑھادیئے اور کسی شخص کو داہنے ہاتھ سے اپنی ٹوپی اتار کر دی کہ لو۔ اس کے بعد استفسار کیا کہ کیا یہ مسجد ہے۔ خدام نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا: ادھر ادھر بعد کو معلوم ہوا کہ یہ اشارہ فرار کی طرف تھا۔ جو ایک مقام ممنوع تھا مگر بفضلِ تعالیٰ چند منٹوں میں حکام

شہر نے اس مقام پر آپ کی تدفین کی اجازت دیدی، اس سلسلہ میں رئیس شہر حاجی عبد الحمید خاں نے بہت کوشش کی۔ دو بجے شب اسی دن فرمایا۔ اسباب باندھو پانکی منگواؤ اور کھلو اعلیٰ حضرت (مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی) کی خدمت میں لے چلو۔ جلدی کرو کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی چوٹ جائے۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا۔ قبلہ رخ کرو۔ پھر دریافت فرمایا، کیا وقت ہے۔ کہا گیا، تین بجے ہیں۔ فرمایا صبح صادق تو نہیں ہوئی۔ کہا گیا نہیں لگتے میں آپ کے برادر خورد مولانا عبد الطیف سورتی آگئے۔ ان کو اچھی طرح پہچانا اور مولانا عبد الحی پبلی بھیتی اپنے بھتیجے کو ان سے پوچھا۔ اور فوراً بعد نماز تہجد کے نیت باندھ لی۔ ابھی آٹھ بجے دوایا کستقین پر پہنچے تھے کہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ محدث سورتی کے دھال کی خبر سے عوام اور طبقہ اہلسنت میں کہرام مچ گیا۔ تمام خاندان نے سیاہ حاشیوں کے ساتھ اس عالم بے نظیر کی خبر کو جگہ دی۔ اخبار دیدیدہ سکندری و امپور نے سیاہ حاشیہ کے ساتھ انتقال کی خبر شائع کی۔ جس کا متن یہ ہے۔

نہایت افسوس کے ساتھ سنا گیا کہ ۱۳ اپریل ۱۹۱۶ء یوم چہار شنبہ کو حضرت مولانا مولوی شاہ دہی احمد صاحب قبلہ محدث سورتی نے اس دارِ فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ مرحوم ایک زبردست محدث اور اہلسنت والجماعت کے مشاہیر علماء میں سے تھے۔ آپ کے دم سے پہلی بھیت میں علم دین کی درس و تدریس کا چرچا جاری تھا۔ ہم آپ کے صاحبزادے سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد پبلی بھیتی نو اسی داماد حضرت شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس علمی شہرت کو جو اس دورِ سگاہ کی قائم ہے زوال نہ پہنچے دیں گے یہ

۱۔ مولانا الزار احمد کانپوری مضمون 'محدث سورتی کے مناقب' مطبوعہ انبار دیدیدہ سکندری یکم مئی ۱۹۱۶ء جلد ۵۲
۲۔ دیدیدہ سکندری ص ۱۳۰، ۱۴ اپریل ۱۹۱۶ء جلد ۵۲ (حال موجود مولانا لائبریری۔ رانپور)

فاضل بریلوی کا اظہار حزن

اخبار دبیر سکندری کے ایڈیٹر محمد فضل حسن صابری نے حضرت محدث سورتی کے انتقال پر ایک ادارتی نوٹ بھی تحریر کیا۔ مولانا شاہ وحی احمد صاحب قبلہ محدث سورتی کی وفات ہمارے لئے ایک ناقابل تلافی صدمہ ہے۔ مولانا اپنے صفات میں یکتا بزرگ تھے۔ آپ کی ذات گرامی کا دنیائے سنیت میں کم ہو جانا بد قسمتی کا باعث ہے اعلیٰ حضرت مجدد مائتہ حاضرہ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان مدظلہم الاقدس کے ذات قدسی صفات سے آپ کو گہرا خلوص تھا۔ مجھے معتزذ الخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس دن حضرت محدث سورتی کی خیر وفات بریلی میں موصول ہوئی۔ اس روز اعلیٰ حضرت نے بیٹھ کر کل نمازیں ادا فرمائیں۔ حالانکہ آپ ہر حال میں غصا لیکر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دلی حزن کا اظہار تھا۔ اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ مرحوم آپ کے لئے قوت تھے۔ انیسویں کہ اعلیٰ حضرت کا قدیمی غلص اور فاضل جتید ہم سے چھین گیا گو حضرت محدث سورتی نے اپنے لائق صاحبزادے کو اپنی نیک یادگار کے طور پر بہاری تسکین کے لئے چھوڑا ہے مگر حضرت کی خوبیاں مخصوصات جن کو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے اب قیامت تک کے لئے ہماری نظر سے چھپا لئے گئے ہیں۔ ہم اپنے بے حد رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم و مغفور اعلیٰ اللہ تعالیٰ مقامہ کے لئے دعائے مغفرت پڑھتے ہیں۔ اور حضرت کے صاحبزادے سے اظہار تعزیت و ہمدردی کرتے ہیں۔

حضرت محدث سورتی کے ایک شاگرد یعنی مولانا شاہ ظفر الدین بہاری نے جو حضرت محدث سورتی کے وصال کے وقت مدرسہ شمس الہدیٰ بانکی پور پٹنہ میں صدر مدرس

کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مدیر دبیر سکندری کے نام ایک مکتوب میں تحریر کیا کہ۔
”والاجنب مستغنی عن الالقاب مولوی مفتی شاہ وحی احمد صاحب قبلہ محدث سورتی قدس سرہ العزیز کے انتقال پر ملال نے دنیائے اسلام کی روح و تن میں ایسا غیر مندرجہ زخم پیدا کر دیا ہے جس کے ادا کرنے میں کہ ہم نہ کوئی زبان پاتے ہیں اور نہ اس کے بیان کے لئے کوئی حرف۔ سوائے اس کے کہ مشیت ایزدی میں چارہ کیا کہہ کے دل کو تسکین کر لیں۔ اور کچھ نہیں ہر سکنا۔ حضرت محدث سورتی آج نہ صرف مستند درس پر ہی لیکن ہر گناہ تھے بلکہ دینی تشبہ اور مذہبی تعلق میں بھی اپنی آپ ہی نظیر تھے۔ یہاں اس حادثہ جانکاہ کی خبر بذریعہ حافظ سید بنیاد علی بریلوی معلوم ہوئی۔ کہ چہار شنبہ ۸ جمادی الاولیٰ کو حضرت محدث سورتی رہگذر عالم جاوداں ہوئے۔ انا للہ وانا الیہ مرجعون مدرسہ شمس الہدیٰ میں طلبائے فارغ التحصیل کی دستار بندی کے موقع پر شبان میں آپ کو ملتے جلنے کی آرا پاس ہو رہی تھیں کہ مولیٰ تعالیٰ اجل جلالہ عم نوالہ نے اس برگزیدہ عالم کو اپنے پاس بلا لیا۔ وللاخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔

آج تقریباً بیسہ مدرسہ شمس الہدیٰ میں عام تعطیل دیدی گئی۔ اور ایصال ثواب کے لئے قرآن شریف و کلمہ طیبہ پڑھا گیا۔ چار ختم قرآن مجید اور ڈھائی لاکھ کلمہ طیبہ کے بعد قل شریف ہوا اور حاضرین کو تبرک تقسیم کیا گیا۔ نیز چالیس دن تک روزانہ ایک ختم قرآن شریف کا انتظام کیا گیا۔ ہم جملہ مدارس و طلبہ مدرسہ شمس الہدیٰ کو سلطانی اور اعلیٰ جناب مولانا مولوی عبدالاحد قادری رضوی خلف الصدق حضرت محدث سورتی و جناب مولانا مولوی محمد عبداللطیف سورتی فضل رحمانی برادر خورد حضرت محدث سورتی کو پیشدادی درجات عالیات ہے۔ مولائے تعالیٰ حضرت محدث سورتی کو بیشمار درجات عالیات جنت المعلیٰ میں عطا فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل بخشے۔ آمین ثم آمین۔

حضرت محدث سورتی کے وصال پر ہندوستان کے تمام علماء اہل سنت نے شدید

ربیع و عرم کا اظہار کیا۔ اور مولانا عبدالاحد کو پیغام تضریت ارسال کئے۔ تمام مدارس المہنت میں ایصال نواب کے لئے قرآن خوانیاں کی گئیں۔ اور تضریتی اجلاس منعقد کئے گئے۔

تدفین

۸ جمادی الاول کو پبلی بھیت میں عجیب عالم تھا۔ وہ سیکھنے کے تمام اصناف سے ہزاروں علماء اور معتقدین پبلی بھیت پہنچ چکے تھے۔ اعلم حضرت قدس سرہ کے صاحبزادگان حجۃ الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان مرحوم اور حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خاں دامت برکاتہما العالیہ بھی علماء کی ایک جماعت کثیرہ کے ہمراہ بریلی سے پبلی بھیت پہنچ گئے تھے۔ مولانا الزاد احمد کانپوری نے لکھا ہے کہ شہر کا عجیب عالم تھا۔ خلق خدا زار و قطار روتی تھی۔ حجۃ الاسلام نے بعد نماز ظہر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہجوم کی بنا پر جنازے کو کاندھا لگانا مشکل تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان آپ کو لحد میں اتارا گیا۔

معروف نعت گو شاعر حافظ خلیل الدین حسن حافظ پبلی بھیتی نے "وہو الغفور" سے تاریخ وفات اور "روضۃ اقدس دہلی احمد" سے تاریخ مزار نکالی۔ اعلم حضرت عظیم البرکت نے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے تاریخ وفات نکالی۔

یطاف علیہم بانیۃ من نفتہ واکواب

(خدا چاندی کے پیلے اور گلاس لئے ان کو گھیرے ہوئے ہیں)

اعلم حضرت و محدث سورتی کے تعلق قلبی و خلوص باطنی کا اس سے بھی اظہار ہوتا ہے کہ یہی آیت کریمہ حضرت کی تاریخ وفات ہے۔ اگر صرف "یطاف" سے قبل "و" لگا دیں۔ یعنی لے یوں پڑھیں کہ "یطاف علیہم بانیۃ من نفتہ واکواب" تو اس سے تاریخ ۱۳۱۸ھ نکلتی ہے۔ جو اعلم حضرت کا سال وصال ہے۔

حضرت محدث سورتی کے فرزند رشید اور رسالہ تحفہ حنفیہ پٹنہ کے مدیر مولانا ضیاء الدین پبلی بھیتی نے یہ قطعہ کہا۔

منبع علم و بصیرت مصدر عرفان حق
کیا کریں کچھ بھی نہیں بس میں ہمارے ہائے
دعوت حضرت محدث سورتی پر یہ کہا
بے بدل فاضل اٹھا سر سے ہمارے ہائے

مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی نبیرہ حضرت محدث سورتی نے سرور عالی ماکاں محدث سورتی اور محترم محدث سورتی سے سن عیسوی کے مطابق ۱۹۱۶ء تاریخی مادہ نکالا۔ راقم الحروف (خواجہ رضی حیدر) نے آہ خادم احادیث دہلی احمد سے ۱۹۳۳ء اور آہ خادم اہل اسلام مولانا محمد دہلی احمد محدث سورتی سے ۱۹۱۶ء تاریخ وفات نکالی۔

مزار مبارک

یورپی کے شہر پبلی بھیت میں آج بھی آپ کا مزار مبارک مرجع خلافتی ہے ہر حال آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے جس میں ہندوستان کے تمام حصوں سے علماء کرام بکثرت شریک ہو کر فروغ علم حدیث کے سلسلے میں آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل عرس کے انعقاد کی ذمہ داری مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی انجام دیتے تھے۔ اور آپ کے ترک پبلی بھیت کے بعد حضرت شاہ مانا نامیا نے نہایت عقیدت و احترام سے اس سلسلہ کو جاری رکھا۔ ۱۹۷۹ء میں شاہ مانا نامیاں کے وصال کے بعد سے یہ خدمت آپ کی اہلیہ پیرانی جی انجیام دیتی ہیں محلہ منیر خان میں بیلون والی مسجد (مسجد کبیر خاں) سے متصل قبرستان میں آپ کا مزار مبارک نماز عصر سے عشاء تک زائرین کیلئے کھلا رہتا ہے۔ راقم الحروف کو ۲۳ اکتوبر ۱۹۷۹ء کو مزار شریف کی پہلی مرتبہ زیارت کا شرف حاصل ہوا اور پھر ایک ماہ پبلی بھیت میں قیام کے دوران روزانہ حاضری انصیب ہوتی رہی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین۔



یا سورتی محدث

فرض آپ کی اطاعت یا سورتی محدث ذکر آپ کا عبادت یا سورتی محدث
 تم نے جلالی سنت یا سورتی محدث تم نے مثالی بدعت یا سورتی محدث
 تم رہنمائی دین ہو مخدوم مسلمین ہو یا خادم شریعت یا سورتی محدث
 تم زاہد و مجاہد ہو یا وصی احمد تم صاحب فضیلت یا سورتی محدث
 اراحمون میں تو بالانشیں تمہیں ہو تم پر خدا کی رحمت یا سورتی محدث
 دنیائے دین حق میں ہے روشنی تمہاری تم ہو سراج ملت یا سورتی محدث
 لکھ کر نے حواشی طلب پر تمہیں نے رکھا ہے بار منت یا سورتی محدث
 آگے تھی علم دین کی کب روشنی یہ پھیلی کھوئی تمہیں نے ظلمت یا سورتی محدث

کرتا ہے تمہا ادب کے زانو تمہارے آگے درس کتاب و سنت یا سورتی محدث
 مولد کی محفلیں ہیں برپا تمہارے دم سے مولد تمہارا سورت یا سورتی محدث
 سرکار مصطفیٰ سے سردار انبیاء سے تم کو ہے خاص نسبت یا سورتی محدث
 ایمان کی توریہ ہے تم نے بہت بچا یا ایمان اہل سنت یا سورتی محدث
 بے وحدتوں کے دل میں کچھ ہوگی قدر کثرت تم اور کج وحدت یا سورتی محدث
 اکرام آپ کا ہے اکرام مصطفیٰ کا ہیں آپ شان ملت یا سورتی محدث
 تفسیر تم کو اپنی خود ہی بتا رہی ہے ہر سورت اور آیت یا سورتی محدث
 اب کون ہے محدث ایسا فقیہہ کامل ختم آپ پر فقاہت یا سورتی محدث
 ہیں رحمتیں الہی کی آیتیں ہزاروں تم بھی ہو ایک آیت یا سورتی محدث
 صورت سے ہے رخشاں نور جمال ایمان سیرت نبی کی سیرت یا سورتی محدث
 تم چل بسے تو ٹوٹا مجھ پر پہاڑ نم کا یا کوہ استقامت یا سورتی محدث
 تھی پہلی بھیت ہی کی وہ خاک بن گئی تم نے پایا خمیر طینت یا سورتی محدث
 پیر فلک جھکا ہے گویا یہ چاہتا ہے چوڑے تمہاری تربیت یا سورتی محدث
 اگر گری قدم پر دنیا تو لات ماری اللہ کے قناعت یا سورتی محدث
 تعلیم دین کی دھن تھی صوم و صلواہ کیسا تھ پائی نہ تم نے فرصت یا سورتی محدث

کرتے ہیں یاد تم کو دوتے ہیں یاد کر کے جتنے ہیں اہل سنت یا سورتی محدث

اکثر سنا ہے تم سے یوں خوش عقیدتوں نے

حافظ ہے خوش عقیدت یا سورتی محدث

نفسہ جگر ص ۲۲، حافظ پبلی بھتی مطبع حسنی بریلی ۱۳۳۵ھ

چراغِ راہِ شریعت

مفسروں میں ہیں بالا محدث سورت
معلم و معلم ہیں فیضیاب اُون سے
فلاح کُل ہے اطاعت میں انکی سرتاپا
چراغِ راہِ شریعت ہیں شمعِ بزمِ ہدی
علوم پیش نظر یوں ہیں جس طرح کف دست
چمن حدیث کی تعلیم کا ہمیشہ بہار
تمہارا سینہ احادیث کا خزینہ ہے
احد کے عبد ہو عبد الاحد کے والد ہو
مصیبتوں کو امامت تمہاری آتی ہے یاد
محدثوں میں اعلیٰ محدث سورت
ہیں فیضِ علم کے دریا محدث سورت
صلاح کُل ہیں سراپا محدث سورت
فروعِ ملت میں بیضا محدث سورت
یہ رکھتے ہیں بید بیضا محدث سورت
حدیث کے چمن آرا محدث سورت
غنا ہے فقر تمہارا محدث سورت
موحدوں میں ہو یکتا محدث سورت
جو دیکھتے ہیں مصلے محدث سورت

تمہیں تو زیر زمین جا کے مل گیا آرام

ہے دل میں انجمن خاص گرم اے حافظ

ہیں دل کے انجمن آرا محدث سورت

دلذت درد، حافظ پبلی بھتی ص ۳۲، مطبع حسنی بریلی ۱۳۳۸ھ

یادگارِ محدث

ہے یہ فاتحہ یادگارِ محدث
یہ معمول ہر سال کے فاتحہ کا
چلی آرہی ہے لپٹ خوشبوؤں کی
محدث کے ہمسائے سب میں مزے میں
ہوں مصرصر کے جھونکے کہ باد خزاں کے
ملا ہے شرف بھی او سے منزلت بھی
خدا رکھے عبد الاحد کو سلامت
تلمذ پر اُدن کے ہیں شاگرد نازاں
شکم سیر جو علم سے پھر رہے ہیں
تجیت نیاز مزارِ محدث
بظاہر ہے اک یادگارِ محدث
یہ مرقبہ ہے دارالقرارِ محدث
کہ رحمت ہے قرب و جوارِ محدث
ہے محفوظ سب سے بہارِ محدث
جو ہے شہرِ سورت دیارِ محدث
یہی ایک ہے یادگارِ محدث
احادیث سے افتخارِ محدث
یہی تھے کبھی زلہ خوارِ محدث

مسلمان ہے کون جو سراؤٹھائے
 سبھی کے ہیں سرزیر بارِ محدث
 ہیں فرعی مسائل کی اصلوں کے ماہر
 ہے شرعی شعار و قارِ محدث
 وہ حق پر لڑے اور الحق یصلو
 رباحی مددگار یارِ محدث
 کیا اہل باطل کو مجسرح ایسا
 ہیں سب نیم کشتہ شکارِ محدث
 خدا جانتا ہے گذر جس طرح کی
 خدا خود رہا پردہ دارِ محدث
 یہ ہے استقامت کہ فوق الکرامتہ
 زہے شانِ عز و وقارِ محدث

کہاں جائے خدمت سے ناچیزِ حافظ
 پرانا ہے خدمت گزارِ محدث

(لذت دردم ۲۳، حافظ بی بی بختی مطبع حسنی بریلی ۱۳۳۸ھ)

یادِ محدث

آجالتے ہیں جب یادِ کرم ہائے محدث
 دل سے یہ نکلتی ہے صدائے محدث
 دلدادہ نبی کے وہ میں دلدادہ ہوں انکا
 شیدا وہ حدیثوں کے میں شیدائے محدث
 دلِ دالوں سے پوچھے کوئی دیندار لے پوچھے
 کیا جانے کوئی رتبہ والائے محدث
 کہتے ہیں اسے پیروی سرورِ عالم !
 اک خلق مجسم ہے سراپائے محدث

اک عمرِ احادیث کی خدمت میں گزارا
 جب جا کے ملا آپ کو تمغائے محدث
 یہ خیر ہے وہ خیر جسے کہتے ہیں جاری
 جاری ہے ابھی خیر سے دریائے محدث
 فردوسِ بریں کی یہ تمنا ہوتی پوری !
 اللہ بنادے مجھے ماوئے محدث
 میں اور جدائی میں کروں صبر کا دعویٰ
 دل اور غم جو صلہ فرمائے محدث
 ہے مشورہ عقل کہ بہلائیے دل کو !
 اوس وقت کروں کیا میں جو یاد آئے محدث
 مے سے نہ غرض ہم کونہ مینجانہ سے مطلب
 ہم رند میں درد کش صہبائے محدث
 مانا ہو کہ صوفی ہو کہ قاری ہو احد ہو
 ہر فرد سراپا ہے سراپائے محدث
 آنکھوں کو عزیز اس لئے رکھتا ہوں میں حافظ

پھرتی ہے یہاں صورتِ زیبائے محدث

(مینجانہ غلدر ۵۵، حافظ بی بی بختی مطبوعہ زرطبع اہل سنت و جماعت، بریلی ۱۳۳۷ھ)

سنت کے حامی

سنوئیں لکھتا ہوں اسمائے سامی
 جو تشریف لا کر ہوئے دین کے حامی
 محدث مفسر فقہوں میں نامی !
 وصی احمد ان کا ہے اسمِ گرامی
 ہے تحدیث کی ان پہ بیشک تمامی
 شب و روز رہتے ہیں سنت کے حامی
 وہ تدریس میں فی زمانہ ہیں یکتا
 وہ انسا میں رکھتے نہیں مثل اپنا

ہے گرچہ کمال اُن کو ہر عمل و فن پر
 شہ روز کرتے ہیں دیں کی حمایت
 فیوض اُن کے جاری رہیں تا قیامت
 بڑھے عمر اُن کی رہیں وہ سلامت
 وسیلے سے تیرے نبی کے الہی!

مگر ہیں احادیث پر جان سے شیدا
 مٹاتے ہیں دنیا سے شرک و ضلالت
 رہیں وہ زملے میں باہر کرامت
 ملے حشر میں عترت و قرب و ریاست
 دُعا ہوئے مقبول اس پر گنہ کی!

مولوی وصی احمد شورتی زریں قلم

۱۹۱۶ء

عطلے حق کے ایس مولوی وصی احمد
 غنا و فقر کے پیکر مشیل آئینہ
 دیارِ صبر و توکل کے شہر یار یکتا
 سجا لیا تھا احادیث کا چمن دل میں
 مری نظر میں ہے وہ مکتب حدیثِ رسول

ضیلے دین کے مہیں مولوی وصی احمد
 سلوکِ خلق میں مولوی وصی احمد
 عملِ محسنِ یقین مولوی وصی احمد
 تھے فرد عالم دیں مولوی وصی احمد
 جہاں تھے صدر نشین مولوی وصی احمد

حقیر مہر کا دل یادگار سے تاباں

فروع کو کب دیں مولوی وصی احمد

۱۳۳۳ء

ماتہ دانش و ذکر زبیرہ محمد شیں
 خاصہ بندگان حق نازش طلعت احد
 عابدِ عسرو فخر دین فرد بسالِ مصطفیٰ
 مجبور دین حق و نبی مولوی وصی احمد

۱۳۳۳ء

عزیزی رضی میاں سلمۃ الرحمن — تقریباً سال بھر سے میری علالت و نقاہت سے
 کچھ واقفیت آپ کو بھی ہے۔ جیسے تیسے کے ہمتاری فرمائش اور میری آنکھوں کے آخری
 نظارہ جمال کی یاد کا عالم ربط و بے ربط الفاظ و ترکیب میں پیش کر رہا ہوں۔ خیر طلب
 مہر پبلی ہستی — ۲۷ اکتوبر ۱۹۴۸ء کو لکھی

۱۳۳۳ء مولانا ضیاء الدین پبلی بھیتی نے یہ منقبت ۱۳۳۳ء میں حضرت محدث شورتی کی
 جلسہ اہلسنت پوکھیرا ضلع مظفر پور بہار میں آمد کے موقع پر کہی تھی۔ جو تذکرہ کے
 عنوان تاریخی کے ساتھ تحفہ حنفیہ پٹنہ میں شائع ہوئی۔

چراغِ مسلم

حضرت سیدہ پہلی بھیتی

شریعت کے علمبردار تھے حضرت وصی احمد
 نہایت متقی پیر سبزیگار و باصفا صوفی
 ہمیشہ طالبان علم دین کی دنواری کو
 پسندیدہ عمل تھا درس و تدریس حدیث اُن کا
 اندھیرے چلنے کے انکی ضیاء سے منہ چھپاتے تھے
 جو بنش میں بہت اعلیٰ حدوں تک دیکھ سکتے تھے
 شریعت پر چلنے تھا قول میں اُنکے صداقت تھی
 نواز تھا انہیں اللہ نے عمدہ خصال سے
 فخر و مستی سے بیزار تھے حضرت وصی احمد
 اسی دنیا کے وہ دنیا دار تھے حضرت وصی احمد
 بعد لطف و کرم تیار تھے حضرت وصی احمد
 نبی کے عشق میں ہر شے تھے حضرت وصی احمد
 وہ روشن علم کا مینار تھے حضرت وصی احمد
 تو دانش میں بلند افکار تھے حضرت وصی احمد
 وہ حق و تبار حق گفتار تھے حضرت وصی احمد
 بڑے خوش سیرت و کردار تھے حضرت وصی احمد

سلام اُن پر چراغِ مسلم ہے سال وصال اُن کا

سید اک شمع شب بیدار تھے حضرت وصی احمد

حضرت سیدہ پہلی بھیتی نے حضرت محدث سورتی کا زمانہ نہیں دیکھا لیکن درود یواری پہلی بھیت
 میں جذب قبیل و قال کی صدائیں انہوں نے اپنے احساس سے ضرور سنی ہیں۔ یہ سلام اسی عقیدت
 کا پر تو ہے جو ۲۰ اکتوبر ۱۹۶۸ء کو پیش کیا گیا۔ (مؤلف)

عزسِ سورتی

پے عزسِ سورتی میلہ لگا ہے
 دہن تربت بنائی جلد ہی ہے
 ہیں عالم ہند کے سارے براقی
 انہیں حاصل ہے فیض فضل رحمان
 ملک جاوید کش ہیں آستان پر
 بچھاؤ پیاس دل کی بادہ نوشو
 مرہیں لا دوا ہوتا ہے اچھا
 ہے شور زائران اہل الفت
 دکھا دو چہرہ النور خدارا
 حدیث پاک کا دوزر س آ کر
 فلک کل جن کے نالوں سے تھا لڑا
 خدارا بیخ دو عبد الاحد کو
 کریں ہم کس لئے غیروں کا شکوہ
 دے عمر جاوداں فضل الصمد کو
 خدادندایہ چشتی کی دعا ہے

(سازگار نور علی۔ حافظ افتخار دہلی خان پہلی بھیتی مطبوعہ کتب خانہ اہل سنت پہلی بھیتی۔ ۱۳۹۲ھ)



اولاد و امجاد

شجرہ نسب ہر دور میں فضیلت و حرمت کا باعث رہا ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے لے کر بزرگان دین اور علماء متین تک فضیلت و حرمت کا یہ سلسلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خیال و فکر کی سچائیاں لہر میں دواماً شامل ہوتی ہیں۔ یہ سچائیاں انسان کو اپنے ہم عصروں میں ممتاز بناتی اور شخصیت میں چارچاند لگاتی ہیں۔ صاحبان بصیرت کا یہ دلیہ رہا ہے کہ وہ انسان کی شناخت اُس کے نسبی تعلق سے کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک انسان

نظا ہر اپنے اعمال و افعال کی کجی سے دوسروں کی کبیدگی کا سبب بن جاتا ہے لیکن اگر یہ کج روی اکتسابی ہو تو مردم شناس نگاہیں جو ہر پوشیدہ تلاش کر کے اُسے کامل انسان بنا دیتی ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر خیال مسلم ہو گیا ہے۔ کہ اچھے لوگوں کی اولاد بھی اچھے خصوصاً نصح و اطوار کی حامل ہوتی ہے۔ بحر، شاہد ہے کہ دنیاوی جاہ و حشم اور عزت و شہرت کو جن افراد نے اپنا مطیع نظر بنایا ان کی اولاد بھی اسی خبت کا شکار رہی جس کا نتیجہ بعض اوقات پورے پورے خاندان کی تباہی اور بربادی کی صورت میں سامنے آیا۔ برخلاف اس کے خورشیدی باری تعالیٰ کے حصول میں منہک اور حبیب رسول میں مستغرق افراد نہ صرف خود انسانیت کے لئے چراغِ راہ ثابت ہوئے بلکہ ان کی اولاد بھی خلق خدا کے لئے رہنما بنی رہی۔ ان کی گفتگو سے کام و دہن کوتاہی اور دل کو پاکیزگی میسر آتی ہے اور دیکھیں جلیے برصغیر ہی میں حضرت عبد الوہاب ثانی سے لے کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان تک سینکڑوں بزرگان دین اہل علم و کرام کی اولادوں نے اپنے اجداد کے مسلک حق کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا اور آج بھی فضیلت و حرمت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت محدث سورتی کے ایک صاحبزادے اور پانچ صاحبزادیاں تھیں۔ اس لئے آپ کی نسل بہت محدود رہی اور آج بھی بہت محدود ہے لیکن شش لائے بساط کے مطابق حضرت محدث سورتی کے شش کوڑے بڑھانے کی حق التعداد کو شش کی ہے۔

سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد محدث سیلی بھیتی

مولانا عبد الاحد محدث سیلی بھیتی ۱۸۸۳ء بمطابق ۱۲۹۸ھ میں سیلی بھیت میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے چچا مولوی عبد اللطیف سورتی سے حاصل کی اور بعد میں اپنے والد سے تمام علوم و فنون کی تکمیل کی۔ اور تیرہ برس کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان کی خدمت میں پہنچے۔ جہاں آپ نے باقاعدہ اعلیٰ حضرت سے دورہ حدیث کیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے آپ کی اپنے دست مبارک سے دستار بندی کی۔ علوم دینیہ سے فراغت پانے کے بعد

آپ لکھنؤ پہنچے اور اپنے والد کے استاد حکیم عبدالغفر سے تکمیل الطب کا راجح میں طب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کو اعلیٰ حضرت سے سلسلہ قادریہ میں اجازت و خلافت بھی حاصل تھی۔ جبکہ اپنے والد ماجد مولانا وصی احمد محدث سورتی کی طرف سے آپ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے سلسلہ میں بھی بیعت کرنے کے مجاز تھے۔ تعلیم سے فراغت پانے کے بعد آپ نے کچھ عرصہ لکھنؤ پور میں طبابت کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر اپنے والد کے حکم پر مدرسہ حنفیہ پٹنہ میں مدرس ہو کر چلے گئے۔ جہاں کئی سال آپ کا چشمہ علم فیض رسانی جاری رہا۔ مولانا عبدالاحد کو حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے بے پناہ عقیدت تھی چنانچہ آپ اپنے والد کی ہمراہی میں اکثر گنج مراد آباد تشریف لے جاتے۔ حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے وصال کے بعد بھی آپ شاہ صاحب کے فرزند مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی اور خلیفہ مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی کی خدمت میں برابر حاضری دیتے رہتے تھے۔ ۱۳۲۳ھ میں آپ کی شادی حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی نواسی اور مولانا عبدالکریم کی بیٹی صاحبزادی محترمہ حمیدہ خاتون سے ہوئی جو علم و فضل میں یکتا اور صاحب سلسلہ خاتون تھیں۔ علامہ محمود احمد قادری نے مولانا عبدالاحد کی شادی کا مفصل احوال تحریر کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی اس شادی میں شرکت کیلئے بار آتیوں کے ہمراہ گنج مراد آباد تشریف لے گئے تھے۔ جب بات رخصت ہو کر اُس زمانے کے ریلوے اسٹیشن مادھو گنج جانے کے لئے روانہ ہوئی۔ تو اسٹیشن پہنچنے سے قبل مغرب کا وقت ہو گیا۔ جنہاں کارا سٹہ تھا اور قریب کا گاؤں ڈاکوؤں کی بستی مشہور تھی۔ اسی گاؤں کے ایک آدمی نے آکر اطلاع دی کہ ڈاکو آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اور اس کا محبوب ہماری مدد فرمائے گا۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کا گروہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اعلیٰ حضرت پیش قدمی کر کے اُن کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ ہم تمہارے علاقے کے بزرگ حضرت شاہ فضل رحمان کی نواسی بیاہ کر لئے جا رہے ہیں۔ کیا ایسی حالت میں تم

ہم کو لوٹنا مناسب سمجھتے ہو۔ آپ کے اس طرزِ تحاطب کا ڈاکوؤں پر گہرا اثر ہوا۔ اور وہ نہ صرف اپنے ارادے سے باز آگئے بلکہ تاب ہوئے اور داخل سلسلہ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ملہ مولانا عبدالاحد کو فنِ خطابت میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ آواز نہایت پاٹ دار اور ایسی تھی کہ گھنٹوں ماحول میں اُس کی گونج برقرار رہتی تھی۔ سیرۃ النبی اور فضائل صحابہ کے بیان پر خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ تقریر کے دوران اکثر وقت طاری ہو جاتی اور وجد کے عالم میں درود و سلام پڑھنے لگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نومبری ہی میں آپ کے مواعظ حسنہ کی پورے برصغیر میں شہرت ہوئی آپ کے واعظ کی اثر پذیری سے متاثر ہو کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بریلی میں ایک خصوصی تقریب کے دوران آپ کو سلطان الواعظین کا خطاب عطا فرمایا۔ اور اپنی طویل نظم الاستمداد میں ایک شعر رقم فرمایا کہ

اک اک وعظ عبدالاحد پر کیسے نتھنے پھلاتے یہ ہیں ملہ

مولانا غلام مہر علی گولڑوی نے مولانا وصی احمد محدث سورتی کا ذکر خیر کرتے ہوئے ایک مقام پر مولانا عبدالاحد کے بارے میں لکھا ہے کہ داخلہ و اشہوت مواعظہ فی اکناف الہند (آپ کے مواعظ کی شہرت ہندوستان کے اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی تھی۔ ملہ

سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد کے رگ و پلے میں جذبہ سحریت موجزن تھا۔ آپ آزادی وطن کے ولدادہ اور انگریزوں کی فریب کا رازنہ چالوں کے شدید مخالف تھے۔ اور برصغیر میں پروان چڑھنے والی تحریکوں میں حتی المقدور حصہ لیتے تھے۔ تدوۃ العلماء میں غیر مقلدین کی شرکت کے خلاف اپنے والد ماجد کی طرح آپ نے بھی مؤثر جدوجہد کی اور ندوہ کے مفاسد کو عوام پر واضح کرنے کے لئے مختلف شہروں کے دورے کئے۔ اور مسلمانوں کو اس ادارہ کی تائید و تعاون سے باز رکھا۔ ۲۷ جولائی ۱۹۱۳ء کو کانپور کے مچھلی بازار میں ایک سٹریک کی تعمیر کے نتیجے میں اس بازار کی ایک مسجد کا کچھ حصہ شہید کر دیا گیا۔ حکومت کی اس حرکت سے پورے

ملہ - تذکرہ علماء المسند ۱۶۹
ملہ - الاستمداد ص ۱۹۹ مولانا احمد رضا خان بریلوی مطبوعہ مظہر فیض رضا لاکھنؤ پور ۱۳۹۶ھ
ملہ ایوانیت المہر ص ۸۹ مولانا غلام مہر علی مطبوعہ مکتبہ مہرہ چشتیان ۱۹۶۵ھ

ہندوستان میں اشتعال پھیل گیا اور اضطراب و بے چینی نے اس قدر زور پکڑا کہ سرگت کو مسلمانوں نے مسجد میں جمع ہو کر مسجد کی از سر نو تعمیر شروع کر دی۔ اس کارروائی کو روکنے کے لئے مقامی انتظامیہ نے پولیس طلب کی جس نے مجمع پر گولی چلا دی۔ تقریباً ۱۵ منٹ تک فائرنگ جاری رہی۔ اور معاصر اخبارات کی اطلاع کے مطابق تقریباً چھ سو نو نوڈ کار توں استعمال کئے گئے۔ اس فائرنگ سے ۱۶ مسلمان شہید اور ۳۲ زخمی ہوئے۔ اس واقعے کی پورے ہندوستان میں شدید مذمت کی گئی۔ مولانا عبدالاحد علی بھیتی بھی اس موقع پر کانپور پہنچ گئے اور اپنے خالہ زاد بھائی مولانا نثار احمد کانپوری کے ہمراہ حکومت کے خلاف احتجاج میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہوئے اور تقریباً چھ ماہ قید و بند کی صعوبت برداشت کی۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے مسجد کے انہدام کے سلسلے میں ایک فتویٰ اہانتہ المتوازی کے نام سے دیا جس میں آپ نے وقف بالعرض یا بلا عرض قابل انتقال نہیں کے ثبوت میں قرآن حکیم اور احادیث سے دلائل قاہرہ کے انبار لگادیتے۔

موجوداتی ۱۹۲۰ء کو جب کانگریس اور خلافت کمیٹی نے مشترکہ طور پر انگریزوں کے خلاف ترک موالات کی تحریک کا آغاز کیا تو دو قومی نظریہ کے حامی علماء و دین اس بدعت کو روکنے کے لئے میدان عمل میں کود پڑے۔ انہوں نے ہندوؤں سے اتحاد کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں کے نزدیک کافر ہیں۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک دشمن کو سینے سے لگایا جائے اور دوسرے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں میں بیک وقت تحریک موالات اور تحریک خلافت کے لئے ایک پلیٹ فارم استعمال کرنے سے ہندو مسلم اتحاد کی فضا پیدا ہوئی۔ جو یقیناً نہ صرف غیر شرعی صورتحال تھی بلکہ اس سے آزادی وطن کی جدوجہد میں بھی شدید رخنہ پڑنے کا اندیشہ تھا چنانچہ مسلمانوں کو ترک موالات کی شرعی حیثیت

۱۔ اعلیٰ حضرت کی سیاسی بصیرت ص ۱۳۱۔ ۲۔ سید نور محمد قادری مطبوعہ مکتبہ رضویہ گجرات ۱۹۷۵ء

سے آگاہ کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لاہور اور لاہور سے یکے بعد دیگرے دو استفسارات کا جواب "الھجۃ المومنین فی آیتہ الممتحنہ" کے نام سے دیا جو ۱۹۲۰ء میں مطبع حسن بریلی سے شائع ہوا۔ اس فتویٰ میں اعلیٰ حضرت نے قرآن حکیم، مستند تفاسیر، احادیث نبوی اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ترک موالات کی تشریح کی اور یہ واضح کر دیا کہ کوئی بھی غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی مجوسی ہو یا یہودی اسلام اور مسلمین کے مقابلے میں الکفر ملتہ واحداۃ کے مصداق ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اس فتویٰ نے ہندوستان کی ایک رنجی سیاست کے زاویے بدل دیئے اور گاندھی جی کی مسلمان دشمنی پر مبنی سیاست کی بنیادیں ہل گئیں۔ اعلیٰ حضرت کے موقف کو آگے بڑھانے اور اسے مسلمانوں سے روشناس کرانے کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور علماء برہمنیت نے بڑا موثر کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالاحد نے جو ہندوستان کی سیاست کو اسلامی شریعت کا لباس فاخرہ عطا کرنے کی فکر میں منہمک تھے۔ تحریک ترک موالات کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے اور پورے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلمانوں کو ترک موالات کی شرعی حیثیت اور اس کے دور رس نقصانات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنی تقاریر میں ہندو مسلم اتحاد کی نفی کی اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس سلسلے میں قرآنی احکامات کی پابندی کریں۔ خصوصاً روہیلکھنڈ میں اس تحریک کے خلاف آپ کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اس ضمن میں اعلیٰ حضرت کے ایک معتمد خاص مولوی شفقت حسین وکیل بھی بریلی اہمیت رکھتے ہیں۔ جنہوں نے مولانا عبدالاحد کے ہمراہ اس سلسلے میں مختلف شہروں کے دورے کئے اور مولانا محمد علی جوہر کی ترک موالات کے ضمن میں تاعاقبت اندیشی کا پروردہ چاک کیا۔ مولانا حکیم قاری احمد علی بھیٹی نے لکھا ہے کہ ۱۹۲۰ء کے اواخر میں تحریک خلافت کا ایک وفد ہندو مسلم اتحاد کی تبلیغ کیلئے جب روہیلکھنڈ پہنچا تو اس نے پہلی بصیرت میں مولانا عبدالاحد سے بھی ملاقات کی اس وفد کی قیادت امرتسر کے ڈاکٹر سیف الدین کھلو کر رہے تھے۔ اور اس میں مولانا نثار احمد کانپوری بھی شامل تھے۔ مولانا عبدالاحد نے وفد سے تقریباً چار گھنٹہ مذاکرات کئے اور آخر وقت تک ہندو مسلم اتحاد کی مخالفت کرتے رہے۔

۱۔ تاریخ ہندوستان ص ۳۶۷۔ ۲۔ مولانا حکیم قاری احمد علی بھیٹی۔ مطبوعہ کراچی ۱۹۷۶ء۔

مولانا عبدالاحد کا یہ خیال اتنا مستحکم تھا کہ رہنمایانِ خلافت کو تحریک ترک موالات سے دست کش ہونا پڑا۔ اور انہوں نے برادرانِ وطن سے ہٹ کر مسلمانوں کی علیحدہ تنظیم قائم کرنے پر توجہ دی اور یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ کفر و اسلام دو متضاد نظریے ہیں۔ اور ان کے متبع کسی مسد نہیں ہو سکتے۔ تحریک خلافت کے رہنما مولانا نثار احمد کانپوری آپ کے حقیقی مخالف اور مخالف تھے۔ لیکن جب انہوں نے ترک موالات میں حصہ لیا تو آپ نے ان کی ہر جگہ پر سخت گرفت کی۔ مولانا حکیم قاری احمد نے لکھا ہے کہ کانپور کے ایک جلسے میں مولانا نثار احمد کانپوری ہندو مسلم اتحاد کے عنوان پر تقریر کر کے بیٹھے تھے کہ سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد نے اسی سٹیج سے ہندو مسلم اتحاد کے خلاف دھواں دار تقریر شروع کر دی۔ مولانا نثار احمد خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ آخر مجمع میں سے ایک شخص نے آواز اٹھائی تو مولانا کانپوری نے اسے خاموش کر دیا۔ مولانا عبدالاحد کو تفسیر قرآن از قرآن میں غیر معمولی ملکہ حاصل تھا۔ مولانا نثار احمد کانپوری، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولوی شفقت حسین وکیل، خان بہادر احمد حسین وکیل، مولانا قطب الدین بھرم چلوی، مولانا عبدالقدیر بدایونی، مولانا آزاد سبھانی، مولانا حامد رضا خان، مولانا عبدالعلیم صدیقی، مولانا جمیل احمد بدایونی، مولانا عبدالراجہ بدایونی، مولوی فضل الحق وزیر اعلیٰ جلال اور نواب سرسید اللہ خان آف ڈھاکہ سے آپ کے خصوصی مراسم تھے۔ اور اکثر مراحل پر باوجود نظریاتی اختلافات کے کبھی باہمی محبت اور تعلق میں کوئی فرق نہیں آیا۔

۱۳۳۳ھ میں مولانا عبدالاحد نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے معیت میں فریضہ حج ادا کیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ علماء حرمین شریفین سے اعلیٰ حضرت کی ملاقات کے دوران آپ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت مولانا شیخ صالح کمال سابق قاضی مکہ و مفتی حنفیہ کی خدمت میں گیا تو حضرت مولانا مولوی وصی احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے عزیز مولوی عبدالاحد صاحب بھی ہمراہ تھے۔ اس سفر میں مولانا

نہ۔ تاریخ ہندوستان ص ۳۵۳
نہ۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت ص ۱۳۱ حصہ دوم مطبوعہ کامیاب دار التبلیغ لاہور۔

عبدالاحد نے حضرت کبیر العلماء مولانا شیخ احمد ابو الخیر مراد کو چند احادیث سنا کر سند حدیث حاصل کی ۱۳۳۲ھ میں حضرت مولانا وصی احمد محدث سورتی کے وصال کے بعد آپ مدرسۃ الحدیث بنی بھیت میں شیخ الحدیث کے فرائض انجام دینے لگے اور یہ سلسلہ آخر دم تک جاری رہا۔

۱۹۳۵ء میں شاہ ابن سعور نے بقول ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی برطانیہ کی شہرہ پر حجاز پر حملہ کر دیا کیونکہ شریف حسین وائٹ ہال میں اپنی مقبولیت کو چلنے کے لئے چنانچہ مکہ معظمہ اور اورطائف شریف پر کئیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس تبدیلی سے برصغیر کی سیاسی فضا بھی متاثر ہوئی ڈاکٹر قریشی نے لکھا ہے کہ البتہ اہل انڈیا سے قربت رکھنے والے طبقوں نے ابن سعور کی حمایت کی جبکہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے شریف حسین کی تائید کا اعلان کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے بھی ابن سعور کی حمایت صرف اس امید پر کی کہ کئیوں نے حجاز پر بادشاہت قائم نہیں کریں گے۔ لیکن ان کی یہ امیدیں اس وقت خاک میں مل گئیں جب شاہ ابن سعور نے حجاز پر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ مولانا جوہر کے پیروں میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، آیام اسیری کے ساتھی مولانا نثار احمد کانپوری اور قدیم رفیق کار مولانا عبدالراجہ بدایونی نے حجاز پر کئیوں کے قبضہ کی زبردستی کی بلکہ ایک تنظیم انجمن خدام الحرمین قائم کی تاکہ حجاز میں کئیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کو روکا جاسکے۔ اس تنظیم کے اراکین انڈیا میں مولانا حسرت موہانی اور شیر احمد قدوائی بھی شامل تھے۔

سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد نے بھی کئیوں کے ہاتھوں حجاز میں مقامات مقدسہ کی بے حرمتی پر سخت احتجاج کیا اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ انگریزوں کے حمایت یافتہ شاہ عبدالعزیز ابن سعور کو مسلمانوں کی دل آزاری سے باز رکھے۔ اس ضمن میں مولانا عبدالاحد نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں انجمن خدام الحرمین کے جلسوں سے خطاب کیا اور مولانا محمد علی جوہر کو مشورہ دیا کہ وہ کئیوں کی حمایت ترک کر کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کو روکنے کے لئے انجمن خدام الحرمین

نہ۔ علماء انڈیا ص ۲۹۔ ڈاکٹر قریشی مطبوعہ معارف لہور۔ کراچی۔
نہ۔ علماء انڈیا ص ۲۹۔

کے پلیٹ فارم سے کام کریں۔ نجدیوں کی کارروائیوں کی مذمت میں مولانا عبدالاحد کی خدمات کا احاطہ معاصر اخبارات کی عدم دستیابی کی بنا پر اگرچہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن اس عہد کے بیشتر اردو اخبارات میں آپ کی تقاریر کے اقتباسات ملتے ہیں۔ امرستہ کے پندرہ روزہ اخبار الفقیہ نے بریلی اور پٹیالہ میں ۱۵ اور ۱۶ جون کو نجدیوں کی مذمت میں ہونے والے دو جلسوں کی کارروائی بڑی تفصیل سے شائع کی ہے۔ بریلی کے اجلاس کی صدارت اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے اور جانشین مولانا حامد رضا خان نے کی تھی۔ جبکہ پٹیالہ میں جلیقہ کے جلسہ کی صدارت حکیم سعید الرحمن خان نے کی تھی۔ بریلی کا جلسہ مسجد نبی جی میں ہوا تھا اور پٹیالہ میں جلیقہ کا جلسہ حضرت شاہ جی کشمیر میاں پٹیالہ جلیقہ کے عرس کے موقع پر منزار کے احاطہ میں منعقد ہوا تھا۔ ان اجلاسوں سے سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد، حکیم مختار احمد صدیقی میرٹھی، قاضی احسان الحق بریلوی اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے خطاب کیا۔ ان اجلاسوں میں طے کیا گیا تھا کہ علماء اہلسنت پر مشتمل ایک وفد سموری عرب روانہ کیا جائے جو شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کے اُسے مقامات مقدسہ کو سہارا کرنے کے سلسلے میں مسلمانان ہند کے جذبات سے آگاہ کرے۔ ایک قرارداد کے ذریعہ حکومت ہند سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ مسلمانان ہند کے جذبات سے حکومت برطانیہ اور شاہ عبدالعزیز کو آگاہ کرے۔ سہارا شدہ قرارداد کی از سر نو تعمیر کا انتظام کرانے ملے۔

الفقیہ کی ایک اور شاعت کے مطابق جون ۱۹۳۸ء کو دہلی اور کراچی اور علی ایشیہ ضلع مارہرہ میں حضرت سید شاہ محمد صادق قدس سرف کے عرس کی تقریب سے سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد قادری پٹیالہ جلیقہ نے خطاب کیا ہے جو فضائل حضور سید عالم بیان فرمے اور آیت کریمہ نما انما ابشیرناکم کی تفسیر و تفسیر اس دلنشین طرز پر فرمائی جس نے حضور قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بے مثل اور بے مثالی اور تمام مخلوق پر برتری اعلیٰ ایمان پر خوب واضح کر کے نجدیوں کی ضلالت و باطلیل و باہمیہ کا تار و پود بکھیر دیا۔ اس تقریب سے مولانا حسرت علی خان لکھنوی، مولانا غلام رسول قادری بھادپوری، حافظ محمد جان ناصری بریلوی وغیرہم نے بھی خطاب کیا۔

سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد کی زندگی ایک جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ مواعظ کی کثرت اور بے سہارے مذہبی و سیاسی تحریکوں میں شرکت کی بنا پر عمر کا ایک طویل عرصہ آپ نے سفر میں گزارا اور ہر سفر آپ کے لئے وسیلہ ظفر ثابت ہوا۔ ہندوستان کے مذہبی و سیاسی حلقوں میں آپ کی مقبولیت عام تھی۔ اور آپ کی آواز کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی خصوصاً مذہبی مباحث پر آپ کی تقاریر کو عوام بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ اور جب آپ دغظ و تقریر کے لئے کسی دوسرے شہر جاتے تو ہزاروں افراد قرب و حجاز کی بسنتوں سے آپ کی تقریر سننے کے لئے جلسہ گاہ میں پہنچتے تھے۔ آپ ہر سال ۲۲ ربیع الاول کو حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے عرس میں شرکت کے لئے پٹیالہ کے عقیدت مندوں کے ایک قافلے کے ہمراہ گنج مراد آباد تشریف لے جاتے اور اپنے والد کے شیخ کی سبقت و خدمات پر گفتگوں تقریر کرتے بغیر مقلدوں اور علماء بریلویہ کے عقائد کی تردید میں ایسی دلیلیں لاتے کہ پورا مجمع بیک آواز جزاک اللہ پکارا اٹھتا۔ ایک مرتبہ آپ ایک جلسہ میں شرکت کے لئے مراد آباد تشریف لے گئے۔ اُس زمانے میں ہندوستان کے علماء میں مولانا طویل تقاریر کا رواج عام تھا۔ خصوصاً دہلی ہند کے مولوی الزور شاہ کشمیری اور عطار اللہ شاہ بگاڑی تو اکثر اذان فجر تک تقاریر کیا کرتے تھے۔ مراد آباد کے عوام کو سلطان الواعظین سے بھی یہ توقع تھی کہ آپ رات گئے تک تقریر کریں گے لیکن آپ نے حسب عادت قرآن حکیم کے حوالے سے ابتدائی چند جملوں میں ہی عوام کے دلوں کو گرمادیا۔ ہر سمت سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت گونجنے لگا اور آپ نے ایک گھنٹے کے بعد تقریر ختم کر دی۔ عوام بے چین ہو گئے۔ اور آپ سے تقریر جاری رکھنے کی درخواست کی چنانچہ آپ دوبارہ کھڑے ہوئے۔ اور پندرہ بیس منٹ بولنے کے بعد فرمایا مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کو پوری پوری رات تقریر سننے کی عادت ہے اور آج بھی آپ یہاں اسی ارادہ سے تشریف لائے ہیں۔ لیکن میں اذان فجر تک کس طرح تقریر کروں کہ میں آپ میں سے اکثر حضرات کے ہجرت و قضا ہونے کا گناہ اپنی گردن پر نہیں لے سکتا۔

مولانا عبدالاحد کو آخر عمر میں شدید بخاری ہوا جس پر آپ کی معر فیستوں میں

بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی۔ اور آپ کا بیشتر وقت مدرسۃ الحدیث میں گزرنے لگا تصنیف و تالیف کی جانب آپ کی طبیعت مائل نہ تھی جس کی بنا پر آپ کی تحریریں صرف فتویٰ اور تعارضات کی حد تک محدود رہیں: اسوۃ رسول کے عنوان سے آپ نے ایک طویل مضمون قلمبند کیا جس کو پہلی مرتبہ سالکی صورت میں مکتبہ اہلسنت پیلی بھیت نے ۱۹۲۸ء میں اور ۱۹۶۶ء میں تحریک اسیلے سنت کراچی نے شائع کیا۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالاحد کے مختلف موضوعات پر مختلف رسائل مکتبہ اہلسنت سے وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے۔ لیکن باوجود تلاش بسیار یہ رسالے پاکستان کے کسی کتب خانے سے دستیاب نہیں ہو سکے۔

مولانا حکیم قاری احمد کی قلمی یادداشتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان الراءعین ۱۹۳۱ء کے اواخر میں شدید بیمار ہوئے۔ ابتداً پیلی بھیت میں حکیم عبدالجبار خان کے مشورہ سے خود ہی اپنا علاج کئے۔ لیکن مرض روز بروز شدت اختیار کرنا گیا۔ چنانچہ اپنے صاحبزادے مولانا حکیم قاری احمد کے ہمراہ علاج کے لئے لکھنؤ تشریف لے گئے اور امین آباد میں ایک مکان کرایہ پر لے کر رہائش اختیار کی۔ مولوی عبدالحی صاحب نرہٹہ الخڑا طر کے فرزند ڈاکٹر حکیم عبدالعلی نے علاج شروع کیا۔ تقریباً ایک سال علاج جاری رہا۔ لیکن نفاہت اور کمزوری دور نہ ہوئی اور آپ نے ۱۳ شعبان ۱۳۵۲ھ بمطابق یکم دسمبر ۱۹۳۳ء بروز جمعہ عصر اور مغرب کے درمیان داعی اجل کو لبیک کہا۔ مولانا حکیم قاری احمد کا بیان ہے کہ عصر کے وقت سلطان الراءعین نے فرمایا نیچے کا جسم پاک کر دو۔ اور کپڑے تبدیل کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر اشارہ سے نماز عصر ادا کی۔ پھر فرمایا کیا دن ہے۔ میں نے عرض کیا جمعہ کا دن ہے۔ فرماتے لگے بہت مبارک ساعت اور دن ہے۔ اس کے بعد سیدھی کروٹ لیٹ کر سیدھا ہاتھ کینڈی کے نیچے رکھا اور فرمایا۔ پیرو مشد اعلم حضرت کا دوصال بھی جمعہ کے دن ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموش لیٹے میری طرف دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے بڑی زحمت دی اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر اجر دے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ پھر زیر لب کچھ پڑھا اور جب آواز تیز ہوئی تو آپ کی

زبان مبارک پر محمد الرسول اللہ تھا۔ آپ کی انتقال کی خبر لوہر سے ہندوستان میں پھیل گئی۔ کانپور سے اعزاز کی آمد کے بعد آپ کی میت حسب وصیت گنج مراد آباد لیجائی گئی جہاں دوسرے دن بعد نماز عصر اپنے خسر مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی کے سپہلو میں سپرد قبر کئے گئے حافظ محمد احسن خلیف مولانا احمد حسن نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں مولانا عبدالخلیم خلیف مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی اور مولانا رحمت اللہ نبیرہ شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کے علاوہ ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بریلی کانپور، دہلی، مراد آباد، پیلی بھیت، اور بدایوں کی مساجد میں ایصالِ ثواب کے لئے قرآن خوانی ہوئی امرتسر کے اخبار الفقیہ کے مطابق بریلی کی مسجد بی بی جی میں ۱۵ شعبان المعظم ۱۳۵۲ھ کو ایک تقریبی جلسہ ہوا جس میں مختلف بلاد و اصناف کے علماء نے خطاب کیا اور حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی نے مغفرت کے لئے دعا فرمائی۔

سلطان الراءعین مولانا عبدالاحد قادری پیلی بھیت نے اپنی یادگار تین فرزند چھوڑے جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں: مولانا شاہ فضل الصمد مانا میاں۔ مولانا فضل احمد صوفی، اور مولانا حکیم قاری احمد پیلی بھیت۔

حنیف النصار

مخترمہ حنیف النصار حضرت محدثی سودقی کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ اپنے والد سے عربی اور فارسی کی ابتدائی کتب پڑھیں۔ گھریلو ماحول کی بنیاد پر اوائل عمری سے ہی مذہبی معاملات میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثیرہ آپ کو ازبر تھیں۔ خواتین کی مخالف میلاد جو حضرت محدث سودقی کی قیام گاہ پر منعقد ہوتی تھیں ان میں ذکر ولادت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا۔ پیلی بھیت کی بیشتر خواتین آپ سے مذہبی مسائل بھی دریافت کرنے آیا کرتی تھیں۔ بڑی نیک، صابر و شاکر اور پابند صوم و صلوات

تھیں۔ پر لیا ضلع پبلی بھیت کے ایک پٹھان مولوی منشی عبدالوحید خان ولد محمد اکبر خان خٹک سے آپ کا عقد ہوا۔ ۱۸ ربیع الاول ۱۲۶۳ھ بمطابق ۲۶ مارچ ۱۹۴۲ء کو پبلی بھیت میں داخل بحق ہوئیں۔ مزار ہیلوں والے قبرستان میں حضرت محدث سورتی کے مقبرہ کے باہر ہے مولوی منشی عبدالوحید خان قیام پاکستان کے بعد کراچی آگئے تھے۔ راقم الحروف سے بے پناہ شفقت فرماتے تھے۔ ۲۸ جولائی ۱۹۶۳ء بمطابق ۲۵ صفر ۱۳۸۲ھ میلر کینٹ میں انتقال فرمایا اور کھرپار سعور آباد کے قبرستان میں سپرد خاک کئے گئے۔ مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی نے غسل دیا۔ اور نماز جنازہ ادا کی۔ اولادوں کے نام یہ ہیں۔ محترمہ عزیز النساء، حبیب عثمان خان، وحید عثمان خان، اور رفیق عثمان خان، محترمہ عزیز النساء کی شادی مولانا عبدالحق ہزاروی سے ہوئی تھی۔ آپ بے مثال خطیب تھے۔ غیر مقلدین کا شدت سے رد فرمایا کرتے تھے۔ سیالکوٹ میں آپ کا قیام تھا۔ ۱۳۶۳ھ میں آپ کو بیضہ کی شکایت ہوئی۔ اور اسی میں اس دار فانی سے عالم جاودانی کی سمت رخصت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔

کریم النساء

محترمہ کریم النساء صاحبہ پبلی بھیت میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی فارسی اور اردو پر خصوصی دسترس ہے۔ آپ کی شادی رامپور کے مولوی مرزا محمد فاروق بیگ سے ہوئی تھی۔ مولوی مرزا محمد فاروق بیگ کے والد مولانا امجد حسین ریاست رامپور کے وزیر اعظم سر عبدالصمد خان کے مدارالہام تھے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود طبیعت میں حدودِ جہت استغناء اور خوفِ الہی موجود تھا۔ مذہبی حلقوں میں خصوصاً آپ کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت محدث سورتی سے بھی آپ کے خصوصی مراسم تھے۔ اور جب محدث صاحب رامپور تشریف لے جاتے تو آپ کے یہاں ہی قیام کرتے تھے۔ مولانا امجد حسین نے اپنے صاحبزادے مرزا محمد فاروق کو بھی مذہبی تعلیم دلوائی اور جب ابتدائی کتب درسیہ سے وہ فارغ ہوئے تو حضرت محدث سورتی کی خدمت میں پبلی بھیت بھیج دیا۔ جہاں آپ نے مدرسہ الحدیث میں دورہ

حدیث کیا اور سند حاصل کی۔ مولانا امجد حسین نے جو محدث سورتی کی شخصیت اور علمیت سے بے پناہ متاثر تھے۔ اپنے بیٹے کے لئے محدث سورتی کی بھٹی صاحبزادی کریم النساء کا رشتہ مانگا۔ جسے محدث سورتی نے قبول کر لیا۔ مولانا امجد حسین کی خواہش تھی کہ مرزا محمد فاروق کو رامپور میں علم دین کی ترویج و اشاعت پر مامور کریں۔ لیکن ریاست کے وزیر اعظم نے مولانا فاروق کو پولیس میں اعلیٰ عہدے پر یہ کہہ کر ملازمت دیدی کہ یہ بھی مخلوق کی خدمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے آپ نے کئی سال پولیس کے محکمہ میں خدمات انجام دینے کے بعد ۵۵ برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ محترمہ کریم النساء صاحبہ نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کا ذمہ خود اٹھایا۔ اور تحصیل سوار رامپور میں لڑکیوں کی تعلیم کے لئے ایک مدرسہ کا آغاز کیا تقریباً چالیس سال یہ سلسلہ قائم رہا۔ مدرسہ بعد میں سرکاری تحویل میں آ گیا تھا۔ اور محترمہ کریم النساء ۱۹۶۶ء میں اس مدرسہ کی صدر مدرس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئیں۔ ۱۹۶۳ء میں اپنے برادر زادہ مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی سے ملنے کراچی تشریف لائیں اور تقریباً چھ ماہ قیام کیا۔ مولانا حکیم قاری احمد اور راقم الحروف نے آپ کی یادداشتیں بصورت انٹرویو محفوظ کر لی تھیں جن سے پیش نظر تذکرہ کی ترتیب میں بڑی حد تک مدد ملی۔ نہایت خلیق ملسار اور پابند ہوم و صلوات خاتون تھیں۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے مرزا حسن رضا بیگ عرف حسن میاں کے ساتھ تحصیل سوار رامپور میں مقیم ہیں۔ بیٹائی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ لیکن راقم الحروف کے خطوط کا جواب بڑی پابندی سے عطا کرتی ہیں۔ مولانا حکیم قاری احمد سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت اور شفقت فرماتی تھیں۔ اور مولانا کے وصال پر راقم الحروف کو جو تغزلی خط تحریر کیا تھا وہ سچے جذبات کے ادبی اظہار کا ایک نادر نمونہ ہے آپ کے بڑے صاحبزادے مرزا علی رضا بیگ عرف اچھے میاں رامپور کی معروف شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ چھوٹے صاحبزادے حسن رضا بیگ سوار کے سیکنڈری سکول میں صدر مدرس ہیں۔ ۱۹۶۴ء میں آپ کو بھارتی حکومت کی جانب سے ملک کے بہترین استاد کا ایوارڈ ملا تھا۔ حسن میاں صاحب

مئی ۱۹۴۸ء میں راقم الحروف سے ملاقات کے لئے پاکستان آئے تھے۔ اور پیش نظر مذکورہ کی ترتیب و تالیف میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان سے مواد کی فراہمی میں بے پناہ تعاون کیا۔ نہایت خلیق و شفیع اور مرتجان مرتجح انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ محترمہ کریم النساء صاحبہ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اور ان کی اولاد کو دینی و دنیوی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آمین

حلیم النساء

محترمہ حلیمہ النساء محدث سورتی کی صاحبزادیوں میں اس اعتبار سے ممتاز ہیں کہ آپ نے اپنے والد سے دس نظامی کی سبقاً سبقاً تکمیل کی تھی۔ نہایت کم گو اور نفیس خاتون تھیں اور دو وظائف آپ کا محبوب مشغلہ تھا آپ کی شادی بیسپور ضلع پٹیلا بھیت کے مولانا محمد شفیع بیسپوری سے ہوئی تھی۔ جو حضرت محدث سورتی کے شاگرد اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان کے مرید و خلیفہ تھے۔ جنہوں نے کم عمری میں ۲۴ رمضان المبارک ۱۳۲۸ھ کو انتقال فرمایا۔ محترمہ حلیمہ النساء کا دوسرا عقد کئی سال بعد سنبھل مراد آباد کے مولوی سید فرخند علی سے ہوا۔ لیکن تادیر حیات نہ رہ سکیں اور ۱۹۳۵ء میں مراد آباد میں انتقال ہو گیا۔ مولوی فرخند علی سے آپ کے تین اولادیں ہوئیں۔ برکاتی بی، پیارے میاں اور باجرہ بی۔ برکاتی بی اور پیارے میاں مراد آباد میں مقیم ہیں۔ جبکہ باجرہ بی کراچی میں رہتی ہیں۔

عقیفہ النساء

محترمہ عقیفہ النساء کی شادی قبیلہ باڑی ضلع سیتا پور کے مولانا قاضی نور عالم سے ہوئی تھی۔ نہایت کم عمری میں ۱۹۳۵ء میں انتقال ہو گیا۔ مزار پٹیلا بھیت میں حضرت محدث سورتی کے مقبرہ کے پاسیستی سے مولوی نور عالم کا انتقال ۱۹۳۳ء میں سیتا پور میں ہوا۔ قادری رحمہ راہ سے ۱۳ جولائی ۱۹۴۹ء کو موصول ہونے والے جناب حسن میاں کے ایک خط سے یہ دلہن و زار اطلاع راقم الحروف کو ملی کہ محترمہ کریمہ النساء ۳۰ جون ۱۹۴۹ء کو ۳۰ بجے سہ پہر تقریباً ۹۵ سال کی عمر میں انتقال کر گئیں مرحومہ حضرت محدث سورتی کی آخری یادگار تھیں۔ راقم الحروف نے ۱۳ نومبر ۱۹۴۹ء کو تحصیل سارہا سپور میں آپ کے مزار پر حاضر ہوئی اور السنوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے (خواجہ رضی حیدر)

بی، انوار عالم عرف پیارے میاں اور ظفر عالم عرف محمد میاں اولادوں کے نام ہیں۔ قادری کی شادی دہلی میں حافظ سعید الزبیر کے فرزند حکیم خورشید الزبیر سے ہوئی تھی۔ آپ صاحب سلسلہ بزرگ تھے قیام پاکستان کے بعد قلعہ سربھا سنگھ سیالکوٹ میں سکونت اختیار کی۔ جنوری ۱۹۶۳ء بمطابق شعبان ۱۳۸۲ھ میں سیالکوٹ ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ قادری بی سیالکوٹ سے کراچی آگئی ہیں اور لاندھی میں سکونت ہے۔

حافظ سعید الزبیر مجددی حضرت مجدد الف ثانی سرہندی کی اولاد ہیں۔ تھے آپ کے پروردگار حضرت محمد زبیر کے دو صاحبزادے تھے ایک کا اسم گرامی عارف باللہ حضرت شاہ آفاق مجددی تھا جو حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی کے مرشد تھے دوسرے صاحبزادے حضرت سراج الزبیر تھے جو ۱۹۵۰ء میں ترک مکانی کر کے افغانستان چلے گئے تھے۔ حضرت سراج الزبیر کے دو صاحبزادے تھے۔ حضرت محمد زبیر اور حضرت محمد زبیر حضرت محمد زبیر کے تین صاحبزادے، حضرت محمد زبیر، حافظ سعید الزبیر، اور حضرت نصیر الزبیر تھے آپ کے صاحبزادے کا اسم گرامی شمس جہاں تھا۔ جن کا عقد حضرت سعید حسن مجددی سے ہوا تھا۔ حافظ سعید الزبیر مجددی دہلی کے محلہ پیراگان بازار حضرت روشن آرا روڈ پر حضرت شاہ آفاق مجددی کے مزار سے متصل رہا جس پر تھے۔ ۱۹۳۳ء میں وصال ہوا۔ آپ کے چار صاحبزادے تھے۔ حکیم رشید الزبیر مجددی، حضرت حمید الزبیر، جناب حمید الزبیر اور حکیم خورشید الزبیر مجددی، ایک صاحبزادی فروروس جہاں بیگم تھیں۔ جو ۱۹۴۹ء کے فسادات میں شہید ہو گئیں۔ حکیم رشید الزبیر مجددی بھی ۱۹۴۹ء کے فسادات میں شہید ہوئے۔ آپ کے پانچ صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں ہیں۔ جناب فرید الزبیر، جناب آفاق الزبیر، محترمہ بد جہاں بیگم، جناب حلیمہ الزبیر محترمہ ممتاز جہاں بیگم۔ جناب جواد الزبیر اور جناب نصیر الزبیر۔ سب مجددی حیات ہیں اور کراچی میں مقیم ہیں۔

فضل الصمد شاہ مانا میاں

سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد قادری کے سب سے بڑے صاحبزادے مولانا شاہ فضل الصمد المعروف شاہ مانا میاں قادری چشتی پیل بھیتی بڑے باکمال عالم، بلند پایہ خطیب اور صاحب سلسلہ بزرگ تھے۔ آپ ۱۲ شوال ۱۳۲۴ھ بمطابق ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۹ء بروز بدھ پیل بھیتی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت محدث سورتی نے اپنے پیرو مشد کی نسبت سے آپ کا نام فضل الصمد رکھا جبکہ آپ کے نانا حضرت شاہ عبدالکریم گنج مراد آبادی نے آپ کو پیار سے مانا میاں کہنا شروع کیا۔ پیل بھیتی کے مشہور شاعر اور عاشق رسول قاضی خلیل الدین حسن حافظ پیل بھیتی نے ترکیبی نام شمس الفیوض نکالا۔ آپ بچپن سے ہی خاموش طبع اور وارفتہ حال و سکر و محو میں تھے۔ شاید طبیعت کی اسی متانت اور سنجیدگی کی وجہ سے شاہ عبدالکریم گنج مراد آبادی نے آپ کو مانا میاں کہہ کر پکارا۔ اور پھر یہی نام زبان زد خاص و عام ہو گیا۔

قبل مانا میاں نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ محترمہ حمیدہ خاتون اور اپنے چچا مولانا عبدالمطلب پیل بھیتی سے حاصل کی۔ کچھ کتابیں اپنے والد مولانا عبد الاحد سے اور کچھ کتابیں اپنے چچا مولانا شائق احمد کانپوری سے پڑھیں۔ دورہ حدیث بریلی میں کیا اور حصن حصین کی کچھ کتابیں اپنے نانا کوثرناکر سلسلہ نقشبندی کی اجازت و خلافت حاصل کی۔ قبل مانا میاں سلسلہ قادریہ میں اپنے والد کے مرید و خلیفہ تھے جبکہ سلسلہ چشتیہ میں آپ کو حضرت مولانا مصباح الحسن پھچھندوی سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت معرفت الہی کا جسم بیکر تھی۔ جہاں نذر شرافت، حجاب و متانت، حق گوئی اور حق اندیشی، خوف الہی اور حب نبوی، فقر و استغنا مراد لے نفسی بدرجہ اتم موجود تھی۔ ترغیب و تحریمیں کا آپ کے یہاں کوئی گزرو تھا۔ دست قلبی اور فیاضی شیعہ خاص تھی۔ آپ کی ناراضگی اور محبت سب لوجہ اللہ تھیں۔ پھر نہ ناکس آپ کا والد دیشدا نظر آتا تھا۔ اور آپ کے مریدوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔

حضرت شاہ مانا میاں قادری چشتی پیل بھیتی و عظمت تقریر میں اپنے والد کی مثیل تھے خطابت کا ایسا دلنشیں انداز پایا تھا کہ کئی کئی گھنٹے آپ تقریر کرتے اور مجمع ساکت بیٹھا رہتا آواز ایسی تھی کہ جیسے پہاڑوں کی وادی میں کوئی بول رہا ہو۔ دوران تقریر اکثر عالم جذب و شوق میں آتے ہو کر ذکر کرنے لگتے اور پھر یہ سلسلہ گھنٹوں جاری رہتا۔ حتیٰ کہ آپ نہ حال ہو کر گر جاتے۔ سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد کے وصال کے بعد شاہ مانا میاں نے مسند و عظمت تقریر کو رونق بخشی۔ اور یہ سلسلہ تقریباً بیس سال تک نہایت زور و شور سے جاری رہا۔ یہی۔ احمد آباد، اجمیر، دہلی، لاہور، سیالکوٹ، مراد آباد، کانپور، شامپھان پور، بریلی، میرٹھ، بدایوں پٹنہ، غازی پور، اور کلکتہ میں آپ کی تعداد بڑھتی رہی۔ آپ تقریباً پورے سال و عظمت تقریر کی مصروفیت کی بنا پر سفر میں ہی رہا کرتے تھے۔ مولانا حسرت موہانی، مولانا آزاد سہمانی مولانا عبدالماجد بدایونی، مولانا نذیر مجتہدی، مولانا ظفر الدین بہادی، مولانا سید محمد اشرف محدث کچھوچھوی، مولانا سید احمد ابوالبرکات الوری لاہوری، مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلیوی، مولانا عبدالمطلب گنج مراد آبادی مولانا عبدالعزیز بدایونی، مولانا عبدالحمید بدایونی اور مولانا مصباح الحسن پھچھندوی سے آپ کے خاص مراسم تھے اور یہ تمام حضرات حضرت محدث سورتی کی نسبت سے آپ کی حد درجہ تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

حضرت شاہ مانا میاں قادری نے ابتداً ایک حساس مشہری کی طرح محکوم ہندوستان کی قومی سیاست میں پوری طرح دلچسپی لی اور اپنی تقاریر میں قومی موضوعات پر کھل کر اظہار خیال کرنا شروع کیا۔ جولائی ۱۹۲۵ء میں لاہور میں مسجد شہید گنج کا سانحہ پیش آیا جس نے پورے ہندوستان میں کشیدگی پیدا کر دی اس مسجد کو سکھوں کی جانب سے سمار کرنے کی کوشش اور حکومت کی جانب سے مسلمانوں پر نافرنگ پر ہندوستان کے تقریباً پھر شہر میں شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ شاہ مانا میاں نے بھی اس سانحہ پر سکھوں اور حکومت برطانیہ کی شدید مذمت کی اس سلسلے میں انجمن نوجوانان پیل بھیتی کی جانب سے بامقصد مسجد پیل بھیتی میں ایک

جلسہ ۲۰ ستمبر ۱۹۳۵ء بروز جمعہ منعقد ہوا جسکی صدارت مولانا فضل حق رحمانی تلمیذ حضرت
محدث سورتی نے کی۔ جلسہ سے شاہ مانا میاں اور مولانا سردار احمد خان باپوری نے خطاب
کیا اور کہا کہ مساجد کو سمار کرنے والے اسلام کی نظر میں ظالم ہیں۔ اور مساجد کی حفاظت مسلمانوں
کے نزدیک جزو ایمان ہے۔ مقررین نے مسجد شہید گنج کے سلسلہ میں اسمیر ملت پرستید جہالت
علی شاہ محدث علی پوری کی مساعی جمیلہ کو خراج تحسین پیش کیا اور مسلمانان پبلی بھیت کی جانب
سے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔

شاہ مانا میاں ہندو مسلم اتحاد کے بھی شدید مخالف تھے یہی وجہ ہے کہ اپنی ہر تقریر
میں جمعیت علمائے ہند کے کردار پر نکتہ چینی کرتے اور ہر جگہ مسلمانوں کو یہ یاد دلاتے کہ جمعیت
دراصل کانگریس کی زرخیز تنظیم ہے۔ مسلمانان ہند ایک علیحدہ وحدت ہیں۔ اور ایک جامعہ
نظام زندگی کے تابع ہیں اس لئے برصغیر کی آزادی اسی صورت میں ممکن ہے کہ مسلمانوں
کا علیحدہ وطن ہو۔ مسلم لیگ کے پارٹی فارم سے ۲۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو قرارداد پاکستان
منظور ہو جانے کے بعد شاہ مانا میاں نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ اور مسلم
لیگ کے زیر اہتمام متعدد جلسوں سے خطاب کرنے لگے۔ ۳۰ مارچ ۱۹۴۷ء کو قائد اعظم محمد علی
جناح کی کانپور آمد کے موقع پر آپ کانپور میں ہی مقیم تھے۔ چنانچہ آپ نے مریدین کی ایک کثیر
تعداد کے ساتھ قائد اعظم کے استقبال میں حصہ لیا۔ اور قائد اعظم سے ملاقات کر کے آپ کو
مسلم لیگ کی تنظیم نو اور لاہور میں قرارداد پاکستان کی منظوری پر مبارکباد پیش کی اور اس تاریخی
جدوجہد میں اپنی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ کانپور کے ماسٹر سعید احمد حال ساکن
ملیر کالونی کا بیان ہے کہ میں اپنے پیروم شد شاہ مانا میاں کے ساتھ اس موقع پر موجود تھا۔
اور حکیم مختار احمد خلیف مولانا مشتاق احمد کانپوری بھی جو اس وقت کانپور میں نوجوان مسلم لیگی
دہنوں میں زعفر ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ بلکہ مولانا حسرت سہان کے رفیق خاص تھے۔ پیروم شد
شاہ مانا میاں علیہ الرحمہ نے اس ملاقات میں قائد اعظم سے جو گفتگو کی تھی وہ تو اب بھیا دہنیں
سے۔ رپورٹ مطبوعہ ہندو ہند الفیہ امرتسر، اکتوبر ۱۹۳۵ء۔

رہی لیکن قائد اعظم نے جب وقت خصت پیروم شد سے معاف کرنے کے بعد اپنی بھاری بھر کم
آواز میں تھینک بول کہا تھا۔ وہ آج تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ
جب قائد اعظم مسلمانان ہند کی جانب سے تائید و حمایت پر تھینک بول کہا کرتے تھے۔ اور آج
پوری قوم اپنے قائد اعظم کا شکر ادا کر رہی ہے۔

قائد اعظم سے ملاقات کے بعد حضرت شاہ مانا میاں نے اپنی تمام مصروفیات ترک
کر کے خود کو حصول پاکستان کی جدوجہد کے لئے وقف کر دیا۔ مولانا سید محمد اشرف محدث
کچھوچھوی تلمیذ حضرت محدث سورتی، مولانا عبدالحمید بلوچی، مولانا مصباح الحسن پھونڈوی،
مولانا غلام جیلانی میرٹھی۔ اور مولانا امجد علی اعظمی کی معیت میں انہوں نے مسلمانوں کے مختلف
اجتماعات سے خطاب کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہو کر متحدہ
ہندوستان کا نعرہ لگانے والے نام نہاد علماء کی کوششوں کے شیش عمل چکنا چور کریں۔

آل انڈیا سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے بھی شاہ مانا میاں نے تقریباً پورے ہندوستان
کا دورہ کر کے تقاریب کیں۔ اور مسلمانوں کے خواہیدہ احساس قومیت کو بیدار کیا۔
۳۶-۱۹۴۵ء کے مرکزی اور صوبائی عام انتخابات برصغیر کی تاریخ میں فیصلہ کن نوعیت
کے حامل تھے چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی علالت کے باوجود انتخابات میں مسلم لیگ
کی کامیابی کے لئے ملک گیر دورہ کر رہے تھے۔ اسی دوران والٹر لارڈ ڈویل نے ۲۵ مارچ
جون ۱۹۴۵ء کو شملہ میں ایک کانفرنس بلوائی جو شملہ کانفرنس کے نام سے تاریخ کے
صفحات میں موسوم ہے۔ اس کانفرنس کے دوران قائد اعظم نے اپنی دیرینہ سیاسی
بصیرت سے کام لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس اصول کو تسلیم کر لیا کہ ہندوستان میں
صرف اور صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور کسی ایسی تجویز کو مسلمان
ہرگز قبول نہیں کریں گے جو مسلمانوں کے مفادات کے منافی ہو۔ کانفرنس کے دوران قائد اعظم
اپنے اس موقف پر سختی سے قائم رہے اور لارڈ ڈویل کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ قائد اعظم کے
اس اصولی اختلاف کو پورے ہندوستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اور مسلم لیگ

کی پوزیشن ہندوستان کی سیاست میں بہت مستحکم ہوگی۔ تاہم اعظم کی نظرہ اصل
انتخابات پر تھی۔ اور وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ان انتخابات میں بھرپور کامیابی کے لئے فضا
تیار کی جائے جیسا کہ آپ نے ۲۳ نومبر ۱۹۴۵ء کو صوبہ سرحد مسلم لیگ کے ایک جلسہ سے
خطاب کرتے ہوئے کہا۔ کہ موجودہ انتخابات ایک انجام کا آغاز ہیں۔ اگر مسلمانوں نے مطالبہ
پاکستان کی خرافہ کے ساتھ حمایت کا تو ہر ہفتہ جنگ جیت لیں گے۔

علامہ اہلسنت قائد اعظم کی اس کھل اور اصولی سیاست کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے
دیکھتے تھے۔ ۱۹۴۶ء میں تحریک ترک موالات کی اصولی مخالفت سے لیکر ۱۹۴۷ء میں قرار
داد پاکستان کی منظوری تک قائد اعظم دو قومی نظریہ پر سختی سے کاربند نظر آتے تھے اس
لئے علامہ اہلسنت نے ان کی سیاست پر اعتماد کرنے سے ہرگز پر قائد اعظم کا ساتھ
دیا۔ ۱۹۴۷ء کے انتخابات کے موقع پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی نمائندہ مذہبی و
سیاسی تنظیم آل انڈیا سنی کانفرنس نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ
کی حمایت کی جائے مسلم لیگ کے نمائندوں کو ووٹ دیتے جائیں۔ اور مسلم لیگ کے ہر اس
طریقہ و عمل کی حمایت کی جائے جو شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو اس ضمن میں ۳۲ اکابر
اہل سنت نے جن میں مولانا فضل احمد شاہ مانامیاں سہلوانہ نشین پہلی بھیت کی شریک
تھے ایک تلخ فتویٰ جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ آل انڈیا سنی کانفرنس مسلم لیگ کے
ہر اس طریقہ و عمل کی تائید کر سکتی ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو جیسے الیکشن کے
حاصل میں کانگریس کو ناکام کرنے کی کوشش اس میں مسلم لیگ جس سنی مسلمان کو بھی اٹھائے
سنی کانفرنس کے اداکین و ممبران اس کی تائید کر سکتے ہیں۔ ووٹ دے سکتے ہیں دوسروں
کو ووٹ دینے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ بسکہ پاکستان یعنی ہندوستان کے کسی حصہ میں تین
شریعت کے مطابق فقہی اصولوں پر حکومت قائم کرنا سنی کانفرنس کے نزدیک محمود و حسن ہے۔

۱۔ اخبار دہلیہ سکندریہ لاہور۔ ۲۹ مارچ ۱۹۴۷ء (تفصیلات کے لئے مطالعہ فرمائیں قطعات
سنی کانفرنس از محمد جلال الدین قادری مطبوعہ گجرات ۱۹۴۷ء)

قیام پاکستان کی جہد جہد کے دوران شاہ مانامیاں کو قید بندی کی سورتوں سے بگڑ چکا ہوا تھا۔
۱۹۴۹ء میں آپ نے کانگریسی وزارتوں کی وضع کردہ واردہ اسکیم کے خلاف ذہرست تقدیر کر کے
مسلمانوں کو اس اسکیم کے نکلنے سے آگاہ کیا اور اپیل کی کہ وہ ان اسلام دشمن اسکیموں کے خلاف
سینہ پر جو جائیں۔ اس دوران شاہ مانامیاں کو سیالکوٹ سے میلاد النبی کانفرنس میں شرکت
و تقریر کی دعوت موصول ہوئی چنانچہ آپ اپریل ۱۹۴۹ء کو سیالکوٹ پہنچے جہاں آپ نے میلاد النبی
کانفرنس کے علاوہ متعدد اجلاسوں سے خطاب کیا اور حکومت برطانیہ و کانگریسی وزارتوں کی اسلام
دشمن پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کی چنانچہ سیالکوٹ سے واپسی پر لاہور کے اسٹیشن سے فیس امن
لیٹ کے تحت آپ کی گرفتاری عمل میں آئی اور تین ماہ کے لئے آپ کو نظر بند کر دیا گیا۔
قیام پاکستان کی جہد جہد میں بھرپور حصہ لینے کے باوجود حضرت شاہ مانامیاں قیام پاکستان
کے بعد ہجرت کر کے پہلی بھیت سے پاکستان نکلے۔ ایسا کیوں ہوا یہ ایک تفصیل طلب سوال ہے
لیکن مختصر صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قیام پاکستان کے تیس سال بعد تک شاہ مانامیاں کی حیات
میں کسی غیر مسلم کو پہلی بھیت میں یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ ان سے یہ پوچھ سکے کہ آپ تو پاکستان
کے حامی تھے اب پاکستان کیوں نہیں جلتے۔

اپنے برادران خورد مولانا فضل احمد مولانا حکیم تاجی احمد علی بھیت کے پاکستان ہجرت
کر جانے کے بعد حضرت شاہ مانامیاں پہلی بھیت میں حضرت محدث سورتی کے مزار کی خاک روٹی
اور سلسلہ مطہرقت کی سرپرستی کے لئے تیار ہو گئے تھے چنانچہ آپ نے اس فریضہ کو بخیر و
خوبی انجام دیا۔ اسی دوران آپ نے حضرت مولانا حکیم مومن سجاد کانپوری کی پوتی سے
عقد ثانی فرمایا جن سے آپ کے ایک لڑکے کو لد ہوئی مگر چند روز بعد وہ رہنے کے بعد انتقال کر گئی
حضرت شاہ مانامیاں کو بچوں سے بے پناہ محبت تھی۔ ہر وقت محلہ پڑوس کے بچے آپ کے مکان
میں موجود رہتے اور میاں گھنٹوں ان کے ساتھ حلقہ ذکر کرتے رہتے لیکن اولاد نہ ہونے
لاطم برابر امن گیر رہتا۔ فریضہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی کیفیت اور جذب میں بھی اضافہ ہوتا گیا
۱۔ مولانا قادری احمد کی یادداشتیں۔

اور ۱۹۵۸ء کے بعد آپ پر وزارت مہی اور سکر و محو کا وہ عالم طاری ہوا کہ آپ ہر طرف سے سمٹ کر مکمل طور پر خانقاہ نشین ہو گئے۔ ہر وقت رقت طاری رہتی تھی اور قرآن شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات جذب کی ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ ہفتوں اپنی خانقاہ سے باہر نہ نکلتے اور نہ ہی کسی کو اس دوران آپ کے پاس جانے کی اجازت تھی۔ آپ کی قبولیت و مرجعیت کشف و کرامات کا مشہور دور و نزدیک تقریباً پورے ہندوستان میں عام تھا اور عوام کی ایک بڑی تعداد جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہوتے تھے۔ اپنے حق میں دعا کیلئے پہلی بھیت حاضر ہوتے اور کامیاب و باہر واپس لوٹتے۔ علماء و مشہور کو آپ کی بعض باتوں سے متکلف بھی ہوتا تھا۔ جو بظاہر خلاف شریعت نظر آتی تھیں لیکن آپ کے نسبتی تعلق کے پیش نظر کسی کو اعتراض کی جرأت نہیں ہوتی۔ ذکر و فکر سے آپ کو قلبی تعلق تھا اور بلا ناغہ آپ کی خانقاہ میں بیگلوں مریدین حلقہ ذکر میں شامل ہوتے اور معرفت الہی کے مزے لیتے۔ شاہ مانا میاں کو سماع سے بھی ہم درجہ مانس تھا اور آپ ہر جمعرات کو قوال کی محفل بجاتے جس میں شرکت کے لئے ہندوستان کے تقریباً تمام قوال آیا کرتے تھے حضرت کے قوال سے انس کا ایک منظر راقم الحروف کو بھی ^{۱۹۵۶} میں دیکھنے کا شرف حاصل ہوا حضرت اپنے برادر خور دولا نا حکیم قاری احمد پہلی بھیت سے ملاقات کے لئے ان دنوں کراچی تشریف لائے تھے۔ اور کھارادر میں مقیم تھے۔ اتفاقاً اسی محلہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی کے عرس کے موقع پر قوالی کا اجتام کیا گیا۔ مات کے گیارہ بجے قوالی شروع ہوئی۔ پاک و ہند کے مشہور قوال بڑے صلاح محمد نے ہارونیم چھیڑا تو حضرت بے قرار ہو گئے میں قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دریافت فرمایا قوالی کہاں ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا برابر والی گلی میں۔ فرمانے لگے چلو۔ اب ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ حکیم قاری احمد صاحب ابھی مطب سے تشریف نہیں لائے تھے اس لئے میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ میان قوالی میں جانے کو کہہ رہے ہیں۔ والدہ نے منہ کر دیا۔ کہنے لگیں میان پر قوالی میں کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس لئے اپنے والد کا انتظار کر لو راقم الحروف نے میان کی خدمت میں عرض کیا تو مسکرائے اور فرمایا تمہاری ماں ڈرتی ہیں چلو ابھی آ جا میں گے۔ اب میری والدہ کی کیا مجال کہ کچھ کہہ دیں دونوں خاموش ہو

گئے۔ میان نے مونگیا چادر شلے پر ڈالی۔ پاؤں کی ڈبیر لی ایک عالم مستی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے قوالی کی محفل زدوں پر تھی۔ اور میان تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایٹھ کے قریب ہی ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ بڑے صلاح محمد اس وقت شاہ نیاز کے اس مصرعہ کی تکرار کر رہا تھا کہ

سے اے دل بگیر و امن سلطان اولیاء

کچھ دیر تو میان کی گردن شاخ نمودار کی مانند ہلتی رہی پھر آپ نے قوال کو دہل دینا شروع کیا اور پاس جھٹنے بھی روپے تھے سب قوال کو دے دیئے۔ پھر صیب سے گھڑی نکال کر دے دی پھر پاؤں کی چاندی کی ڈبیر نذر کی اور عالم بے خودی میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے۔ قوال مردم شناس تھا۔ اس لئے اس نے بھی تکرار جاری رکھی۔ اور جب تک میان اپنی جگہ پر ڈھیر نہیں ہو گئے۔ برابر تکرار کرتا رہا۔ راقم الحروف جس کے لئے یہ تصور خیال بالکل اجنبی تھی۔ عالم حیرت میں قریب ہی کھڑا میاں کی کیفیت کو دیکھتا رہا اور جب میان عالم بے خودی سے باہر آئے تو محلہ کے چند افراد کی مدد سے گھر لے آیا۔ ہر چند اس واقعہ کو بیس برس سے زائد بیت چکے ہیں اور یوں بھی تیرہ چودہ سال کی عمر میں گذرے ہوئے اکثر واقعات ذہن کی سلیٹ سے مٹ چکے ہیں۔ لیکن میان کے وجد کا منظر آج بھی آنکھوں میں نہ صرف اسی طرح تازہ ہے بلکہ راقم الحروف قوالی کی محفلوں میں شرکت سے صرف اس لئے مخالف رہتا ہے کہ کہیں اس پر بھی ایسی ہی کیفیت طاری نہ ہو جائے مگر

سے چہ نسبت خاک را با عالم پاک را

شاہ مانا میاں قاری چشمی پہلی بھیت کی زندگی نہایت سادہ اور بے ریا تھی۔ دنیا داری اور طمع و لالچ سے آپ کو سوں دور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مریدین کی تعداد ہزاروں سے زیادہ پہنچ جانے کے باوجود آپ کی وضع قطع اور طرز رہائش میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی مونگیا رنگ کا انگڑا کھارا اسی رنگ کی تہہ اور اسی رنگ کی ایک طویل چادر آپ کے لباس میں شامل تھی۔ آپ کے بیشتر مریدین نے بھی یہی لباس اختیار کر لیا تھا۔ لیکن احترام پیر کی نیت سے وہ کبھی اس لباس میں شاہ مانا میاں کی خدمت میں نہیں آتے تھے۔ پہلی بھیت دکانپور کے سابقہ باشندے جنکی بڑی بڑی تعداد کراچی و سکھر میں مقیم ہے۔ شاہ مانا میاں سے شرف بیعت رکھتے ہیں۔ گذشتہ

ساواں میں جن حضرات کو میاں کی زیارت کا موقع نصیب ہوا ان کا بیان ہے کہ میاں ان دنوں۔
 'موتو قبل موتو' کی مکمل تفسیر بن گئے تھے۔ اللہ رب العزت سے بے پناہ تعلق اور اس
 کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق نے محویت و استغراق کا وہ عالم آپ
 پر طاری کر دیا تھا کہ آپ ماسوا کے خیال سے ناواقف و بے خبر ہو گئے تھے۔ ہر لمحہ خدا کی عظمت و
 محبت اور رسول خدا کی شفاعت کا احساس آپ کے قلب پر حاوی رہتا اور اسی کیفیت و احساس
 کا یہ اثر تھا کہ آپ سب سے بے شمار خالق عادت باتیں اور کرامات ظاہر ہوتیں۔ اور بندگان خدا فیض اٹھا
 آپ کا ہر لمحہ مجاہدہ اور یا صفت میں بسر ہونے لگا تھا۔ حتیٰ کہ مقربین بھی آپ کی زیارت سے ہفتوں
 محروم رہنے لگے۔ لیکن جب آپ اپنی خانقاہ سے باہر آتے تو آپ کا چہرہ مثل آفتاب دمک رہا
 ہوتا۔ آخر میں مجاہد اور یا صفت کی اس کثرت اور وقت کی فراوانی سے آپ کو بلڈ پریشر رہنے
 لگا۔ آنکھوں میں اضمحلال کی ایک مستقل کیفیت نمایاں رہنے لگی۔ اور اعصاب ضعیف پکڑنے لگے
 مگر آپ کے معمولات میں کوئی تبدیلی نمایاں نہ ہوئی۔ ان دنوں مقربین سے اکثر فرمایا کرتے۔
 "جبر کی شب کٹنے میں کچھ دیر باقی ہے۔ ذرا دم لے لوں۔ ساعت وصال قریب ہے۔" ابھی ایام
 میں آپ کے برادر خورد مولانا حکیم قاری احمد کراچی میں وصال کر گئے۔ راقم الحروف نے مولانا کی وصیت
 کے مطابق اس سانچہ فاجد کی اطلاع دی چنانچہ ۱۳ جون ۱۹۶۶ء کو آپ نے راقم الحروف کو صبر
 کی تلقین فرماتے ہوئے کہا کہ۔ تمام اجسام خاکی ہیں اور تمام ارواح امانت الہی۔ سوامنت
 اپنے مالک کو پہنچ گئی۔ مہر شیوہ مومن ہے سو وہ اختیار کرنا اور کثرت سے دعتے مغفرت کرتے رہو
 فقیر کا بھی وقت آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منزل سے سکون کے ساتھ گزارے۔ قاری احمد کا وصال
 میرے لئے بھی ایک سانحہ عظیم ہے۔ لیکن انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔
 شاہ مانا میاں نے ہر چند راقم الحروف کو صبر کی تلقین کی لیکن وہ خود اپنے بھائی کی جدائی
 کا غم نہ برداشت کر سکے۔ اور اپنے بھائی کے انتقال کے ٹھیک آٹھ ماہ سترہ دن بعد یعنی ۳ جنوری
 ۱۹۶۶ء بمطابق ۱۰ صفر ۱۳۸۶ھ بارہ بجے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ انا اللہ وانا الیہ
 راجعون۔ راقم الحروف کو حضرت محدث سورتی کے نواسے حسن میاں نے جو تدفین میں شرکت

کے لئے راہپور سے پہلی بھیت پہنچے تھے۔ اطلاع دی اور راقم الحروف ایک مرتبہ پھر تبیم ہو گیا۔
 حضرت شاہ مانا میاں کی اہلیہ نے ۳ مارچ ۱۹۶۶ء کو احقر کے نام ایک خط میں میاں
 کے وصال کی تفصیلات درج کیں جن سے پتہ چلا کہ مولانا حکیم قاری احمد کے وصال کے بعد سے
 میاں ہر وقت مغموم اور مضمحل رہنے لگے تھے۔ چنانچہ اس سال حضرت محدث سورتی کا سالانہ
 عرس بھی ملتومی کر دیا گیا۔ اور خود میاں نے عرس کی تاریخیں ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ صفر ۱۳۸۶ھ مقرر کی
 تھیں۔ چنانچہ آپ حرم اطہام کے عشرہ ثانی سے عرس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ۸ صفر
 کو تقریباً پورے ہندوستان سے مریدین کی ایک بڑی تعداد پہلی بھیت پہنچ گئی۔ لیکن آپ کی طبیعت
 اچانک خراب ہو گئی۔ بلڈ پریشر گر گیا۔ اور ڈاکٹر نے سختی سے آرام کی ہدایت کی مگر ۹ صفر کو بعد نماز فجر
 قرآن خوانی سے عرس کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ ۹ بجے میلاد شریف ہوا جو نماز ظہر تک جاری رہا۔
 اس روز آپ پر نقاہت کا شدید غلبہ تھا۔ لیکن صلوٰۃ و سلام کے لئے مریدین کا سہارا ایک
 خانقاہ میں پہنچے اور پھر رات گئے تک مغل سماع میں بیٹھے رہے۔ یہاں خلتے میں جا کر مریدین
 کی خیریت بھی دریافت کی اور اپنی نگرانی میں ننگر تقسیم کر دیا۔ ۱۰ صفر کی صبح بیدار ہوئے تو نقاہت
 بہت شدید تھی اور بلڈ پریشر گر جانے کی وجہ سے چکڑا رہے تھے۔ چنانچہ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلا کر
 گلہ کوڑ چڑھایا گیا۔ ۱۲ بجے دوپہر تک گلہ کوڑ چڑھتا رہا۔ اور آپ خادین کو عرس کے سلسلے میں ہلایات
 دیتے رہے۔ مگر ساڑھے بارہ بجے طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اور چند ثانیوں میں روح نفسی عنقریب
 سے پرواز کر گئی۔ ۱۳ صفر کو بعد نماز عصر تدفین عمل میں آئی نماز جنازہ میں تقریباً بیس ہزار کے قریب
 افراد شریک تھے۔ پہلی بھیت سے راقم الحروف کے نام آنے والے تحریراتی خطوط سے پتہ چلا کہ
 اس سے قبل پہلی بھیت میں اس سے بڑا مجمع نہیں دیکھا گیا۔ میاں کے سوگ میں تین دن تک
 شہر میں کاد بار بند رہا۔ کیونکہ میاں کی شخصیت پہلی بھیت کے عوام کے لئے سرمایہ افتخار اور روحانی
 باپ کی سی تھی۔ راقم الحروف نے حضرت مانا میاں کی تاریخ ولادت میں اضافہ کے ساتھ تاریخ
 وصال نکالی۔

شمس الغیور ضحیٰ جاودا نہ

حضرت شاہ مانا میاں قادری چشتی پبلی بھیتی نے اپنے برادر خورد مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی کی خواہش پر تصنیف و تالیف کی جانب بھی توجہ دی تو جہدی بزرگان دین کے تذکرے اور متعدد مضامین قلمبند فرمائے۔ آپ کی تصنیف کردہ کتابوں کی تفصیلات یہ ہیں۔

- ۱- اطاعت رسول ۲۰ صفحات مطبوعہ تحریک احیائے سنت کراچی ۱۹۶۱ء
- ۲- سوانح محبوب الہی نظام الدین اولیاء ۲۰۰ صفحات مطبوعہ امین برادر س کراچی ۱۳۸۹ھ
- ۳- سوانح صحیبات اعلیٰ حضرت بریلوی ۸۳۰ صفحات، مطبوعہ امین برادر س کراچی ۱۹۶۰ء
- ۴- سوانح حضرت لال شہباز قلندر ۱۶۴۰ صفحات، مطبوعہ امین برادر س کراچی ۱۹۶۰ء
- ۵- سوانح حضرت بابا فرید گنج شکر ۱۸۳۰ صفحات مطبوعہ امین برادر س کراچی ۱۳۹۲ھ

اس کے علاوہ آپ کے متعدد مضامین احکام قرآنی، سیرت نبوی اور سلوک و تقویٰ پر ماہنامہ پیام حق میں شائع ہوئے ہیں۔

مولانا فضل احمد صوفی

سلطان الراحقین مولانا عبد اللہ کے منجھلے صاحبزادے مولانا فضل احمد صوفی ۲۸ ذی الحجہ ۱۳۲۹ھ بمطابق ۲۰ دسمبر ۱۹۱۱ء بروز بدھا اپنے نہیال گنج مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اور چچا مولانا عبد اللہ پبلی بھیتی سے حاصل کی صرف دھوکہ کچھ کتا ہیں مولانا فضل حق رحمانی پبلی بھیتی سے پڑھیں پھر کانپور چلے گئے۔ جہاں آپ نے رحیم مسلم ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور امتیازی نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ مولانا فضل احمد صوفی کو اوائل عمر سے ہی شعروادب اور مضمون نویسی سے شغف تھا چنانچہ آپ نے ابتداً ادبی موضوعات پر مضامین لکھے سادہ کار کا پنور سے ایک ادبی ماہنامہ تحریریں جاری کیا لیکن معاشی مجبوریوں کے پیش نظر سلسلہ ترک کر کے ویلے کے سی ٹی ایم آفس میں ملازمت اختیار کر لی اور کبھی چلے گئے بھٹی میں آپ کو لکھنے پڑھنے کے وافر مواقع میسر آئے۔ اور مختلف اخبارات کے لئے مضامین لکھنا شروع کر دیئے۔ آپ بیک وقت عربی فارسی، اردو اور انگریزی زبانوں پر قدرت رکھتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب بھٹی میں قومی سیاست کا

مروج تھا اور مسلمان زعماء مسلمانوں کی سیاسی بیداری کے لئے شبانہ روز جدوجہد کر رہے تھے لہذا آپ نے بھی قومی موضوعات پر قلم اٹھایا اور سکری ملازمت میں ہوتے ہوئے کھل کر اظہار خیال کیا ۱۹۳۶ء میں ہندوؤں کے ایک فرقہ پرست ادیبوں کے گروہ نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ ہندوستان کی مشترکہ زبان بگائے اردو کے ہندی ہوا اور پھر اس موضوع پر تمام اخبارات میں ایک طویل بحث شروع ہو گئی۔ چنانچہ مولانا فضل احمد صوفی نے بھی اس بحث میں حصہ لیا اور انگریزی اور اخبارات میں متعدد مضامین لکھے اس بحث میں آپ کا موقف یہ تھا کہ اردو کبھی بھی مسلمانوں کی زبان نہ تھی۔ اس لئے کہ کئی صدی قبل جب مسلمانوں کے سندھ سے تعلقات ہوئے تو ان کی زبان عربی تھی۔ چند صدی بعد جب ایرانیوں نے ہندوستان میں قدم رکھا تو مسلمانوں کی زبان فارسی تھی ایسی حالت میں کون نصف خراج یہ کہہ سکتا ہے کہ اردو یا ہندی مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو اردو سے جو تعلق ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ہندوؤں کو ہندی سے۔ کیونکہ مسلمانوں نے اپنی عربی اور فارسی جیسی زبانوں کو ترک کر کے اردو کو اختیار کیا۔ اور صدیوں سے اب اسی کے ماحول میں پرورش پایا ہے۔ ان کا یہ عمل محض وطنی اتحاد اور اجتماعی پاسداری کی بنا پر تھا۔ بہر حال جس زاویہ نظر سے بھی دیکھا جائے اردو کو ہم ملک کی مشترکہ زبان پائیں گے چنانچہ ہندوستان کی اگر کوئی مشترکہ زبان ہو سکتی ہے تو وہ اردو ہے جو توح ملک کے ہر صوبہ میں بولی جا رہی ہے کہیں تھوڑی کہیں زیادہ یہی نہیں بلکہ یہ اردو ہی ہے جو ہندوستانی زبان کے نام سے دوسرے ممالک میں شناسا ہو چکی ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج۔ سہ

مولانا فضل احمد صوفی کی قلمی ڈائریوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی علمی استعداد بڑھانے کیلئے مطالعہ جاری رکھا صوفی صاحب کا یہ اصول تھا کہ وہ جو کتاب پڑھتے تھے اس کے نوٹس اپنے ڈائری پر لے لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قلمی ڈائریاں کتابوں کے اختصار سے مالا مال ہیں۔ ان میں تفاسیر، احادیث، تاریخ اسلام، سیاست شعروادب، تذکرہ و سوانح اور انتقادات کی سینکڑوں کتابیں شامل ہیں۔ ان ڈائریوں کے مطالعہ سے فضل احمد صوفی، مضمون، ہندوستان کی مشترکہ زبان، مطبوعہ بیداری ماہیگاؤں، ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۷ء

سے ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل احمد صوفی نے ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۸ء تک نہ صرف بہت دیرہ ریزی سے مطالعہ کیا بلکہ اس عرصے میں ان کا ذہن ایک مخصوص پہنچ پر استقلال پاتا گیا۔ ان قلمی یادداشتوں میں آپ مسلم خلفاء میں حضرت عمر کے بعد سب سے زیادہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے متاثر نظر آتے ہیں کیونکہ آپ نے ایسی تمام کتب سے اجمالاً یا بطور قلب بندگی ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حیات و خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ برصغیر میں آپ کی آئیڈیل شخصیتوں میں مولانا محمد علی جوہر علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ چنانچہ آپ نے قومی سیاست پر مضامین تحریر کئے تو ان میں اپنی شخصیات کے تصورات و نظریات کی چھاپ نظر آتی ہے ایک مقام پر آپ — سیاسیات اسلامی کے عہد سے لکھتے ہیں کہ "اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لئے بہترین نظام حیات اور دستور العمل ہے۔ اس کا تابع ہر انسان اپنی جگہ جامع الصفات ہے اسلام میں مذہب و سیاست کی کوئی تفریق نہیں بلکہ اسلام کا ایک سچا علم بردار اگر مسجد میں زاہد شب بیدار ہے تو میدان میں بہترین مجاہد۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزون الذین امنوا وکانوا یتقون۔ لہم البشور فی الحیوة الدنیاء و فی الآخرة۔ یہی وجہ ہے کہ سعد بن ربیع کو جنگ احد میں مسلمانوں نے دم توڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کوئی وصیت ہو تو کر دیں۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ: اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا اور قوم سے کہنا کہ آپ کی راہ میں جاؤں گا۔ یہ ایک مومن کی اور اسلام کے سچے فرزندوں کی شان ہے۔"

مولانا فضل احمد صوفی حق گوئی اور بے باکی کو آئین جو انہوں نے تصور کرتے تھے اور بلا خوف حق بات کہتے اور حق بات کی تائید کرتے۔ ۱۹۳۵ء میں قائد اعظم کی انگلستان سے وطن واپسی مسلمانوں کے لئے ایک بہت افزا امر شگون تھا کیونکہ مولانا محمد علی جوہر کے انتقال کے بعد مسلمانان ہند کو کوئی ایسی شخصیت اخلاقی سیاست پر نظر نہیں آتی تھی جو ان کی سیاسی جدوجہد سے قلمی یادداشتیں۔ مملوک معین احمد صوفی پہلی بھیت۔ (بھارت)

کی صحیح سمت متعین کرے۔ ہر چند علامہ اقبال بھی مسلمانوں میں فکری انقلاب کے لئے جدوجہد کر رہے تھے۔ لیکن ان کو بھی ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی۔ جو ان کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکے۔ چنانچہ قائد اعظم کی — ہندوستان واپسی کا مسلمانوں کے ہر طبقے نے خیر مقدم کیا اور آپ کو تداون کا یقین دلایا۔ ان دنوں قائد اعظم بمبئی میں مقیم تھے اور برصغیر کے مسلمانوں کی نگاہیں اس جانب لگی ہوئی تھیں۔ مولانا فضل احمد صوفی نے بھی اس مرحلہ پر قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور مسلم لیگ کی کھل کر حمایت شروع کر دی اسی دوران مسلم لیگ کی مقبولیت سے گھبرا کر جمعیت مسلمہ ہند کے چند سربراہ اور وہ افراد نے لکھنؤ میں شیعہ سنی مناقشات کا بازار گرم کر دیا تاکہ مسلمان فرقت واریت کا شکار ہو جائیں۔ اور مسلم لیگ اپنی تنظیم تو میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں کچھ رہنماؤں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم پر تبراً شروع کر دیا۔ اور کہا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن اس نے لکھنؤ کے شیعہ سنی اختلافات کو ختم کرانے کے سلسلے میں کیوں خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مولانا فضل احمد صوفی نے اس موقع پر ٹائٹلز آف انڈیا میں ایک مضمون لکھا اور بتایا کہ شیعہ سنی اختلافات ختم کرنے کے سلسلے میں مسلم لیگ نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ شاید یہ اعتراض کرنے والے اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ محمد علی جناح نے سب سے پہلے ان اختلافات کو ختم کرنے کے سلسلے میں مسلم لیگ کی خدمات پیش کی تھیں۔ لیکن ان کو معلوم کن وجوہات کی بنا پر قبول نہیں کیا گیا۔ ایسی صورت میں مسلم لیگ کی حکمت عملی سوائے خاموشی کے اور کیا ہو سکتی تھی کیونکہ ایک سیاسی جماعت کو اس قسم کے فرقتہ وارانہ مظاہروں سے دور ہی رہنا چاہیے۔

مولانا فضل احمد صوفی نے مسلم لیگ کی پالیسیوں کو عوام الناس سے روشناس کرانے اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ قومیت کا احساس دلانے کے لئے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں مضامین لکھے۔ آپ کو اپنے مخصوص احساس قومیت کی بنا پر

پر علامہ اقبال، ابرار آبادی، مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری سے خصوصی طور پر انس تھا۔ آپ کی علمی یا دراستوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے حالی، ابرار اور اقبال کی شاعری کی روح میں پوشیدہ فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ علمی یا دراستوں میں حالی، ابرار اور اقبال کی شاعری اور ان کے فلسفہ پر بڑے مبسوط مضامین شامل ہیں جن سے مولانا فضل احمد صوفی کی شعر نہیں اور اپنے عہد کے خارجی اور داخلی عوامل کے ادراک کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مولانا فضل احمد صوفی کو چونکہ اقبال کا دور ملا تھا اس لئے آپ کی نظر اقبال کے قول و فعل پر زیادہ رہی ہر جگہ اور ہر مقام پر آپ اقبال کو اپنے لئے راہبر اور راہ نما بنا کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بہت سی کتابیں پڑھ کر بھول جانے کے بعد مضمون سے واقفیت پیدا ہوتی ہے ان کتابوں کی مثال عمارت میں بنیاد کی سی ہے جو نظر نہیں آتی۔ لیکن وہی مکان کی اصل پشت پناہ ہوتی ہے۔ مولانا صوفی کے مطبوعہ مضامین کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سی کتابیں پڑھنے کے بعد بھول گئے۔ لیکن ان کتابوں کے مندرجات ان کے مضامین میں جھلکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی دوسری برسی کے موقع پر ایک مضمون میں آپ نے علامہ اقبال کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاعری سے ہٹ کر علامہ اقبال کے اندر ایک اعلیٰ سیاست دان اور مدبر کی صلاحیتیں بھی موجود تھیں۔ جن کا انہوں نے ہندوستان کی سیاست میں اکثر و بیشتر مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے عہد کے حالات و واقعات سے پوری طرح باخبر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری اور فلسفہ دونوں اپنے اندر آفاقیت لئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی آخری عمر میں مسلمانان ہند کی فلاح و بہبود کے لئے بہت زیادہ فکر مند رہنے لگے تھے۔ لیکن صحت نے ان کو اتنی ہیلت نہ دی کہ وہ کھل کر کسی ایک پلیٹ فارم پر کام کرتے۔

مولانا فضل احمد صوفی نے کانگریسی ذرائع کی وضع کردہ واردہ اسکیم پر بھی کڑی نکتہ چینی کی اور ٹائٹلز انڈیا میں اس اسکیم کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اپنے مضامین

۱۔ دی پوسٹ آف دی ایٹھ مضمون ایف اے صوفی (پہلی ہیٹ) مطبوعہ دی پوسٹ گریڈنگ کمیٹی ۲۲ اپریل ۱۹۷۹ء

میں واضح طور پر کہا کہ کانگریس قوم پرستی اور تعصب کا شکار ہے۔ اور جو مسلمان کانگریس سے اچھا کی توقعات رکھتے ہیں وہ خوش نہیں کا شکار ہیں۔ ۲۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو لاہور میں قرار داد پاکستان کی منظوری مولانا فضل احمد صوفی کے لئے شدید مسرت کا باعث ہوئی۔ چنانچہ آپ نے مسلم لیگ کے منصوبہ وطن کے خدو خال کو اپنے مضامین میں اجاگر کیا اور قرار داد لاہور کو جو بعد میں قرار داد پاکستان کا روپ دھا ر گئی۔ بین الاقوامی سیاسی اصولوں کی کسوٹی پر پرکھ کر پیش کیا۔ اس سلسلہ میں دی پوسٹ گریڈنگ کمیٹی میں شائع ہونے والا آپ کا مضمون "مسلم لیگ ہوم لینڈ پلان بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اس مضمون میں مولانا صوفی نے ان اعتراضات کا بھی شافی جواب دیا ہے جو لاہور میں قرار داد کی منظوری کے فوراً بعد ہندوؤں کی جانب سے اٹھائے گئے تھے۔ مولانا فضل احمد صوفی نے لکھا کہ تقسیم ہند کی اسکیم کب عملی روپ اختیار کرے گی۔ میری گفتگو سے ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن یہ اسکیم کیوں پیش کی گئی۔ اس کے محرکات و عوامل کیا ہیں۔ یہ بتانا میری ذمہ داری ہے۔ دراصل یہ سوچ مسلمانوں کے قومی و ملی احساس کا ایک صدی قبل سے حصہ ہے لیکن اس کے اعلانیہ اظہار کا ابھی تک کوئی مناسب موقع ہاتھ نہ آیا تھا۔ اب جبکہ ۱۹۴۷ء میں کانگریسی ذرائعوں کے قیام کے بعد کانگریسی راج کے صوبوں میں ہندوؤں نے جو ردیہ اختیار کیا اس نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے حقوق کے سلسلے میں کھل کر کوئی فیصلہ کریں۔ مسلم ثقافت اور اوروزبان کے سلسلے میں گزشتہ دو ڈھائی سال کے دوران کانگریسی ذرائعوں نے جو کچھ بھی کیا وہ مسلمانوں کی دلجوئی کے لئے نہیں بلکہ ان میں نفرت کو پروان چڑھانے کے لئے کیا گیا۔ بندے ماترم اور کانگریس کے جھنڈے کا احترام کرانے کے لئے مسلمانوں پر جو مظالم کئے گئے وہ ناقابل بیان ہیں۔ ایسے حالات میں یہ کہنا کہ مسلم لیگ نے سامراج کے اشارے پر تقسیم ہند کا مطالبہ کیا ہے سراسر حماقت ہے بلکہ کانگریس خود اس مطالبہ کی ذمہ دار ہے۔ اور اب وہ تقسیم ہند کے اس مطالبہ کو اپنی ہی غلطی تصور کر کے قبول کر لے کیونکہ اپنے عمل سے کانگریس نے ثابت کر دیا ہے کہ انصاف، مساوات اور خیر سگالی کے وہ الفاظ جو کانگریس کے رہنما کثرت سے استعمال کرتے ہیں کوئی حقیقت نہیں

رکھتے۔ بلکہ اپنے مقاصد کا ایک عیار انا اظہار میں، کانگریس نے ہمیشہ مسلمانوں کی امنگوں اور خواہشات کو نظر انداز کیا ہے۔ اور کانگریس کا یہی رویہ آج قرار دالا ہوں کہ جلوس تقسیم ہند کے مطالبہ پر منتج ہوا ہے۔ اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ کانگریس فردی طور پر مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت اور تنظیم تصور کرتے ہوئے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین ایک پروتار سمجھوتہ کے لئے راہیں ہموار کرے کیونکہ مسلمان تقسیم ہند کے مطالبہ سے دستبردار نہیں ہوں گے یہ کانگریسی رہنماؤں کے تدبیر کا امتحان ہے اور ایسے وقت میں ضروری ہے کہ کانگریسی رہنما حقیقت

کو تسلیم کریں چاہے یہ حقیقت ان کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو یا نہیں۔

مولانا فضل احمد صوفی نے ۳ دسمبر ۱۹۴۱ء کو ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کو ایک خط پاکستان کے عزائم سے لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ: کانگریسی رہنما خصوصاً وہ جو مسٹر منشی کے ہم خیال ہیں مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان سے سخت برہم دکھائی دیتے ہیں لیکن برہمی سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان عوامل پر غور کیا جائے جنہوں نے مسلمانوں کو پاکستان کا مطالبہ کرنے پر مجبور کیا۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ۱۹۳۷ء میں کانگریس کی جانب سے وزارتیں قبول کرنے سے قبل مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیوں نہیں کیا۔ یہ کانگریس کی قوم پرستی اور متعصبانہ ذہنیت ہے جو مطالبہ پاکستان کا باعث ہوئی ہے اور اس حقیقت کو کانگریسی رہنما ڈومیسٹک نے مرکزی اسمبلی میں دوران تقریر تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ: دراصل پاکستان کے پانی مسٹر جناح نہیں بلکہ مسٹر گاندھی ہیں جنہوں نے ہر شخص کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔

۱۹۳۹ء سے لیکر ۱۹۴۷ء تک مولانا فضل احمد صوفی نے تحریک پاکستان کے ایک مؤثر وکیل کی حیثیت سے مسلم لیگ کی پالیسیوں پر نہایت ٹھوس مضامین نگاہیں کئے اور اور کانگریس کی فرقہ پرست ذہنیت کی شدید مذمت کی۔ اس ضمن میں انہوں نے جمعیت علماء ہند کے رہنماؤں اور مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور ان کے سیاسی کردار

۱۷ مسلم لیگ ہوم لینڈ پلان مضمون فضل احمد صوفی مطبوعہ ڈی پروگریسیو بمبئی ۱۴ اپریل ۱۹۴۷ء
۱۸ پاکستان مراسلہ فضل احمد صوفی مطبوعہ ٹائمز آف انڈیا - ۳ دسمبر ۱۹۴۱ء

کی خامیوں کی نشاندہی کی۔ آپ کے انگریزی مضامین ٹائمز آف انڈیا - ڈی پروگریسیو بمبئی - مورنگ اسٹینڈرڈ بمبئی - بمبئی سنٹریل - فری پریس بمبئی جرنل - بمبئی کرائیکل - اشارہ بمبئی - مارٹنگ میرالڈ بمبئی - اور نیشنل اسٹینڈرڈ بمبئی میں اور اور مضامین ہفت روزہ بیدار بمبئی - ہفتہ وار نظام بمبئی - روزنامہ انقلاب بمبئی - ہفت روزہ جمہور بمبئی - روزنامہ اقبال بمبئی - روزنامہ خلافت بمبئی - ہفت روزہ بیداری مالیکانوں اور نگار لکھنؤ میں مستقل شائع ہوتے رہے ان مضامین کے اختصار اور تذکرہ کا پیمانہ موقع نہیں چننا چاہئے آئندہ کسی موقع پر تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے اس قلم کار کی نگارشات کا مفصل بیان کیا جائے گا۔

مولانا فضل احمد صوفی اپنے برادر خور مولانا حکیم ناری احمد کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے دونوں بھائیوں کی عادات اور مشاغل میں کسی حد تک مماثلت تھی۔ خود مولانا فضل احمد صوفی نے اس مماثلت کا تذکرہ ماہنامہ نگار لکھنؤ میں توام نیچے - نفسیاتی تحقیق کے عنوان سے کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ: میں اور میرے بھائی ایک ہی دن کی پیدائش ہیں۔ صرف دو گھنٹے کا چھٹاؤ بڑا ہے۔ اسی اعتبار سے ہم کو چھٹا اور بڑا کہا جاتا ہے۔ ہمارے خدو خال ایک دوسرے سے اس قدر مشابہ ہیں کہ بجز قریبی عزیزوں کے دوسروں کے لئے ہم میں تفریق کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے گو ہماری عمر اس وقت تیس سال ہے تاہم مشابہت کا یہ عالم ہے کہ اکثر لوگوں کو منظر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جو چند سال پہلے میرے بھائی کے دہلی میں ہم سبق روچکے تھے۔ مجھے بمبئی میں دیکھ کر نہایت تباہ سے میری طرف بڑھے اور میرے بھائی کا نام لیکر مجھ کو مخاطب کیا اور فریڈ ابل گیر ہو گئے۔ میں بڑی شکل سے ان کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوا کہ میں نہیں بلکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ جو ان کے ہم سبق رہ چکے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بارہا ہم دونوں بھائیوں کو پیش آئے ہیں۔ ہم دونوں بھائی قدرت و قامت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی یکساں ہیں۔ ہم نے باہر اپنا وزن کرایا۔ اور ہمیشہ ایک ہی پایا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ہمارے والدین ہم دونوں کو بیک وقت باہر نکلنے سے روکتے تھے ان کا خیال تھا کہ کہیں بچوں کو نظر بد نہ ہو جائے۔ ہماری مزاجی کیفیت ایک دوسرے سے

اتنی مطابقت رکھتی ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ ہمیں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ امراض کے حملے ہم دونوں بھائیوں پر بیک وقت ہوتے ہیں اور مرض کی نوعیت بھی ایک ہی رہی ہے کچھ روز سے میرے ایک حصہ سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دو ماہ قبل جب میں اپنے وطن گیا تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بھائی کے سر کے بال بھی اتنے ہی سفید ہو چکے ہیں اور ہاڈی موجودہ صحت ایک ہی نقطہ پر ہے۔ ادنی ذوق تھوڑا بہت ہم دونوں میں موجود ہے۔ ہمارے عادات و معاملات اتنی یکسانیت رکھتے ہیں کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ کچھ روز قبل کا ذکر ہے کہ میرے ایک مجلس دوست نے کسی شاعر کا ایک تازہ ترین شعر اپنے مکتوب میں لکھا جو پہلے میری نظر سے نہیں گذرا تھا۔ اور یہ دریافت کیا کہ یہ شعر کس کا ہے۔ میں نے جواب میں لکھ بھیجا کہ یہ شعر غالباً جگر مراد آبادی کا ہے۔ میرے بھائی سے بھی اسی شعر کے متعلق رائے طلب کی گئی۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو میں دے چکا تھا معاشی وسائل کے معاملے میں ہم البتہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میرے بھائی اپنے وطن میں طبابت کرتے ہیں لیکن میرے نصیب میں اہل فرنگ کی درپوزہ کروی آتی ہے۔ اور وہ بھی وطن سے بہت دور۔ ہم دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے اور دونوں ایک ایک بچی کے باپ ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہے جو ضرب المثل کی حسینیت سے پیش کی جاسکتی ہے لیکن باوجود اس مطابقت اور نفسیاتی یکسانیت کے یہ کہنا کہ جب اس دنیا سے روانگی کا وقت آئے گا تو ہم ساتھ ہی ساتھ سفر کریں گے۔ بہت دشوار ہے بہر حال اگر ایسا ہوا بھی تو ہم دونوں کا سر تسلیم خم ہے۔

مگر مشیت ایزدی میں کس کو دخل ہے مولانا فضل احمد صوفی ^{۱۹۳۶} ع کے اواخر میں بیہوش سے تبادلہ ہو کر کراچی آ گئے۔ پھر تپ دق لے کر ان کو ایسا دلہو چاکہ ^{۱۹۳۸} ع میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی ان کی میت پر آنسو بہانے رہ گئے۔ خود مولانا حکیم قاری احمد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ پہلے دنیا سے تو ام بچے۔ معنون فضل احمد صوفی مطبوعہ ماہنامہ نگار لکھنؤ جون ۱۹۴۶ء

میں نے دلا پہلے رخصت ہو گیا۔ اور بعد میں آنی والا آج اٹھائیس سال بعد یہ تذکرہ لکھ رہا ہے۔ دو گھنٹہ کا وہ فرق جو ہم دونوں بھائیوں کی پیدائش میں تھا آج تین دہائیوں پر مشتمل ہے۔ یہ فرق ہمیں دراصل ایک لمحہ فراق ہے جو مجھے صدیوں پر محیط نظر آتا ہے۔

مولانا فضل احمد صوفی کو کراچی کے قدیم قبرستان میرہ شاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ نے اپنی یادگار کے طور پر چند قلمی ڈائریاں اور مطبوعہ مضامین کے چند نامل چھوڑے ہیں۔ آپ کے فرزند جناب معین احمد صوفی پبلی بھیتی میں کپڑے کی تجارت کرتے ہیں اور حضرت محنت سدا کے مزاج پر بلدیائی کی سعادت سے دن رات مشغول رہتے ہیں اور راقم الحروف سے اسی تعلق کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے والد ماجد کو اپنے برادر خورد سے تھا۔

چند مطبوعہ اور مضامین :-

- ۱۔ سنت رسول (کتابچہ) ۳۶ صفحات مطبوعہ تحریک اہلئے سنت کراچی ۱۹۳۷ء
 - ۲۔ حضرت امام ابو یوسف کی انقلابی و تمدنی اصلاحات مطبوعہ ہفت روزہ جہانگیری ۱۹۳۵ء
 - ۳۔ جہانگیر کی افادی ایک مایہ ناز انشا پر روز مطبوعہ ہفت روزہ نظام بھٹی ۱۶ دسمبر ۱۹۳۵ء
 - ۴۔ اقبال اور پیام امید مطبوعہ ہفت روزہ میلا بھٹی۔ ۱۵ جنوری ۱۹۳۶ء
- انگریزی کے چند مطبوعہ مضامین :-

- 1, MUSLIM MASS EDUCATION - THE PROGRESS BOMBAY 11 Feb. 1940
- 2, RELIGION AND POLITICS - THE PROGRESS BOMBAY 25 Feb. 1940.
- 3, INDIA AND DEMOCRACY - THE PROGRESS BOMBAY 10 MARCH 1940.
4. FEW FACTS ABOUT FINLAND - THE PROGRESS BOMBAY 17 MARCH 1940
5. UNIVERSITY FOR SIND - THE STAR BOMBAY 9 M. MARCH 1947
6. SELECTING OFFICIALS FOR PAKISTAN - THE MORNING HERALD BOMBAY 17 M. JULY 1947

اردو کے چند غیر مطبوعہ مضامین :-

- ۱۔ حالی کا تجزیاتی مطالعہ ۳۳۰ قلم سکیپ صفحات پر مشتمل ۳۶۔ اکبر الہ آبادی۔
- قلم سکیپ صفحات پر مشتمل۔
- اس کے علاوہ ادبی اور سیاسی موضوعات پر متعدد مختصر مضامین۔

۱۔ مولانا قاری محمد کی یادداشتیں۔ مولانا ولی حیدر ڈاکٹر۔ کراچی۔

مولانا حکیم قاری احمد سیلی بھٹی

سلطان الہا علیین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مولانا حکیم قاری احمد سیلی بھٹی اپنے بڑے بزرگ مولانا فضل احمد سونڈی کے ساتھ ۲۸ مئی ۱۳۲۹ھ بمطابق ۲۰ ستمبر ۱۹۱۱ء بروز جمعہ اپنے ننھیال گنج محلہ میں پڑاں پیدا ہوئے۔ حضرت محدث سونڈی نے جو اس موقع پر گئے مراد آباد میں موجود تھے۔ اپنے پیر و مرشد کی نسبت سے فضل محمد نام رکھا اور حلق سے رونے کی بنا پر قاری کہہ کر مخاطب کیا۔ ابتدائی تعلیم جس میں قرآن حکیم کا ناظرہ اور عربی و فارسی کی ابتدائی کتب شامل تھیں۔ مولانا عبدالحمید سیلی بھٹی خلیفہ الرشید مولانا عبداللطیف سونڈی اور ابوالساکین مولانا خیار الدین سیلی بھٹی سے حاصل کی۔ بچپن میں حصول علم کا کوئی شوق نہ تھا اس بنا پر بڑی دیر میں ابتدائی کتب سے فراغت حاصل کی۔ مولانا خود لکھتے ہیں کہ بڑے لادھیار سے پلے تھے اس لئے بہت شہر پر تھے۔ میر و تفریح۔ پڑھنے سے دل چرانا، پتنگ اور گل ڈنٹے میں ملنا سارا دن گزار دینا۔ اچھی طرح یاد ہے۔ والدین نے تو بہت کوشش کی لیکن خود ہی قائمہ سناٹھایا۔ اس غفلت و سہولت کو یاد کر کے آج بھی انہیں ہوتا ہے۔ ۱۸ برس کی عمر تک بہت معمولی عربی قاری اور رو پڑھی انکھیں اس وقت کھلیں جب والد گرامی مولانا عبدالاحد کا انتقال ہوا۔ مزید لکھا ہے کہ ۱۹۱۹ء کے آخر میں ایک عرصہ تک ملیریا میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بچے وقت کی شکایت پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ والد صاحب نے علاج و معالجے سے مایوس ہو کر حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کو میری بیماری کی تفصیلات تحریر کیں حضرت پیر صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بچے کو میرے پاس بھیج دیجئے کچھ دن یہاں قیام کے بعد التیاجی صحت ہو جائے گی۔ حضرت پیر صاحب نے مجھ پر عنایات کے دروازے کھول دیئے تھے۔ اپنے اپنے دست مبارک پر مجھے بیعت کیا اور فرمایا کہ قاری غلام محمد صاحب سے قرأت سیکھیے۔ اور مولانا قاری صاحب سے اپنی کتابیں پڑھیے۔ چنانچہ چار ماہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہنے کے بعد سیلی بھٹی لوٹ آیا۔ والد صاحب بوا سیر کے دائمی مریض تھے۔ اور ان دنوں مرض میں اسانہ ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی تیمارداری میں لگا رہا اور یہ سلسلہ

آپ کی وفات تک جاری رہا۔ والد کی وفات کے بعد ذمہ داریوں نے آلیا۔ اپنی کم علمی پر افسوس ہوا اور رامپور پہنچ کر مدرسہ عالیہ میں داخلہ لیا۔ مولانا افضال الحق سے صرف و نحو کی پھر سے تکمیل کی۔ تماشش معاشش میں دہلی پہنچا اور مدرسہ امینیہ میں داخلہ لیا۔ نظر سے عشار تک ایک دوکان پر ملازمت کر لی۔ یہ سلسلہ کئی ماہ جاری رہا۔ مدرسہ امینیہ کے شیخ الحدیث مفتی کفایت اللہ نے عقائد کے اختلاف کے باوجود بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ دو سال دہلی میں قیام کے دوران دورہ حدیث کا مکملہ کیا اور سیلی بھٹی واپس آ گیا۔ ۱۹۳۶ء میں طبیہ کالج لکھنؤ سے حکمت کی سند حاصل کی۔ مولانا حکیم قاری احمد کی زندگی ایک جہد مسلسل سے تعبیر ہے انہوں نے جہاں اپنی تحریروں میں کم علمی اور کمسنی میں علم سے اپنی بے رغبتی کا ایک سچے انسان کی طرح اعتراف کیا ہے وہاں ان کی تحریروں میں جوئے شیر لانے کا عمل بھی جھلکتا ہے۔ اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کا ادراک اور پھر ان کا اعتراف عظمت کی نشانیوں میں۔ اور یہ عظمت مولانا حکیم قاری احمد کے یہاں عجز و انکسار کے روپ میں جلوہ گرد دکھائی دیتی ہے۔ علم کی عزت اور بزرگوں کا احترام آپ کا دائمی مشغلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں متقدمین کی سیراجی کیفیت پائی جاتی تھی۔ مولانا نے اپنی علمی زندگی کا آغاز ایک طبیہ کی حیثیت سے کیا اور پھر آپ کی شخصیت مختلف خاتونوں میں بٹی چلی گئی لیکن طبابت کا سلسلہ تادم آخر جاری رہا۔ مولانا حکیم قاری احمد نے سیلی بھٹی واپسی پر حضرت محدث سونڈی کے اس تبلیغی مشن کی تجدید کی جو سلطان الہا علیین مولانا عبدالاحد کی وفات کے بعد کسی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے سیلی بھٹی میں عبید اللہ النبی کی تقریبات کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا۔ اور ان میں شرکت کے لئے مقدمہ علماء کو دعوت دی۔ اہل ندوہ اور غیر مقلدین نے پورے ملک میں سیرت کمیٹیوں کے نام سے تنظیمیں قائم کیں جن کا مقصد محافل میلاد کو ختم کرنا اور سلام و درود کے سلسلے کو روکنا تھا۔ سیلی بھٹی کے سادہ لوح عوام بھی اس دام بہرنگ زمیں کا شکار ہو گئے تھے اور ایک

سیرت کبھی نے یہاں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ مولانا نے ۱۳۵۶ء بمطابق ۱۳۴۷ء سیرت کبھی کے شائع کردہ لٹریچر کی چند عبارتوں پر علماء اہلسنت سے فتویٰ طلب کیا جس کا جواب مولانا حشمت علی خان لکھنوی نے تفصیلاً دیا اور اس کی تصدیق مولانا نعیم الدین مراد آبادی ابوالساکین مولانا ضیاء الدین اور مولانا عبدالحق پبلی بھیتی نے فرمائی۔ یہ فتویٰ ایک رسالہ کی صورت میں اہل سنت برقی پریس مراد آباد سے طبع ہوا۔

مولانا حکیم قاری احمد خان فاضل رضویہ بریلی سے عینیت کا حال یہ تھا کہ آپ ہر سال طحز کے عرس میں تشریف لے جاتے اور تقریر فرماتے۔ اپنی یادداشتوں میں مولانا تقدس علی خان کے تذکرہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر میرے بعد مولانا حشمت علی خان تقریر کرنے والے تھے چنانچہ میں نے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے کہا کہ اب مولانا حشمت علی خان آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ جن کے سامنے میں پھر کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہوں۔ مولانا حشمت علی خان نے تقریر کیلئے کھڑے ہوتے ہی فرمایا کہ قاری صاحب نے خود کو پچھلے نمرد بنا دیا۔ جس پر لوگ بہت ہنسے۔ یہ واقعہ قیام پاکستان کے بعد مولانا تقدس علی خان نے ایک ملاقات میں مولانا کو یاد دلایا تھا جسے بعد میں مولانا نے اپنی یادداشتوں میں قلمبند کر لیا۔ مولانا قاری احمد اپنے والد کی طرح دو قومی نظریہ کے علمبردار تھے۔ چنانچہ ۱۳۶۱ء کے بعد مسلم لیگ کی تنظیم تو میں آپ نے ایک کارکن کی حیثیت سے حقہ لیا اور بہت جلد روٹیلکنڈ مخصوص ماہیلی بھیت اور اس کی تحصیلوں میں مسلم لیگ کو ایک مستحکم جماعت کا روپ دیدیا۔ آپ کو شرطیانی اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھی۔ چنانچہ مسلم لیگ کے اجلاسوں میں آپ ایک کامیاب مقرر کی حیثیت سے سامنے آتے۔ بریلی بدایوں، رامپور، شامپان پور، وغیرہ میں آپ کی تعاریر کا بہت شہرہ تھا۔ ۱۳۶۳ء میں پبلی بھیت کے سید بشارت علی کی صاحبزادی سیدہ خاتون سے آپ کا عقد ہوا۔ نکاح مولانا فضل حق رحمانی نے پڑھایا تھا۔ ۱۳۶۵ء میں پبلی بھیت سٹی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔

۱۳۶۵ء سیرت کبھی کے حال و حال مطبوعہ اہل سنت برقی پریس مراد آباد ۱۳۶۵ء

۱۳۶۱ء رمضان ۱۳۶۱ء کو علی گڑھ سے واپسی پر جب قائد اعظم محمد علی جناح بریلی تشریف لائے تو مولانا صاحبہ کا رکنوں کا ایک جلسہ سنے کر پبلی بھیت سے بریلی پہنچے۔ اور قائد اعظم کے پرورش استقبال میں حقہ لیا۔ قائد اعظم کی بریلی آمد کی تفصیلات مولانا نے اپنی کتاب تاریخ ہندوپاک میں درج کی ہیں۔ ۱۳۶۱ء کے اواخر میں کانگریس کی وزارتوں کے خاتمہ پر مسلمانان ہند نے قائد اعظم کی اپیل پر نہایت جوش و خروش سے یوم نجات منایا۔ اس موقع پر مولانا حکیم قاری احمد نے پبلی بھیت میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے جلسہ کیا اور جلوس نکالا۔ جس کے نتیجے میں مقامی انتظامیہ نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ اس سلسلے سے پبلی بھیت کے شہریوں میں اشتعال پھیل گیا۔ اور پورے شہر میں بے چینی اور اضطراب کی ایسی فضا پیدا ہوئی کہ تیسرے دن ہی مولانا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت پبلی بھیت میں مسلم لیگ کے سرکردہ رہنماؤں میں ڈاکٹر عبدالغفور، عظمت حسین وکیل، فضل الرشید وکیل خاصی شہرت کے حامل تھے۔ ۲۳ مارچ ۱۳۶۲ء کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد جب آل انڈیا سٹی کانفرنس نے مسلم لیگ کے موقف کی تائید کی تو پورے ہندوستان میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ عوام اہلسنت نے دل کھول کر مسلم لیگ سے تعاون شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کا روپ دھار گئی۔ پبلی بھیت میں علماء اہلسنت کا ایک طبقہ جس کی رہنمائی مولانا حشمت علی خان کر رہے تھے۔ مسلم لیگ سے بدظن تھا۔ لیکن اس کے باوجود ۱۳۶۵ء کے انتخابات کے موقع پر علماء اہلسنت نے مسلم لیگ امیدواروں کی حمایت کے سلسلے میں متفقہ فتویٰ دیا تو مخالف علماء نے مسلک میں اختلاف کے خدشہ کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لی۔ جسے مولانا حشمت علی خان مولانا حکیم قاری احمد کی درخواست پر سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو گئے۔ پبلی بھیت میں آل انڈیا سٹی کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ اور شاہ مانا میاں قادری حشمتی پبلی بھیت کو صدر منتخب کیا گیا۔ جبکہ مولانا حکیم قاری احمد کو ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ پبلی بھیت میں آل انڈیا

۱۳۶۵ء تاریخ ہندوپاک ۱۳۶۵ء

ستی کانفرنس کا قیام مسلم لیگ کی ایک بڑی کامیابی تھی جس کا تمام تر مہر امولانا کے سر تھا۔
 ۱۹۴۶ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاس بنا س میں مولانا حکیم قاری احمد نے پہلی بھیت
 سے ایک قافلہ کی شکل میں شرکت کی اور ۱۹۴۶ء میں سنی کانفرنس کا ایک عظیم الشان جلسہ خانقاہ
 حضرت محدث سورتی میں منعقد کیا اس اجلاس میں سنی کانفرنس پہلی بھیت کے انتخابات بھی
 عمل میں آئے۔ جس میں بھاری اکثریت سے مولانا حکیم قاری احمد کو صدر اور مولانا حبیب احمد
 قادری کو ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔

قیام پاکستان کے بعد مولانا حکیم قاری احمد نے پہلی بھیت کے مسلمانوں کی مجموعی حالت
 کے پیش نظر ترک وطن کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ اور مسلمانوں کو ہندوؤں کی دست برد سے بچانے
 کی کوششوں میں لگے رہے۔ آپ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بن تو گیا مگر ہندوستان
 میں مسلمانوں کی زندگی زبردست خطرے میں پڑ گئی۔ مار پیٹ اور بلوے پہلے سے زیادہ ہونے لگے
 ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جانے لگا۔ پہلے تو فوج اور پولیس مداخلت بھی کرتی تھی
 مگر پاکستان بننے کے بعد تو فوج و پولیس کی مدد بھی ہندو بلوائیوں کو حاصل ہو گئی۔ پاکستان چلو تیر
 تھادہ لغزہ جو تقسیم ہند کے بعد ہر طرف سنا جا رہا تھا۔ مسلمان بہت پریشان تھے۔ اپنی جائیداد
 اور اسباب سب کچھ لٹا کر ہجرت کر رہے تھے اس لئے نہیں کہ ہندوؤں کا خوف غالب تھا اور
 مرنے سے ڈرتے تھے بلکہ ہندو اکثریت کے مظالم طعنوں اور تنگ نظری نے پاؤں اکھاڑ دیئے تھے۔
 تھوڑے ہی دن بعد گاندھی کے قتل نے جلتی پرتیل کا کام کیا اور مسلمانوں پر حملے شدید ہو گئے۔
 انہی ایام میں مجھے کانپور لکھنؤ، لاہور آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ ہر طرف مسلمان بے ہوش
 ترین میں ہندو مسلم ڈبے علیحدہ ہو گئے تھے۔ کوئی مسلمان اگر ہندوؤں کے ڈبے میں چلا جاتا تو اس
 قدر پریشان کیا جاتا کہ ڈبے سے اترنا پڑتا۔ انہی دنوں برادر بزرگ فضل احمد صوفی کا کراچی سے
 خط آیا کہ ان کی طبیعت سخت خراب ہے چنانچہ فوری طور پر کراچی آنے کی تیاری شروع کر دی آخر
 جولائی ۱۹۴۷ء میں بروی اور کچوں کو لیکر پہلی بھیت سے آگرہ ہوتا ہوا بمبئی پہنچا۔ آگرہ میں ہندو خونچ
 سلہ - ہفت روزہ ہمدرد ہلی رپورٹ مطبوعہ ۳۰ جون ۱۹۴۷ء

والے تک مسلمانوں کو سورا دینے سے منع کر دیتے تھے۔ میں نے ایک خونچہ دلے سے سورا طلب کیا تو
 کہنے لگا دودھ لٹ کر کھڑے ہو ورنہ یہیں قبرستان بن جائے گا۔ بمبئی کے مسافر خانہ میں تین دن قیام
 کے بعد بدلیہ بھری جہاز کراچی پہنچ گیا۔ مگر صوفی صاحب کی حالت بہت خراب تھی چار ماہ مستقل
 علاج کے باوجود وہ صحت یاب نہ ہو سکے اور دسمبر ۱۹۴۸ء میں اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔

مولانا فضل احمد صوفی کے وصال کے بعد مولانا حکیم قاری احمد پہلی بھیت واپس نہ جاسکے کیونکہ
 مسلم لیگ سے وابستگی اور قیام پاکستان کے لئے سر توڑ جدوجہد کی بناء پر پہلی بھیت کے ہندوؤں کے
 شدید مخالف ہو گئے تھے۔ یوں بھی پہلی بھیت سے فسادات کی اطلاعات آرہی تھیں۔ پھر مولانا فضل
 احمد صوفی کے پسماندگان کی نگہداشت کا مسئلہ بھی سامنے تھا۔ اس لئے انہوں نے پاکستان میں ہی مستقل
 قیام کا فیصلہ کر لیا۔ آباں درود یو آر اور موروثی وجاہتوں کو ترک کر کے اجنبی شہر میں از سر نو زندگی
 گزارنے کا فیصلہ ہر چند بڑا جانگسل تھا لیکن اسے قبول کرنا پڑا۔ مولانا حکیم قاری احمد پہلی بھیت
 کو ابتداء میں شدید ترین معاشی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا اور تقریباً دو سال کی مسلسل جدوجہد
 کے بعد روزگار کا مسئلہ حل ہوا۔ اس عرصہ میں مولانا نے اشاعت اسوۃ رسول کے لئے قرطاس و قلم
 کو اپنا لیا۔ اور اسلامی موضوعات پر متعدد بصیرت افروز مضامین تحریر کیے جو روزنامہ جنگ، روزنامہ
 انجام، روزنامہ مسلمان اور نئی روشنی میں شائع ہوتے رہے۔ اس دوران آپ کی ملاقات مولانا عبدالحق
 بدایونی سے ہو گئی اور آپ نے جمعیت علمائے پاکستان کی سرگرمیوں میں پرورش حصہ لینا شروع کر دیا۔

۱۹۴۹ء میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں جمعیت کے مبصر کی حیثیت سے شریک
 ہوئے اور قرارداد مقاصد کی تائید کی۔ ۱۹۵۰ء میں کراچی سے نکلنے والے ایک مذہبی ماہنامہ خلافت
 کے نائب مدیر مقرر ہوئے اور مذہبی و تاریخی موضوعات پر متعدد مضامین قلمبند کئے۔ ان مضامین
 کے تراشوں پر مشتمل ایک قابل راقم الحروف کی نظر سے گذرے۔ جس میں اسلامی عدالتوں کی
 ایک جھلک، آنحضرت کی حفاظت و فصاحت، آنحضرت کا حلیہ مبارک، اسلام میں طبقاتی جنگ
 کے پہلے علمبردار حضرت ابوذر غفاریؓ، اسلام کا نظام صنعت و تجارت، امام ابو یوسف کی اقتصاد
 اور تمدنی اصلاحات کے عنوانات سے طویل مطبوعہ مقالے موجود ہیں۔

جمعیت علمائے پاکستان سے وابستگی اور مولانا عبدالحامد بدایونی سے بلا دراندہ مراسم کی بنیاد پر مولانا حکیم قاری احمد کی سیاسی حیثیت کسی حد تک بحال ہونے لگی لیکن ابھی معاش کا مسئلہ مستقل طور پر حل نہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے اپنی رہائش گاہ واقع کھارادہ میں "سورق دو خانہ" کے نام سے مطب کا آغاز کیا۔ مگر گونا گوں معروضات کی بنا پر طبابت کی طرف پوری توجہ نہ دے سکے۔ اور تحریر و تقریر کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تبلیغ میں منہمک رہے۔ ۱۹۵۲ء میں آپ حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوئے اور "مشاہدات حرمین" کے نام سے اپنا سفرنامہ زچ تحریر کیا۔ جو کراچی سے شائع ہوا تھا۔ اس سفرنامہ پر مولانا عبدالحامد بدایونی نے اپنی تقریظ میں تحریر فرمایا کہ "یہ سفرنامہ ایک نادر حرم اور عاشق بارگاہ رسالت کے محض خیالات و مشاہدات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ حضرات صحابہؓ، حضرات اہلبیت و ازواج مطہرات اور حرمین شریفین کے تاریخی حالات اور تبرک مقامات مقابرو مساجد کی وہ کیفیت بھی پیش کرتا ہے جس سے ہر نادر حرم میں مطالعہ اور مشاہدہ کا شوق بڑھتا ہے۔ سفرنامے میری نظر سے بکثرت گزرے ہیں۔ لیکن حکیم قاری احمد پہلی بحیثیت کا یہ سفرنامہ حقیقتاً ایک ایسا مجموعہ ہے جو زائرین و حجاج کے لئے صحیح معنی میں مشیرالرحم ہو سکتا ہے۔" اس سفرنامہ کو عوام و خواص دونوں میں یکساں مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہر چند مولانا کی یہ پہلی تصنیف تھی لیکن اظہار و بیان پر بے پناہ قدرت کی بنا پر علمی حلقوں میں اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔ اس مرحلہ پر مولانا کو علماء کے ایک حریص گروہ کی جانب سے شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بظاہر اس کی ایک وجہ مولانا حکیم قاری احمد کی عوام و خواص میں یکساں مقبولیت تھی تو دوسری طرف وہ اعتماد تھا جس کا اظہار مولانا بدایونی علی الاعلان فرمایا کرتے تھے۔ ۱۹۵۳ء میں مولانا عبدالحامد بدایونی نے مولانا قاری احمد کو جمعیت علمائے پاکستان صوبہ سندھ کا نائب صدر مقرر کیا۔ اور جمعیت کی تبلیغی کانفرنسوں میں نمایاں حیثیت دی۔ جمعیت علمائے پاکستان کے زیر اہتمام ۱۰ اکتوبر ۱۹۵۴ء کو ککری گراؤ ندہ میٹھا درہ موجودہ

۱۰ - مشاہدات حرمین ص ۱۳۱ -

جوہر پارک) میں بڑے پیمانے پر یوم حسین منایا گیا۔ جس کی صدارت اُس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے کی تھی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے مولانا حکیم قاری احمد نے کہا کہ اگر ہم نے حضرت امام عالی مقام کی سیرت و کردار کو رہنما بنایا تو یقیناً معاونت الہی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر حسین سے محبت کا ثبوت دینے کے لئے کچھ کیا جا سکتا ہے تو یہی کہ سیرت حسینؑ، خدا کا رحیمی عزم و ثبات حسینؑ اور عظمت اہلبیت کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ مولانا قاری احمد نے اپنی تقریر کے آخر میں مولانا عبدالحامد بدایونی اور علامہ رشید ترائی کو انجمن المسلمین کے سلسلے میں گرانقدر مشترکہ خدمات انجام دینے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آج یہ عظیم الشان اجتماع اس اتحاد کا منہ بولنا ثبوت ہے۔ اس جمعیت کے ہی زیر اہتمام ۹ نومبر ۱۹۵۴ء کو کراچی میں پارک میں دو روزہ عید میلاد النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر ہم کتاب سنت پر عمل کریں تو صدیوں کا کام برسوں میں پورا ہو سکتا ہے۔ بغیر غلامی مصطفیٰ و اطاعت مصطفیٰ ہم کوئی حقیقی مقام و عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ جمعیت علماء پاکستان جشن عید میلاد النبی کا اہتمام صرف اس غرض سے کرتی ہے کہ ملت پاکستان میں اتحاد و یگانگت محبت و رواداری ایثار و خلوص اور حضور آقائے کونین اور احوالہ الصغار سے سچی نسبت پیدا ہو۔

مولانا کا یہ انداز خطابت علماء کے اس حریص گروہ کے لئے سوبان روح تھا۔ کیونکہ ان کی دو کا نڈاری متاثر ہوتی تھی۔ چنانچہ اس گروہ نے مولانا کے خلاف الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ پہلے شیعہ ہونے کا لیبل چسپاں کیا۔ اور پھر دیوبندی قرار دیا۔ حضرت محدث سورق کے دروازہ سے علم کی خیرات لپٹنے والوں کی اولاد نے ہمیں سورق کی سورتی کے مسک پر قدغن لگائی نفرت و عداوت کا بازار گرم کیا۔ اور ایسے وقت میں جبکہ پاکستان میں مسک اہل سنت کا بول بالا کرنے کی ضرورت تھی۔ اپنی دوکان کو چمکانے کے لئے ایک عالم اہل سنت کا اقتصادی و سماجی مقاطعہ ضروری سمجھا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا حکیم

۱۰ - رویت یاد یوم حسین مطبوعہ کراچی ۱۹۵۵ء

۱۰ - رویت یاد جشن عید میلاد النبی مطبوعہ ۱۹۵۵ء

قاری احمد نے مسلک کو اس عداوت و نفرت سے بچانے کے لئے نہ صرف خاموشی اختیار کر لی۔ بلکہ ایک حد تک خود کو سمیٹ لیا۔ اس مرحلہ پر مولانا عبدالحامد بدایونی نے مداخلت کی لیکن مولانا حکیم قاری احمد نے یہ کہہ کر مولانا کو مداخلت سے روک دیا کہ میرا میدان تحریر و تقریر ہے اور میں اس سلسلہ کو تادم مرگ جاری رکھوں گا۔ جو لوگ چندہ اور عطیات پر زندہ ہیں وہ مر جائیں گے اور میرے لکھے ہوئے لفظ ہمیشہ میری صداقتوں کی گواہی دیتے رہیں گے۔ اور پھر یوں ہوا کہ اختلافات نے دم توڑ دیا۔ اور مولانا حکیم قاری احمد ایک مایہ ناز مصنف کی حیثیت سے خود کو درشناس کر لے چلے گئے۔ فروری ۱۹۵۵ء میں کراچی کے ایک اشاعتی ادارے قرآن محل کے مالک مولوی محمد سعید کی فرمائش پر آپ نے اس ادارہ سے شائع ہونے والے ماہنامہ پیام حق کی ادارت سنبھال لی۔ اور نہایت خاموشی کے ساتھ اس حیثیت سے تادم مرگ کام کرتے رہے۔ مولانا قاری احمد سے جب کوئی پیام حق کی پالیسی اور عقائد کے متعلق سوال کرتا تو آپ بغیر کسی بحث میں الجھے ہوئے فرماتے کہ پیٹ کے لئے حضرت علیؑ نے یہودیوں کے کھیتوں میں پانی دینے پر مزدوری اختیار کی تھی۔ میں تو ایک ادنیٰ مسلمان ہوں اور بھلا اللہ آج بھی اپنے جدِ امجد کے مسلک پر قائم ہوں، مگر مولانا کی یہ منطق کچھ فہم اور متشدد افراد کے لئے صرف ایک حیلہ کا درجہ رکھتی تھی۔ جبکہ مولانا نے پیام حق کے اداریوں اور مضامین میں کھل کر اپنے عقائد کا اظہار کیا۔ اور بر ملا علامہ فضل حق خیر آبادیؒ، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خانؒ اور حضرت محدث سورتی کے مسلک کو حق ثابت کیا۔ آپ نے قرآن محل سے وابستگی کے بعد تصانیف کثیرہ تلمبند فرمائیں۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ مولانا کا غرضی بازار کے علاقہ میں سورتی دواخانہ کے نام سے پابندی کے ساتھ ۲۵ سال مطب کرتے رہے۔ آپ نے بادامی مسجد میٹھا دار، ترک مسجد لی مارکیٹ اور رحمت مسجد بھیم پورہ میں بحیثیت خطیب خدمات انجام دیں۔ کسی سال سے قرآن حکیم کی تفسیر زیر قلم تھی کہ برف جمعہ تین بجے سپر ۱۳ مارچ ۱۹۶۶ء مطابق ۱۴ مئی ۱۹۶۶ء کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ اسی دن بعد نماز عشاء سخی حسن کے قبرستان واقع نارکو ناظم آباد میں

سپردہ خاک کیا گیا۔ روزنامہ جنگ کراچی، روزنامہ حریت کراچی، روزنامہ ڈان کراچی، روزنامہ مشرق کراچی، اور روزنامہ نوائے وقت لاہور نے مولانا کے انتقال کی خبر سیاہ حاشیہ میں شائع کی اور ان کی علمی خدمات کا اعتراف کیا۔ جناب احمد سعید خاں سعید پبلی بھتی نے قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے

مختصر تاریخ ہے مرحوم کی

کان حکمت مخزن علم و شعور

سال رحلت سے ہے ظاہر مغفرت

قاری احمد کل تھے اب عبدالغفورؒ

۱۳۹۶ھ

مولانا شاہ حسین گردیزی نے مولانا کی پہلی برسی پر ایک مضمون میں مولانا کی خدمت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ممتاز عالم دین اور مورخ اسلام مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھتی گذشتہ سال کراچی میں نہایت گمنامی اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کے بعد اس دار فانی سے عالم جاودانی کی سمت کوچ کر گئے۔ مولانا کی تمام زندگی فقہ اور تاریخ کی خدمت میں گذری اور وہ بھی اس انداز سے کہ نہ ستائش کی تمنا کی اور نہ کبھی صلہ کی پرواہ۔ نہایت خاموشی کے ساتھ لکھنے پڑھنے میں مصروف رہے یہی وجہ ہے کہ فقہ و تاریخ جیسے اہم موضوعات پر بائیس سے زائد ضخیم مسبوٹ کتابیں تحریر کرنے اور بیس سال سے زائد ایک رسالہ کی ادارت کے فرائض انجام دینے کے بعد ان کی شناسائی چند لوگوں تک محدود رہی اور بیشتر افراد کو گذشتہ سال ان کے انتقال پر اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے یہ علم ہوا کہ مولانا تصنیف و تالیف سے بھی شغف کرتے تھے۔ دراصل یہ مولانا کی اعلیٰ ظرفی اور حصولِ شہرت سے عدم دلچسپی کا نتیجہ تھا۔ کہ انہوں نے کبھی اپنی استعداد علمی اور معلومات وافرہ کے اظہار و نمائش کی ضرورت محسوس نہیں کی بلکہ

مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھتی مضمون شاہ حسین گردیزی مطبوعہ روزنامہ جنگ کراچی ۱۸ مئی ۱۹۶۶ء

قیام پاکستان کے بعد مولانا کے جن علماء و محققین سے دیرینہ مراسم قائم رہے ان میں مولانا عبدالحامد بدایونی، مولانا مفتی محمد عمر نعیمی، مولانا عبد السلام باندوی، مولانا محمد یعقوب حنیف القادری بدایونی، مولانا بہزاد لکھنوی، مولانا اطہر نعیمی، مولانا جمیل احمد نعیمی، مولانا تقدس علی خان بریلوی، پروفیسر محمد الیوب قادری، مفتی انتظام اللہ شہابی، جناب محمد علی خاں سب ایڈیٹر روزنامہ حریت، مولانا عبد الملک خلیف ترک مسجد، مولانا امجد العلی رامپوری، حکیم محمد یونس دلپزی، علامہ رشید ترائی، مولانا بشیر احمد نعیمی اور سید ضامن حسین گویا جہان آبادی کے نام سرفہرست ہیں۔

اولاد :-

صفیہ قاری ایم اے (تاریخ اسلام) زوجہ سلیم الدین خان۔ زاہرہ قاری بی بی اے بی ایڈ۔ شاہدہ قاری زوجہ خان صادق حسین خان۔ خالدہ قاری بی بی اے۔ راشدہ قاری ایم ایس سی زیر تعلیم۔ خواجہ رضی حیدر ایم اے سب ایڈیٹر روزنامہ حریت کراچی۔ وحی حیدر عمار ایف۔ اے زیر تعلیم۔ ولی حیدر ذاکر میٹرک زیر تعلیم۔

تصانیف :-

- ۱۔ مشاہدات حرمین، مطبوعہ افضل جیلانی اسٹور کاغذی بازار کراچی ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۲ء، صفحات ۲۸
- ۲۔ رحمتِ دو عالم، مطبوعہ مطبع سعیدی کراچی یکم شعبان ۱۳۴۳ھ، صفحات ۱۷۶
- ۳۔ حیاتِ مرتضیٰؑ، مطبوعہ مطبع سعیدی کراچی یکم جولائی ۱۹۵۵ء، صفحات ۶۸
- ۴۔ تاریخ اسلام، مطبوعہ قرآن محل کراچی ۱۹۵۶ء، صفحات ۷۵۲
- ۵۔ کتاب الصلوٰۃ، صفحات ۶۳
- ۶۔ کتاب الزکوٰۃ، ۳۸
- ۷۔ کتاب الایمان، مطبوعہ قرآن محل کراچی ۱۳۴۹ھ، ۶۳
- ۸۔ کتاب الجہاد، ۶۳
- ۹۔ کتاب الطہارت، ۶۳

- ۱۰۔ لغات الفرقان، مطبوعہ مطبع سعیدی کراچی ۵۹۲
- ۱۱۔ تاریخ انبیاء، ۱۹۶۲ء، ۵۱۲
- ۱۲۔ تاریخ مصطفیٰ، ۱۹۶۳ء، ۶۲۳
- ۱۳۔ تاریخ خلفائے راشدین، ۱۹۶۵ء، ۵۹۲
- ۱۴۔ تاریخ بنی امیہ، ۱۹۶۷ء، ۳۸۰
- ۱۵۔ نامور اصحاب رسول، ۱۶۰
- ۱۶۔ داتا گنج بخش لاہوری، مطبوعہ امین برادر س ۱۳۸۸ھ، ۱۷۶
- ۱۷۔ مخدوم صابر کلیری، ۱۶۰
- ۱۸۔ صحیح بخاری (ترجمہ)، مطبوعہ قرآن محل
- ۱۹۔ اسماء الرجال (ترجمہ)

۲۰۔ تاریخ ہندو پاک، مطبوعہ قرآن محل کراچی ۱۹۶۶ء، صفحات ۳۳۸
اس کے علاوہ مولانا حکیم قاری احمد کی غیر مطبوعہ تصانیف میں تاریخ روہیلکندہ، علمد تالبعین، تذکار محمدین، قہمدان (تائثراتی مضامین کا مجموعہ) اور قادیانی فتنہ کا ارتداد شامل ہیں جن کے قلمی مسودات آپ کے صاحبزادے ولی حیدر ذاکر کے پاس محفوظ ہیں۔ مولانا نے پیام حق کی اہلیت کے دوران مذہبی اور تاریخی موضوعات پر مختلف مضامین قلمبند کئے جنکی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ آجکی سال بسال قلمی ڈائریاں بھی موجود ہیں جن میں مولانا اپنی یادداشتیں قلمبند کیا کرتے تھے۔





مولانا محمد عبداللطیف سورتیؒ

مولانا محمد عبداللطیف سورتیؒ کا شمار اعلیٰ بیعت کے ممتاز علماء دین اور روسا میں ہوتا تھا۔ آپ حضرت محدث سورتی کے برادر خورد و اندام درس بھی تھے۔ جیسا کہ ذیل نظر تذکرہ کی ابتدا میں تحریر کیا گیا ہے کہ مولانا محمد عبداللطیف سورتی نے تکمیل علم دین کے بعد مستند مدرسہ مدرس کورونہ بننے کے بجائے تجارت کی طرف توجہ دی۔ ابتداء میں کپڑے کی تجارت اور بعد میں جنگلات کی ٹھیکیداری شروع کی۔ آپ نے دورہ حدیث مولانا عبدالمصطفیٰ لکھنوی فریضی علی سے پڑھا۔

اور ہمیشہ اس تعلق پر فخر مند رہے۔ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادیؒ سے آپ کو ارادت کا شرف حاصل تھا۔ جبکہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلویؒ، مولانا عبدالقادر بدایونیؒ، مولانا شاہ سلامت اللہ رامپوریؒ، مولانا ریاست علی خاں شاہچہاں پوریؒ، مولانا شاہ کرامت اللہ دہلویؒ، مولانا قاضی عبدالوحید عظیم آبادیؒ، مولانا خلیل الرحمن سہارنپوریؒ، مولانا حسن رضا خاں بریلویؒ وغیرہ سے آپ کے دیرینہ مراسم تھے۔ آپ نے تحریک رد و بائیت اور اصلاح ندوۃ العلماء میں سرگرم حصہ لیا جیسا کہ اس ضمن میں شائع ہونے والے رسائل سے ثابت ہے۔ حضرت محدث سورتی سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی چیز خریدنے تو رو لیتے ایک اپنے گھر لکھتے اور ایک بھائی کے گھر دیتے۔ مولانا حکیم تازی احمد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ بھائی کے احترام کا یہ عالم تھا کہ جب کسی مجلس میں شریک ہوتے تو بھائی کے جوتے اٹھا کر بغل میں دیا لیتے۔ پورے شہر چلی بیعت میں ان کی محبت اور احترام کا چرچا تھا۔ حضرت محدث سورتی کے وصال کے دن اپنی قبر بھی بھائی کی قبر کے برابر کھدوائی اور اس میں جو بھر کے بند کر دیا اور وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسی قبر میں اتارنا کیونکہ تہج میں بھی مر گیا ہوں۔ ۱۳۲۶ھ و جب المرجب ۱۳۲۶ھ کو انتقال کیا اور مجوزہ قبر میں سپرد خاک کئے گئے۔ آپ کی شادی جامع مسجد کے قریب ایک مغز خاندان میں ہوئی۔ آپ کی اہلیہ کا نام رابعہ خاتون تھا۔ بڑی نیک اور پابند صوم و صلوات خاتون تھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے شرف بیعت حاصل تھا۔ مولانا عبد اللطیف کے چھ صاحبزادے تھے جن کے حالات یہ ہیں۔

مولانا عبد الرحمنؒ

مولانا عبد اللطیف سورتی کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ ۱۳۲۲ھ میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی انصاری کی معیت میں حضرت محدث سورتی سے دورہ حدیث پڑھا اور مولانا شاہ سلامت اللہ رامپوریؒ نے دستار نسیبیت باندھی۔ اپنے والد کے ساتھ جنگلات کی ٹھیکیداری کرتے تھے۔ والدہ کے خاندان میں شادی ہوئی تھی۔ عالم جوانی میں اپنے والد کی حیات

میں انتقال کیا۔ بیوی کا نام فاطمہ تھا جو تمام عمر اپنے خسر کے گھرو میں۔ اور وہیں پر وفات پائی

مولانا عبدالحی

مولانا عبدالحی پبلی بھیتی کے تفصیلی حالات حضرت محدث سورتی کے تلامذہ میں درج ہیں۔ مولانا عبد اللطیف سورتی نے آپ کا نام اپنے استاد مولانا عبدالحی فرنگی علی کی نسبت سے رکھا تھا۔ تمام عمر علم دین کے فروغ کے لئے جدوجہد کرتے رہے اور حضرت محدث سورتی کے علمی جانشین قرار پائے۔ راقم الحروف کو جیلوں والے قبرستان واقع پبلی بھیت میں آپ کے مزار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کے سب سے بڑے فرزند مولوی عبد العلی اور رابعی میاں عرف چھوٹے بھائی پبلی بھیت میں مقیم ہیں اور کاہنہ بار کرتے ہیں جبکہ عبد العلی عرف برکات احمد کراچی میں ہیں۔ آپ کے پوتے عبدالولی بھی پبلی بھیت میں تجارت کرتے ہیں۔ ایک صاحبزادی ساجدہ بیگم کی کاہنہ میں شادی ہوئی تھی۔ اولاد کا پور میں مقیم ہیں۔

مولانا حافظ محمد ابراہیم

حضرت محدث سورتی کے شاگرد اور اپنے والد کے شریک کار تھے۔ پبلی بھیت کے روساہ میں شمار ہوتا تھا۔ آپ بھی کچھری روڈ پر آپ کا مکان پبلی کوٹھی کے نام سے معروف ہے۔ جس میں آپ کی دو صاحبزادیاں میمونہ خاتون اور توہمیدہ خاتون اپنے بھائی جناب محمد اسماعیل کے ساتھ مقیم ہیں۔ آپ کی ایک صاحبزادی صالحہ خاتون کی شادی فارسیٹ انجینیر و جاہت اللہ خان کے ہمراہ ہوئی تھی۔ جبکہ دوسری صاحبزادی محمودہ خاتون کی شادی اپنے عم زاد بھائی جناب غلام رضا عرف پیارے میاں سے کاہنہ میں ہوئی۔ میمونہ خاتون کی شادی نہیں ہوئی۔ آپ نہایت نیک پابند موم و صلوات اور فقر و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ راقم الحروف کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پبلی بھیت میں علمی و مذہبی حلقوں میں آپ کو خصوصی شہرت حاصل ہے۔ فاضل بیرونی کے صاحبزادے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان سے بیعت ہیں۔ اور ہر وقت مسلک اہلسنت کا دم بھرتی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے۔ جناب محمد اسماعیل نے علی گڑھ سے

ایم اے کیا اور پبلی بھیت میں لکڑی کی تجارت کرتے ہیں آپ کی شادی اپنی عم زاد بہن مسعودہ خاتون سے ہوئی ہے۔ حافظ محمد ابراہیم کا ۱۹۵۳ء میں پبلی بھیت میں وصال ہوا۔ مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت محدث سورتی کے مقبرے کے باہر جیلوں والے قبرستان میں سپرد قبور کئے گئے۔

مولانا عبدالحنان

حضرت محدث سورتی اور مولانا شاہ سلامت اللہ رامپوری سے کتب درسی نظامی کی تکمیل کی۔ نہایت پابند موم و صلوات اور با شرف بزرگ تھے۔ چھوٹوں کا نہایت شفقت اور علم آدین کا احترام آپ کے مزاج کا وصف خاص تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے شرف بیعت حاصل تھا۔ ابتدا میں اپنے والد کے ساتھ پبلی بھیت میں جنگلات کی تجارت کی اور جلد خیال اور بہار تک آپ کا لاہور پھیل گیا۔ کانپور کے ایک رئیس شیخ عزیز اللہ کی صاحبزادی سے عقد ہوا۔ بعد میں کانپور کی بانس منڈی میں لکڑی کی تجارت شروع کی اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ حجۃ الاسلام مولانا صاحب رضا خان بریلوی اور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی سے خصوصی مراسم تھے۔ سادہ و عفت کی حضرات کانپور میں آپ کی رہائش گاہ پر قیام کرتے تھے۔ مولانا عبدالحنان کا ستر سال کی عمر میں ۸ فروری ۱۹۷۱ء کو کانپور میں انتقال ہوا۔ تین صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں ہیں جناب غلام رضا عرف پیارے میاں، غلام مصطفیٰ اور غلام بھتی، سب کانپور میں مقیم ہیں۔ اور بانس منڈی میں آبائی تجارت سے وابستہ ہیں۔ جناب غلام رضا عرف پیارے میاں کانپور کے علمی و ادبی حلقوں میں نمایاں شہرت کے حامل ہیں۔ اور راقم الحروف پر خصوصی شفقت فرماتے ہیں۔

مولانا عبد السبحان

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے برادر بزرگ مولانا عبدالحی سے حاصل کی۔ اور ودیۃ حدیث حضرت محدث سورتی سے پڑھا۔ نہایت وجیہ اور سرخ و سفید تھے۔ اسی بنا پر لال بھائی کے نام سے مشہور ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد کثرت دولت کی وجہ سے خرافات کا شکار ہوئے دیگر افراد خاندان کے مقابلے میں شہر میں اچھی شہرت نہ ہونے کے باوجود لوگ احترام میں کوئی فرق

نہ آنے دیتے۔ نہایت سخی۔ حسن اخلاق سے آراستہ اور محبت و شفقت سے معمور طبیعت پائی تھی۔ سلطان الراءعظین مولانا عبد الاحد کی تمام اولادوں سے خصوصی محبت فرماتے تھے ۱۹۰۷ء میں انتقال فرمایا۔ مفتی اعظم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور بیلوں والے قبرستان میں سپرد قبر کئے گئے۔ راقم الحروف کی آپ کے صاحبزادے عرفان میاں اور صاحبزادی حبیبہ بیگم سے پہلی بھیت میں ملاقات ہوئی۔ حبیبہ بیگم کی کانپور میں جناب محمد ذکریا سے شادی ہوئی اور وہ کانپور میں ہی مستقل رہتی ہیں جبکہ عرفان میاں پہلی بھیت میں اپنی دیگر بہنوں کے ساتھ مقیم ہیں اور تجارت کرتے ہیں۔

مولانا عبد الحمید

مولانا عبد الحمید عرف اچھے بھائی مولانا عبد اللطیف سودقی کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ مذہبی امور کے علاوہ انگریزی زبان سے بھی واقفیت حاصل تھی۔ جنگلات کی تجارت ذریعہ معاش تھا۔ مولانا حکیم قاری احمد پہلی بھیت میں لکھنے کے بڑے مفتی ہجوم و صلوة کے پابند اور باشرع بزرگ تھے۔ کانپور میں شادی ہوئی دسمبر ۱۹۶۳ء میں انتقال ہوا اور بیلوں والے قبرستان میں سپرد قبر کئے گئے۔ تین صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں یادگار چھوڑی ہیں۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہیں۔ محمد طاہر، محمد قاسم اور محمد طیب صاحبزادوں کے نام یہ ہیں۔ حسینہ بیگم، نفیسہ بیگم اور سکینہ بیگم۔ مولانا عبد الحمید نے اپنے صاحبزادوں کے نام اپنے اجداد کی مناسبت سے رکھے تھے۔

راقم الحروف کو ۱۹۶۹ء اکثر برہمنی آپ کی اولادوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ محمد قاسم کا انتقال ہو چکا ہے۔ جبکہ محمد طاہر اور محمد طیب پہلی بھیت میں مقیم ہیں۔ آپ کی طبیعت میں اسلاف کی سی شرافت نفاست بردباری شفقت اور محبت کی فراوانی ہے۔ راقم الحروف کو پہلی مرتبہ دیکھنے کے باوجود جس محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا وہ میرے دل و دماغ کے لئے نشاط و دام کا درجہ رکھتی ہے۔ محمد طاہر صاحب جنگلات کی ٹھیکیداری کرتے ہیں۔ جبکہ محمد طیب صاحب اسلام آباد کالج پہلی بھیت میں انگریزی کے پروفیسر ہیں۔ دونوں حضرات مسلک اہل سنت پر نہ صرف خود سختی سے کاربند ہیں بلکہ اس کی اشاعت و ترویج میں بھی بڑھ

بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ محمد طاہر صاحب کی شادی پہلی بھیت کی ایک بستی پر لیواریش کے معزز پٹھان عبدالاحد خان کی صاحبزادی رونق جہاں سے ہوئی ہے۔ نہایت بااخلاق اور پر شفقت خاتون ہیں۔ تین بچے ہیں۔ ایک لڑکا اور دو لڑکیاں۔ لڑکا محمد اقبال طاہر لکھنؤ کے ایک اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ محمد طیب کی شادی علی گڑھ کے پروفیسر کی صاحبزادی سے ہوئی ہے۔ حوا علی تعلیم و اخلاق سے بہرہ ور ہیں۔ حسینہ بیگم کی شادی سلطان الراءعظین مولانا عبد الاحد کے صاحبزادے مولانا فضل احمد صوفی مرحوم سے ہوئی تھی۔ نفیسہ بیگم کی شادی پہلی بھیت کے حاجی فقیر محمد کے فرزند مرحوم حبیب احمد سے ہوئی تھی۔ سکینہ بیگم کی شادی لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ حسینہ بیگم اپنے فرزند ارجمند معین احمد صوفی کے ساتھ محمد طاہر اور محمد طیب کے ہمراہ پہلی بھیت کے محلہ محمد واصل خان میں رہتی ہیں۔



مدرستہ الحدیث سیلاب کی زد میں

حضرت محدث سورتی نے تقریباً چالیس سال پہلی بحیثیت میں دس حدیث دیا۔ مدرسہ الحدیث میں آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے مولانا عبدالاحد شیخ الحدیث ہوئے اور تقریباً دس سال یہ مدرسہ اسی آن بان سے احادیث رسول سے مسلمانوں کے قلوب کو منور کرتا رہا۔ ۱۹۲۳ء میں پہلی بحیثیت میں شدید سیلاب اور زلزلہ آیا جس میں یہ مدرسہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ بعد میں علماء و اکابر کے اصرار پر سلطان الاعظین مولانا عبدالاحد نے اس کی از سر نو تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور حصول عطیات کے لئے ایک اپیل مولانا فضل احمد شاہ مانامیاں قادری فضل رحمانی کی جانب سے شائع کی گئی۔ یہ اپیل حضرت محدث سورتی کی حیات و خدمات کے سلسلہ میں ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ حضرت محدث سورتی کی شخصیت کے بہت سے گوشے اس سے سامنے آتے ہیں۔ یہاں پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس اپیل کا مکمل متن درج کر دیا جائے تاکہ تمام حقائق کھل کر سامنے آجائیں۔

مدرستہ الحدیث کی از سر نو تعمیر

حضرات یہ وہ قدیمی دینی درسگاہ ہے جس میں چالیس سال تک حدیث نبوی کے درس کا دیباہہ آتا رہا اور نہایت اہتمام سے اس کے دور کا دورہ جاری رہا۔ یہ اس کے بانی اعظم کے چشمہ فیض کا اثر تھا کہ جس نے احادیث کے برکات سے ایک عالم کو سیراب کیا اور وہ حدیث

مذہب و ملت فرمائی کہ آج اس کا سکہ عرب سے عجم تک اور شرق سے غرب تک جاری ہے گویا اپنی تمام عمر خدمت دین کے لئے وقف فرمادی۔ یہ وہی درسگاہ ہے جس نے زبردست اکابر علماء تیار کر کے خدمت دین و مذہب کے لئے ہندوستان کی نذر کر دیئے یہ علماء آج علم دین کی حمایت و حفاظت میں شب و روز مصروف و مشغول ہیں چند علماء کے اسما و گرامی یہ ہیں۔ مولانا مفتی عبدالقادر لاہوری، مولانا سید محمد کچھوچھوی، مولانا محمد علی اعظمی صدر مدرس مدرسہ معینیہ عثمانیہ اجیر شریف، مولانا سید سلیمان اشرف بہاری پروفیسر دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، مولانا ظفر الدین بہاری پروفیسر کالج بانکی پور، مولانا محمد رشید، صاحبزادہ مولانا خادم حسین پسر حضرت مولانا سید پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، مولانا مصباح الحسن پھونڈوی، مولانا ضیاء الدین پہلی بحیثیت سابق ایڈیٹر تحفہ حنفیہ پٹنہ، مولانا عبدالملک پہلی بحیثیت، مولانا ضیاء الدین مدنی حکیم حبیب الرحمن خان، مولانا عبداللہ پشوری، مولانا مصباح القیوم اورنگ آبادی ضلع بلنہ شہر، مولانا سید حسین احمد منوٹھی ضلع بجنور، مولانا محمد امین چائل ضلع الہ آباد، مولانا محمد زمان خان مدرس مدرسہ کانپور، مولانا محمد عمر اللہ آبادی، مولانا قمر علی راولپنڈی، مولانا محمد مسعود سیالکوٹی، مولانا عبدالملک ضلع آسام، مولانا عبدالمسیح پہلی بحیثیت، مولانا محمد اسماعیل محمود آبادی استاد قناب صاحب، یا سرت جلال آباد، مولانا ولی الرحمن پوکھیروی وغیرہ۔ یہ وہ اجل علماء ہند ہیں جن کی عالم تہیں دس ہے یہ اسی مدرسہ الحدیث کے تابندہ چاند ہیں جو اپنی تابشوں سے قلوب مومنین کو منور کئے ہوئے ہیں۔ اور جن کی تربیت اسی مدرسہ کے بانی اعظم حضرت مولانا وحی احمد محدث سورتی قدس سرہ کے ذہن فیض اثر سے ہوئی۔

حضرت محدث سورتی کی وہ ذات مبارک تھی جس کی ایک کتبلی تو کلام مذہب تھے تو دوسری جانب آپ کی وہ تعانیف و تالیفات ہیں جو آج بھی حرمین شریفین و جامع ازہر و بلخ و بخارا تک کی درسگاہوں میں داخل لغاب اور وہاں کے کتب خانوں کی زینت ہیں۔ مثلاً حاشیہ طحاوی حاشیہ نسائی، حاشیہ شروح اربعہ ترمذی، تعلق المبتدی بر منیہ المصلیٰ، حاشیہ مدارک، حاشیہ

مقاماتِ حریری، حاشیہ شافیہ و جامع الشواہد وغیرہم، حضرت محدث سودقی کی درسگاہ، ہندوستان میں ایک اسلامی یادگار تھی۔ سوئے اتفاق کہ دفنِ آرزمانہ سے اس میں کچھ پستی آچلی تھی گو بظاہر اس کی فکر تھی، مگر تقدیر نے اپنا زبردست قلم چلایا اور پہلی بھیت میں زلزلہ و سیلاب آیا جس سے شہر میں دیگر نقصانات کے علاوہ یہ غریب مدرسہ بھی اس کی نذر ہو گیا سوا سکی اور سرِ تعمیر کا مسئلہ اب درپیش ہے تعمیری کام شروع ہو چکا ہے مگر اب بھی ہتوز باقی ہے۔ صاحبانِ خیر سے درخواست ہے کہ وہ اس کا خیر میں حصہ لیں۔

(المعلمین: مولانا) فضل العمد قادری فضل رحمان (دانا میاں) خادم مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت) اس اپیل کے آخر میں علامتِ عظیم البرکت کے صاحبزادے محبت الاسلام حضرت مولانا شاہ محمد حامد رضا خان بریلوی کی تقریظ بھی درج ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ "حضرت مولانا سیدنا شاہ محمد وحسی احمد محدث سودقی قدس سرہ العزیز کا نام نامی اور اسم گرامی آسمانِ عالم کا چاند ہو کر چمکا علمی دنیا میں آپ کے کاٹنے اپنی تابشوں کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ آپ کی تدریس و تصنیف کی ضیاء باریاں آفاق عالم کو جگمگا رہی ہیں۔ مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت آپ ہی کا مدرسہ ہے آپ کے عہدِ برکت عہد میں اس ایشیاء فیوض و برکات سے علوم و فنون کے پیاسے سیراب ہوتے رہے انوس اور ہزار انوس کہ اب وہ حشرِ شہدِ ہایت علم کی کساد بازاری اور قوم کی تغافل شکاری کے ہاتھوں ناگفتہ بہ حالت میں ہے۔ برادرانِ اہلسنت کو اس کی جانب ہاتھ پڑھانا اور حضرت محدث سودقی قدس سرہ کے فیوض و برکات کو از سر نو زندہ کرنا اور ان کی یادگار کو باقی رکھنا اپنا اولین فرض سمجھنا چاہیے۔ فقیر کی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب فرمائے۔ اور مدرسۃ الحدیث کو اپنی رعایاتِ قدیمہ کے موافق مدرسۃ الحدیث بل جمیع العلوم من القدریم والحدیث بنائے اور اسے حامی سنت ماحسی کفر و بدعت اخینا فی الدین مولانا عبدالاحد سلطان الواعظین کی سخی جمیل و بہت عظیمہ سے حضرت محدث سودقی قدس سرہ کے فیوضِ ظاہری و باطنی کے ساتھ "صورۃ و معنی" تعمیر و تعلیم سے معمور کر دے۔ آمین۔

(فقیر: حامد رضا خان قادری رضوی بریلوی خادم سجادہ و گدائے آستانہ عالیہ رضوی بریلی)



تلامذہ

حضرت محدث سودقی نے ایسے دو دیں جبکہ برصغیر کے مسلمانوں کے شفق بار چہرے محمدش لیل و نہار کا مرثیہ دکھائی دیتے تھے علم حدیث کے وہ چراغ روشن کے سخن کی تابانی سے آج بھی ظلمتِ شب کا سینہ بقرہ نور بنا ہوا ہے۔ جس طرح شجرۃ لنب باعدش فخر و تمکنت ہے اسی طرح چراغ سے چراغ جلنا بھی وجہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت محدث سودقی نے علم حدیث کے جو چراغ روشن کئے ان سے اکتساب نور کرنا چاہیں آج بھی جہالت کی تاریکی میں فانوس کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر محدث سودقی کے علمی اور روحانی رشتوں پر نظر ڈالی جائے تو ذیلی اور بالائی دونوں سمتوں میں علم و عرفان کے دریا بہت بڑھ کر نظر آتے ہیں حضرت سے دورۃ حدیث پڑھنے والوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے لیکن استادِ زمانہ اور مورخ کی مستقل خاموشی نے گذشتہ سو سال کی تاریخ کو کچھ اس طرح دریا برد کر دیا ہے کہ سطح آب پر کوئی نقش ابھرتا ہی نہیں۔ حضرت محدث سودقی کے تلامذہ نے درس و تدریس اور تصنیف تالیف کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں لیکن ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ چند تلامذہ کے حالات اور اسمائے گرامی بعد تلاش و جستجو میسر آسکے ہیں۔ جن کو یہاں درج کیا جا رہا ہے۔

مولانا محمد علی اعظمی انصاریؒ

مولانا محمد علی اعظمی ۱۲۹۶ء میں یوپی کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے گھوسی کے محلہ کریم الدین میں پیدا ہوئے۔ آپ فات کے انصاری تھے۔ ابتدائی کتب اپنے رشتہ کے بھائی مولوی محمد صدیق سے پڑھیں۔ اور پھر انہیں کی ایما پر مدرسہ حنفیہ جو نپور میں داخلہ لیا۔ جہاں مولانا ہدایت اللہ خان رامپوری سے اکتساب فیض کے بعد آپ حجۃ العرش شیخ الحدیث مولانا وصی احمد محدث سورتی کی خدمت میں پہلی بھیت حاضر ہوئے۔ اور مدرسہ الحدیث میں دورہ حدیث مکمل کر کے ۱۳۲۲ء میں سند حدیث حاصل کی۔ اس موقع پر مولانا سلامت اللہ رامپوری نے فرمایا: "فیصلت آپ کے زینب سرکی۔ بعد میں محدث سورتی کے مشورہ پر لکھنؤ گئے جہاں حکیم عبدالغفری نے کہا جناب حکیم عبدالولی جھوانی ٹولہ سے علم طب حاصل کیا اور مدرسہ الحدیث پہلی بھیت میں درس و تدریس کا آغاز کیا۔ ۱۳۲۶ء میں پٹنہ گئے اور وہاں پر مطب شروع کیا۔ اس دوران اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان کو مدرسہ منظر الامم بریلی کے لئے ایک مدرس کی ضرورت پیش آئی اور آپ نے اس سلسلہ میں حضرت محدث سورتی سے رجوع کیا۔ حضرت محدث سورتی نے مولانا محمد علی کا نام پیش کیا چنانچہ آپ فوری طور پر مطب چھوڑ کر پٹنہ سے بریلی آئے اور درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اس دوران آپ اعلیٰ حضرت کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ اور خلافت سے نوازا گئے۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کو صدر الشریعہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ ۱۳۳۳ء میں دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کھڑا مدرس کی حیثیت سے اجیر چلے گئے۔ ۱۳۵۱ء میں پھر بریلی واپس آ گئے اور تین سال قیام کے بعد نواب حاجی غلام محمد خاں شیروانی رئیس ریاست دادوں (علیگڑھ) کی فرمائش پر دارالعلوم حافظیہ سیدیہ علی گڑھ میں سات سال تک بحیثیت مدرس مدرسہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ ۱۳۶۱ء میں مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کے لئے بریلی سے روانہ ہوئے اور ہمیں پہنچ کر بیجا م جل آیا اور ۷ روزی بعد ۱۳۶۶ء کو بروز دوشنبہ عالم جاودانی کی طرف تشریف لے گئے۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ **إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ** - بلکہ تارک ہے۔ بہار شریعت آپ کی شہرہ آفاق تصنیف ہے جو سترو حصوں میں

شائع ہو چکی ہے: اس کتاب کے آخر میں آپ نے اپنے استاد مولانا وصی احمد محدث سورتی کو خراج عقیدت پیش کیلئے۔ تلامذہ میں مولانا سرور احمد لیلی پوری، مولانا حسنت علی خاں لکھنوی، مولانا فاقہ حسین مفتی اعظم کانپور، مفتی وقار الدین سیلی بھیتی، مولانا تقدس علی خان مولانا عبدالمصطفیٰ ازہری، مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی، مولانا قاری غلام محی الدین سیلی بھیتی، مولانا عبدالغفری مبارکپوری کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ مزید تفصیلات کے لئے دیکھیں۔
ہاشمی ہندوستان، مطبوعہ مکتبہ قادریہ لاہور ۱۹۴۳ء
تذکرہ علماء اہلسنت، مطبوعہ کانپور ۱۳۹۱ء

سوانح حیات اعلیٰ حضرت مکتبہ شاہ مانا میاں سیلی بھیتی، مطبوعہ کراچی ۱۳۹۰ء۔

مولانا حبیب الرحمن خان سیلی بھیتیؒ

مولانا حبیب الرحمن کا شمار پہلی بھیت کے ممتاز علماء میں ہوتا ہے۔ آپ نے علم حدیث حضرت محدث سورتی سے اور علم طب حکیم عبدالرشید جھوانی ٹولہ لکھنؤ سے حاصل کیا۔ مدرسہ الحدیث سے درس و تدریس کا آغاز کیا اور جلد ہی مدرسین میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ فاضل بریلوی سے ارادت و خلافت حاصل تھی۔ پہلی بھیت کے بزرگ حضرت شاہ جی شیرمیاں آپ کے ماموں تھے۔ چنانچہ ۱۳۵۱ء مطابق ۱۹۳۲ء میں آپ نے شاہ جی شیرمیاں کے فرار سے متصل ایک مدرسہ قائم کیا جس کا تاریخی نام حافظ پہلی بھیتی ہے۔ مدرسہ آستانہ شیرین تجویز کیا آپ نہایت ملنسار بااخلاق با وضع اور پورے شہر میں مقبول و محبوب شخصیت تھے۔ آپ کے تلامذہ میں مولانا وقار الدین سیلی بھیتی، مولانا عبدالرشید سیلی بھیتی اور مولانا انوار احمد مدرس مدرسہ بصیرت پہلی بھیت کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن کا وصال ۱۹۴۳ء میں ہوا۔ اود اپنے ذاتی باغ میں سپرد خاک کئے گئے۔

مولانا سید خادم حسین محدث علی پوریؒ

مولانا سید خادم حسین ولد پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری تقریباً ۱۳۹۲ء میں

پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علی پور سیالکوٹ میں حاصل کی حافظ قاری شہاب الدین سے کلام مجید حفظ کیا اور لاہور آکر اور نیشنل کالج لاہور سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ بعد میں تحفیل و تکمیل علم کے لئے کانپور پہنچے اور کچھ دن قیام کے بعد حضرت محدث سورتی کی خدمت میں حاضر ہو کر دورہ حدیث کی سند حاصل کی آپ نہایت ذہین اور لائق طالب علم تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت محدث سورتی آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ منیۃ المصلیٰ کی تدریس کے دوران آپ کی گذارش پر حضرت محدث سورتی نے منیۃ المصلیٰ کی شرح التعلیق الجملیٰ کے نام سے لکھی اور اس کی غرض تصنیف بیان کرتے ہوئے اپنے شاگرد عزیز مولانا سید خادم حسین کی ذہانت کی تعریف کی ہے۔ آپ کے مہدرس طلبہ میں مولانا ضیاء الدین مدنی اور مولانا فضل حق رحمانی شامل تھے۔ سیرت امیر ملت کے مولفین نے مولانا خادم حسین کے ضمن میں حضرت محدث سورتی کا تذکرہ نہیں کیا جبکہ مولانا محمود احمد قادری نے تذکرہ علماء اہلسنت میں مولانا سید خادم حسین کو حضرت محدث کا شاگرد لکھا ہے مولانا سید خادم حسین نے فراغت علم کے بعد درس و تدریس کو اپنا مشغلہ بنالیا اور مدرسہ نقشبندیہ علی پور سیداں میں ایک عرصہ تک آپ کا فیض جاری رہا۔ آپ کو مطالعہ کالج پناہ شرقی تھا چنانچہ آپ نے نادر اور قیمتی کتب کا ایک قابل قدر ذخیرہ جمع کیا تھا۔ جو بعد میں مدرسہ نقشبندیہ کے لئے وقف کر دیا۔ آپ ریل کے ایک حادثہ میں شدید زخمی ہو کر ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا سید نذر حسین شاہ آپ کے علمی جانشین ہیں۔

قاضی خلیل الدین حسن حافظ پبلی بھٹی

قاضی خلیل الدین حسن حافظ پبلی بھٹی اردو کے نعت گو شعرا میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آپ ۱۸۶۶ء میں پبلی بھیت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اور مائوں قاضی ممتاز حسین سے حاصل کی۔ نو عمر کی ہی شعر کہنے لگے تھے۔ حضرت

ملہ۔ سیرت امیر ملت ص ۶۹ موکد سید اختر حسین دہلوی فرما رہے ہیں کہ مولانا سید نذر حسین ۱۸۶۶ء

محدث سورتی سے درس نظامی کی ابتدائی کتب پڑھنے کے بعد دورہ حدیث پڑھا۔ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے شرف بیعت حاصل تھا۔ جبکہ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری و دیگر علمائے بڑے دیرینہ مراسم تھے۔ مولانا امیر مینائی اور داغ دہلوی آپ کے لغتیا شعار کے ہمیشہ مداح رہے۔ قاضی صاحب کی بعض مندرجہ کتابوں پر تقریبات موجود ہیں۔ آپ خود کو خاک پائے حضرت محدث سورتی تحریر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا کلام انیس دو آئین پر مشتمل ہے جن میں سے نعت مقبول خدا ۳۰۳ھ، نعت روح ۳۰۹ھ، ختمانہ حجاز ۳۱۵ھ، آئینہ پیغمبر ۳۳۳ھ، بیاض نعت ۳۳۲ھ، نعت جگر دوز ۳۳۵ھ، لذت درد ۳۳۸ھ اور ختمانہ خلد ۳۳۷ھ میں نظامی پریس بدایوں اور مطبع حسنی پریس بریل سے طبع ہو چکے ہیں آپ کا وصال ۹ دسمبر ۱۹۲۹ء بمطابق ۲۷ رجب المرجب ۱۳۴۸ھ کو پبلی بھیت میں ہوا۔

سید محمد محدث کچھوچھوی

مولانا سید محمد محدث کچھوچھوی ابن مولانا حکیم نذرا شرف ۵ اذلیقہ بروز شنبہ ۱۳۱۸ھ بمقام جالس ضلع بریلی پیدا ہوئے۔ ابتدائی کتابیں اپنے والد صاحب سے اور درس نظامی کی کچھ کتابیں مدرسہ نظامیہ فرنگی محل کے اساتذہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی وغیرہ سے پڑھیں علی گڑھ میں مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی سے شرح تہذیب اور افتا السہین پڑھ کر سند فراغ حاصل کی پبلی بھیت میں حضرت محدث سورتی کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث پڑھی اور سند حاصل کی اور دہلی میں اپنے اساتذہ کے مدرسہ الحدیث کی ایک شاخ قائم کر کے معاشی کا آغاز کیا۔ اپنے مائوں مولانا شاہ احمد شرف سے مرید ہو کر تکمیل سلوک کیا اور درجہ کمال کو پہنچے، نظم و نثر دونوں پر کمال دسترس حاصل تھی۔ مجموعہ کلام فرشتہ و فرشتہ کے نام سے طبع ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ فاضل بریلوی سے بھی اجازت حاصل تھی۔ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست مخالف اور تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے۔ ۱۹۴۶ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس

کے اجلاس منعقدہ بنارس کے موقع پر کانفرنس کے صدر عمومی مقرر کئے گئے اور کانفرنس میں جو خطبہ پیش کیا وہ تحریک پاکستان کی دستاویز میں بڑی اہمیت کا حامل ہے مولانا سید محمد محدث کچھوچھوی نے اپنے استاد حضرت محدث سورتی کا ذکر خیر اپنی تحریروں میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ کیا ہے اور ۱۳۹۹ھ ناگپور میں جشنِ ولادتِ احمد احمد رضا کے موقع پر لے کر صدارتی خطبہ میں حضرت محدث سورتی کو فخریہ حدیث کا امام تحریر فرمایا ہے۔

مولانا سید محمد محدث کچھوچھوی کا وصال، ۱۳۸۳ھ رجب المرجب ۱۳۸۳ھ بمقام لکھنؤ ہوا۔ کچھوچھوچھوی میں تدفین ہوئی۔ مولانا سید محمد ہدائی فرزند ثالث جانشین ہیں۔

پروفیسر سلیمان اشرف بہاری

حضرت محدث سورتی کے تلامذہ میں مولانا سید سلیمان اشرف بہاری کا ذکر بڑی اہمیت کا حامل کیونکہ آپ علوم دینی کے ساتھ ساتھ علوم دنیوی پر بھی گہری نگاہ رکھتے تھے اور شاید اس کی وجہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ کی بحیثیت استاد و لیسٹی تھی جہاں آپ کو خالصتاً دنیاوی نفع پر سوچنے والے افراد سے سابقہ پڑتا تھا اور آپ کی روحانی تشنگی کا ازالہ فرماتے تھے۔ مولانا سید سلیمان اشرف ۱۸۶۸ء میں صوبہ بہار کے ایک دیہات میراد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار حکیم سید محمد عبداللہ سے حاصل کی جو جامع الصفات شخصیت کے مالک تھے۔ کچھ کتابیں مولانا محمد حسن استھانوی سے پڑھیں اور پھر ملائہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد مولانا ہدایت اللہ جو پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے جہاں علوم اسلامیہ اور منطق فلسفہ کی تمام کتابیں مکمل کیں اور مولانا جو پوری کے ایما پر دوہ حدیث کے لئے حضرت محدث سورتی کے پاس پہلی بحیثیت پہنچے۔ حضرت محدث سورتی آپ کی ذکاوت علمی سے بے پناہ متاثر ہوئے اور نہایت شفقت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے۔ تقریباً پچیسلی بحیثیت میں ایک سال قیام کے دوران ہر جمعرات کو مولانا سید سلیمان اشرف بہاری صاحب خان کی خدمت عالیہ میں حاضر کیے لئے حضرت محدث سورتی کے ہمراہ بریلی جاتے۔ دورہ

سہ - المیزان بمبئی ۲۴ - ۱۳۴۰ - امام احمد رضا نمبر

حدیث کی تکمیل پر آپ جب بریلی حاضر ہوئے تو مولانا سید سلیمان اشرف نے اپنے دست مبارک سے آپ کے سر پر دستار فضیلت باندھی اور اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ مولانا سید سلیمان اشرف کو مولانا سید سلیمان اشرف نے بے پناہ عشق تھا اور اس عشق کا آپ بر ملا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ مفاسد ندوۃ العلماء کو عام کرنے اور عوام اہلسنت کو اس کی تائید سے باز رکھنے کی تحریک میں آپ نے اپنی طالب علمی کے زمانہ میں ہی حصہ لینا شروع کر دیا تھا جب ۱۳۲۰ھ بمطابق اکتوبر ۱۳۲۰ھ آپ اپنے استاد محدث سورتی کے ہمراہ مجلس علمائے حنفیہ امرتسر کی دعوت پر امرتسر پہنچے اور سن کانفرنس میں حصہ لے کر مسجد مہر آفتاب امرتسر میں مفاسد ندوہ پر نہایت مالانہ تقریر کی۔

مولانا سید سلیمان اشرف نے دورہ حدیث کی تکمیل کے بعد جو پور میں اپنے استاد مولانا ہدایت اللہ جو پوری کے مدرسہ سے تدریس کا آغاز کیا اور ۱۳۲۰ھ میں مولانا کی وفات کے بعد ایم اے اور کالج علی گڑھ کے شعبہ دینیات سے بحیثیت استاد وابستہ ہو گئے علی گڑھ پہنچ کر آپ نے نماز عصر کے بعد درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جس میں علی گڑھ کے طلباء کے علاوہ مدرسین اور منتظمین بھی کثرت سے شرکت کیا کرتے تھے۔ مولانا سید سلیمان اشرف کی علی گڑھ سے وابستگی یا الین معنی کرامات اولیاء میں داخل تھی کیونکہ اس دورہ پر فتن میں جبکہ ہر طرف سے اسلام پر اور خصوصاً تقلید آئمہ اربعہ پر یلغار ہو رہی تھی اور نام نہاد علماء کا ایک طبقہ مقام مصطفیٰ کو لغو ذبا اللہ گنہانے کی فکر میں صبح و شام معروف عمل تھا۔ مولانا سید سلیمان اشرف بلا کم و کاست اور بغیر اہمیت سے صرف ان کے خلاف سیز سپر تھے بلکہ فقہ حنفی کے متصائب پر و کار بھی تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام جن افراد کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا ان کے عقائد و نظریات سے کون واقف نہیں تھا۔ خود مولانا ان کے بارے میں بڑے واضح نظریات رکھتے تھے اور ان کا بر ملا اظہار بھی کرتے تھے لیکن آپ کی حرارت ایمانی کے آگے کسی کی کیا مجال کہ حرف آرائی کر سکے۔ پروفیسر رشید محمد صدیقی نے گنجانے گرانمایہ میں مولانا سید سلیمان اشرف کے بارے میں اپنے تاثرات کے ضمن

سہ رویت و جملہ علماء اجلاس و مطبوعہ مطبع حنفیہ چٹنہ ۱۳۳۰ھ

میں تحریک متحرک موالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "۱۹۲۱ء کا زمانہ ہے نان کو آپریشن کا سیلاب اپنی پوری طاقت پر ہے گائے کی قربانی اور موالات پر بڑے بڑے جید اور مستند لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے اور اس زمانے کے اخبارات تقاریر نقائیف اور رجحانات کا اب اندازہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کیا سے کیا ہو گیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہونا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ یہی باتیں ٹھیک ہیں ان کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کالج میں عجیب فراتفری پھیلی ہوئی تھی مرحوم (مولانا سید سلیمان اشرف) ملعون ہو رہے تھے لیکن چہرے پر کوئی اثر تھا اور نہ معمولات میں کوئی فرق۔ سیلاب گزر گیا۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب ہی ہوا لیکن مرحوم نے اس عہد سراہیگی میں جو کچھ لکھ دیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی۔ اس کا ایک ایک حرف صحیح تھا۔ آج تک اس کی سچائی اپنی جگہ قائم ہے۔ سارے علماء سیلاب کی زد میں آپکے تھے صرف مرحوم اپنی جگہ پر قائم تھے۔"

مولانا سید سلیمان اشرف نے علی گڑھ کی ملازمت کے باوجود اپنے دور کی تمام تحریکوں میں کھل کر حصہ لیا اور اپنے موقف کا واضح اعلان کیا۔ اور یہی آپ کی شخصیت کا حسن تھا جس کے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی۔ نواب محسن الملک اور دیگر افراد ہمیشہ اسیر رہے۔ آپ نے ۱۹۳۹ء میں بریلی کے مقام پر ابوالکلام آزاد سے ترک موالات۔ ذبیحہ گاہ پر پابندی اور کانگریس سے الحاق و اتحاد کے موضوع پر مناظرہ کر کے ابوالکلام کو تاریخی شکست سے ہمکنار کیا۔"

مولانا سید سلیمان اشرف کثیر التصانیف عالم دین تھے لیکن آپ کی بن کتابوں کو شہرت دوام حاصل ہوئی ان میں البین (سولی فیلا لوجی پر تحقیقی مقالہ) النور (دو قومی نظریہ کی وضاحت میں) اور امیر خسرو کی مشنوزی بہشت بہشت پر طویل مقدمہ شامل ہے آپ کے تلامذہ میں یوں تو علی گڑھ یونیورسٹی کا برطاب علم شامل تھا لیکن ڈاکٹر فضل الرحمن

سہ گنجائے گزنیابہ ۲۶ پر پروفیسر رشید احمد صدیقی مطبوعہ فرینڈز پبلشرز ڈاؤن ٹاؤن لاہور ۱۹۵۳ء
سہ ابوالکلام کی تاریخی شکست کے عنوان پر مولانا محمد جلال الدین قادری کی ایک مفصل کتاب
مکتبہ رضویہ ۲/۷۴ سو ڈیوال کالونی ملتان روڈ لاہور سے شائع ہو چکی ہے۔

انصاری، پروفیسر رشید احمد صدیقی، قاری محمد انور محمدانی مجراتی۔ ڈاکٹر سید عابد علی اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی قابل ذکر ہیں۔ مولانا کا وصال ۲۵ اپریل ۱۹۳۹ء کو ہوا اور علی گڑھ میں ہی تدفین عمل میں آئی۔

مولانا ضیاء الدین مدنی

مولانا ضیاء الدین مدنی ولد شیخ عبدالعزیز اگست ۱۸۹۲ء بمقام تلاش والا ضلع سیالکوٹ پیدا ہوئے آپ سیدنا عبدالرحمن بن حضرت صدیق اکبرؓ کی اولاد میں سے ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی کے اجداد میں اپنے وقت کے مشہور عالم دین حضرت مولانا عبدالملکیم بھی شامل ہیں جن کے خیالی اور قطب پر حواشی اہل علم کے لئے سند کا درجہ رکھتے ہیں مولانا محمود احمد قادری نے لکھا ہے کہ مولانا عبدالملکیم حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے معاصر تھے اور حضرت شیخ احمد کو مجدد الف ثانی کا خطاب پہنچانے دیا تھا۔ مولانا ضیاء الدین نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں تلاش والا میں مولوی محمود حسین سے حاصل کی اور پھر حصول علم دین کے لئے لاہور پہنچے اور مولانا غلام قادر بھیروگی سے عربی و فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ مولانا ضیاء الدین کا بیان ہے کہ میرے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات سے متفق ہو گئے تھے۔ اس لئے میں نے زمانہ طالب علمی ہی میں طے کر لیا تھا کہ اب میں کبھی اپنے والد سے نہیں ملوں گا۔ چنانچہ میں لاہور سے دہلی آ گیا۔ جہاں ایک برس قیام کے بعد حضرت محدث سورتی کی خدمت میں پہلی بھیت پہنچا اور تقریباً چار سال پہلی بھیت میں رہ کر تمام علوم کا تکملہ کیا۔ مکہ پہلی بھیت میں آپ کے ہم سبق طلب میں پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے صاحبزادے مولانا سید خادم حسین بھی شامل تھے۔ مولانا ضیاء الدین نے پروفیسر شاہ فرید الدین کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی سے میری پہلی ملاقات بھی حضرت محدث سورتی کی وجہ سے ہوئی چونکہ حضرت محدث سورتی سے اعلیٰ حضرت کا خصوصی تعلق تھا۔ چنانچہ میں اپنے استاد کے ہمراہ ہر جمعرات

۱۔ تذکرہ علماء اہلسنت ص ۱۰۱۔

۲۔ مولانا ضیاء الدین کے ایک طویل انٹرویو سے اقتباس۔ یہ انٹرویو حکیم محمد ذوالقرنین نے ۱۹۶۳ء میں لیا تھا۔ اور ٹیپ کی شکل میں آپ کے پاس لاہور میں موجود ہے۔

کو بریلی جانا۔ اور جمعہ کی نماز پڑھ کر پہلی بھیت لوٹ آنا نسلہ مولانا ضیاء الدین کا یہ معمول کئی سال تک رہا اسی دوران آپ علم کفر سے بیعت ہوئے۔ پہلی بھیت سے آپ بغداد شریف چلے گئے جہاں نو سال قیام کیا۔ اور حضرت شیخ مصطفیٰ اور حضرت شیخ شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلوک و طریقت کے مختلف مدارج طے کئے۔ ۱۳۲۶ھ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور پھر یار مدینہ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اور بعد لکھنؤ تک حیات ہیں۔ مولانا حکیم قاری احمد نے ۱۳۵۳ھ میں زیارت ورج بیت اللہ کے موقع پر شرف ملاقات حاصل کیا تھا۔ جس کا تذکرہ اپنے سفر نامہ ورج۔ مشاہدات حرمین میں کیا ہے نسلہ مدینہ منورہ میں مولانا ضیاء الدین کی شخصیت منفرد مقام کی حامل اور علمائے کرام کے لئے مرکز و مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالم اسلام میں آپ کے خلفاء کی تعداد سینکڑوں اور مریدین کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔

ابوالمساکین مولانا ضیاء الدین پہلی بھیتی

مولانا ضیاء الدین ولد حسین علی شوال ۱۲۹۱ھ میں تلہر ضلع شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی بعد میں حضرت محدث سورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دورہ حدیث کی تکمیل پر دستار فقیہت حاصل کی۔ حضرت محدث سورتی کے ایمار پر تکمیل الطب کالج لکھنؤ سے طب کا امتحان پاس کیا لیکن باقاعدہ کبھی طبابت نہیں کی۔ فاضل بریلوی سے آپ کو ارادت و خلافت حاصل تھی اور استاد و مرشد دونوں آپ کی ذہانت و تجربہ علمی کی قدر کرتے تھے۔ مولانا ضیاء الدین عملی زندگی میں درس و تدریس کے علاوہ ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مصروف رہے اور تصانیف کثیرہ سپرد قلم فرمائیں۔ آپ نے ماہنامہ تحفہ حنفیہ پٹنہ کی بھی ادارت کے فرائض کئی سال انجام دیئے۔ آپ کے مریدین کی ایک بڑی تعداد ہندو پاک کے مختلف بلاد و اصهار میں موجود ہے۔ مولانا حکیم قاری احمد نے لکھا ہے کہ حضرت محدث سورتی کے وصال کے بعد آپ مستقل طور پر پہلی بھیت آگئے تھے اور

۱۔ مولانا ضیاء الدین انڈولوشاہ فریالقی مطبوعہ جنگ آزادی بھرترجمان اہلسنت کراچی۔

۲۔ مشاہدات حرمین ص ۱۴۴۔

محدث صاحب کے مقبرہ سے متصل سیلوں والی مسجد میں جمعہ کو خطابت فرماتے رہے۔ دین داری، پابندی شریعہ اور مذہبی رکھ رکھاؤ میں آپ کی ذات بڑی نمایاں تھی بلکہ پہلی بھیت میں آپ کی ذات سے شریعت کا رعب قائم تھا۔ ۲۸ محرم الحرام ۱۳۶۲ھ بوقت فجر کجالت نماز روح نفس عنقریب سے پرواز کر گئی۔ مولانا حسرت علی خاں لکھنؤی نے نماز جنازہ پڑھائی اور بھشتیوں والی مسجد سے متعلق تدفین عمل میں آئی۔ آپ کے خلیفہ مولانا وجیہ الدین پہلی بھیت میں بقید حیات ہیں۔ مولانا ضیاء الدین کی چند قابل ذکر کتابیں یہ ہیں۔

۱۔ ذکر ابرار مجموعہ لغت و منقبت مطبوعہ مطبع حنفیہ پٹنہ ۱۳۲۵ھ

۲۔ ضیاء الارشاد مجموعہ لغت و منقبت مطبع حنفیہ پٹنہ ۱۳۲۷ھ

۳۔ التحقیق المعلیٰ (سورتی کی خدمت کا بیان) مطبوعہ پہلی بھیت ۱۳۵۸ھ

۴۔ فرامین شریعت مطبوعہ پہلی بھیت ۱۳۶۰ھ

۵۔ مراتب سیاست (اسلامی سیاست پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث)

مطبوعہ پہلی بھیت ۱۳۶۲ھ

مولانا ظفر الدین بہاری

مولانا ظفر الدین بہاری ولد مولانا عبدالرزاق ۱۲۴۳ محرم الحرام ۱۳۳۳ھ کو موضع بھیرہ ضلع مظفر آباد پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی بعد میں مدرسہ غوثیہ حنفیہ پٹنہ میں مولانا معین الدین اشرف، مولانا بدر الدین اشرف، اور مولانا معین الدین اشرف سے علوم مرتجعہ حاصل کئے۔ ۱۳۳۲ھ میں مدرسہ حنفیہ پٹنہ میں داخلہ لیا جہاں حضرت محدث سورتی بکثرت شیخ الحدیث مسند درس و تدریس پر جلوہ افروز تھے چنانچہ آپ حضرت محدث سورتی کے درس میں شامل ہوئے اور ۱۳۳۱ھ میں حضرت محدث سورتی کے پہلی بھیت واپس چلے جانے پر آپ مدرسہ حنفیہ سے کانپور پہنچے اور استاد ذمین، حضرت مولانا شاہ احمد حسن کانپوری سے منطق کی کتابیں پڑھیں۔ مولانا عبید اللہ

اللہ آبادی اور مولانا عبدالرزاق کابوری سے بھی اکتساب علم کیا لیکن حضرت محدث سورتی کی یاد برابر ستا قی رہی چنانچہ کچھ دن بعد پبل بھیجت پہنچے اور مدرسہ الحدیث میں حضرت محدث سورتی کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث پاک کی سماعت و قرأت کی۔ حضرت محدث سورتی نے آپ کی علمی صلاحیتوں کے پیش نظر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھیج دیا۔ جہاں آپ نے اعلیٰ حضرت کے علاوہ مولانا حکیم محمد امیر اللہ شاہ بریلوی، مولانا حامد حسن رامپوری اور مولانا بشیر احمد علی گڑھی سے بھی اکتساب فیض کیا۔ آپ کو فاضل بریلوی سے ارادت و خلافت حاصل تھی۔ اور فاضل بریلوی نے آپ کو ملک العلماء کا خطاب عطا کیا تھا۔ مولانا ظفر الدین بہاری ماہ نامہ مدرس اور مصنف تھے۔ اعتقادی اور نظریاتی مسائل کو حل کرنے میں آپ کو کمال ملکہ حاصل تھا۔ مولانا ظفر الدین نے فاضل بریلوی کے افادات پر مبنی ایک رسالہ 'الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن مرتب فرمایا جس پر حضرت محدث سورتی نے اپنی تقریر لکھی ہیں لکھا کہ میں نے مبارک رسالہ جو علامہ سیدنا مولانا حاجی احمد رضا خاں صاحب کے افادات سے ہے مع فتاویٰ مجیب لبیب مولوی ظفر الدین صاحب بزرگ اللہ فی علمہ حرفاً حرفاً دیکھا اور ان کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اس کو براہین ساطعہ اور دلائل لامعہ سے مشحون صواب مقرون اور وبال و ضعف فی الماخذ سے مضمون و مامون پایا جزا ہا اللہ تعالیٰ عنا وعن مائر المسلمین جرمۃ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔ وعلیٰ من تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ فقط ناصر دین، محمد وصی احمد۔

مولانا ظفر الدین نے حیات اعلیٰ حضرت میں اپنے استاذ مکرم حضرت محدث سورتی کے کئی واقعات بعد احترام رقم لکھے ہیں۔ مولانا حکیم قاری احمد نے لکھا ہے کہ مولانا ظفر الدین ہر سال پبل بھیجت تشریف لاتے اور اپنے استاد کے مزار پر گھنٹوں عالم استغراق میں بیٹھتے رہتے تھے۔ مولانا ظفر الدین نے ۷۹ سال کی عمر میں ۱۹ جمادی الآخر ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۸ نومبر ۱۹۰۴ء کو اس جہان فانی سے عالم جاودانی کی سمت کوچ اختیار کیا۔ فاضل بہار سے آپ کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ آپ کی قابل ذکر تصانیف میں جامع

الرضوی شرح صحیح بخاری چھ جلدیں۔ حیات اعلیٰ حضرت چار جلدیں۔ ترجمہ حسان الخیرات۔ اعلیٰ حضرت کی تصانیف کا مجموعہ اور تنویر الراجح فی ذکر المعراج شامل ہیں۔ آپ کے تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع ہے جبکہ اردو کے ممتاز ادیب و محقق اور علیگریٹھ مسلم یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ عربی ڈاکٹر مختار الدین آرزو آپ کے فرزند ہیں۔

حکیم عبدالجبار خاں

حکیم عبدالجبار خاں جہاؤ آزادی ۱۸۵۷ء کے ایک گمنام مجاہد غلام حضرت خان کے بیٹے تھے ۱۸۵۹ء

میں پبل بھیجت میں پیدا ہوئے۔ دس برس کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اپنی والدہ کی ایما پر حضرت محدث سورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تقریباً دس سال میں تمام علوم و فنون کی تکمیل کر لی۔ جس میں علم طب بھی شامل تھا۔ ۱۸۹۹ء میں حضرت محدث سورتی نے تکمیل طب کے لئے حکیم واصل خان کے پاس بھیجا جو اس وقت مدرسہ طبیب کے منظم اعلیٰ تھے۔ حکیم واصل خان نے جو حضرت محدث سورتی کے علم و فضل کے مداح تھے۔ فوری طور پر مدرسہ میں داخلہ دیدیا۔ لیکن جلد ہی حکیم واصل خاں کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ باقی ماندہ تعلیم ان کے برادر خورد حکیم اجمل خاں سے حاصل کی۔ اور اعلیٰ امتیازی نمبروں سے امتحان طب پاس کیا۔ پبل بھیجت واپس پہنچ کر ابتداً حضرت محدث سورتی کے مطب میں بیٹھنا شروع کیا۔ اور پھر پبل بھیجت کے محلہ خیر اللہ شاہ کے چوک پر مطب کا آغاز کیا۔ اور تقریباً پچاس سال طبابت کا سلسلہ جاری رہا۔ حکیم عبدالجبار خاں تہا زیرک اور نہیم عالم تھے۔ اور طبیب بھی مشہور تھے۔ حکما کی پبل بھیجت میں اکثریت ہونے کے باوجود آپ کی شخصیت ممتاز تھی۔ آپ سماجی کاموں میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ اور تقریباً پچیس سال پبل بھیجت کے میونسپل کمشنر رہے۔ اور اس عہدے سے اردو ہندی تنازعہ پیدا ہونے پر احتجاجاً استعفیٰ دیدیا۔ آپ کو پبل بھیجت کے مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ اور آپ مسلم لیگ کے سیاسی موقف کی تائید کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوآپ کے خلاف سخت نفرت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ۴ مارچ ۱۹۵۷ء کو ہولی کے موقع پر پبل بھیجت میں ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ اور ہندوؤں کے ایک گروہ نے آپ کے مکان پر حملہ کر دیا جس میں آپ شدید زخمی ہوئے۔ مکان کو آگ لگا دی گئی۔

بڑے لڑکے حکیم محمد احمد خان کو بلوہ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مگر ہمت نہ ہاری اور دشمن سے مقابلہ کرتے رہے۔ فساد کی آگ سرد پڑنے پر اہل شہر کے مشورے سے پاکستان ہجرت کی اور ۱۵ اگست ۱۹۵۰ء کو نہایت بے سود مافوق عالم میں لاہور پہنچے۔ لاہور میں مولانا ابوالحسنات مولانا غلام دین اور حکیم محمد حسن قرشی نے آپ سے بھرپور تعدادن کیا۔ اور لاہور میں مطب شروع کر دیا۔ مگر اجل آنکھ لگائے بیٹھیں تھی۔ چنانچہ ۲۲ اپریل ۱۹۵۱ء بروز اتوار صبح نو بجے ۵۵ سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ گرامی شاہو کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ علم میراث پر آپ کی ایک دقیق تصنیف زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے آپ کے صاحبزادے حکیم محمد احمد خان صوبہ سرحد کے مقام چارسدہ میں طبابت کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا معلومات مومنون نے ہی راقم الحروف کو فراہم کی ہیں۔

مولانا عبدالحق محدث پبلی بھیتی

مولانا عبدالحق کاشمار حضرت محدث سورتی کے لائق شاگردوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے نہایت کم عمری میں حضرت محدث سورتی سے تمام علوم کی تکمیل کی اور مدرسہ حافظیہ جامع مسجد پبلی بھیت میں مدرس مقرر ہوئے۔ پبلی بھیت کی پنجابی سوداگر برادری سے آپ کا تعلق تھا لیکن آپ نے تجارت اور حصول دولت کو اپنا شعار نہیں بنایا بلکہ نہایت سادگی کے ساتھ علم دین کے فروغ میں مشغول رہے۔ عادات و اطوار میں اپنے استاد سے مشابہ تھے۔ اور حضرت محدث سورتی کے وصال کے بعد پبلی بھیت شہر میں آپ کو اپنے علمی تبحر کی بنا پر مرکزیت حاصل ہو گئی تھی۔ پبلی بھیت کے نامور بزرگ شاہ لطف اللہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ کو خصوصی انس تھا یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ ان کے مقبرہ کے اندر اوراد و وظائف میں مشغول پائے جاتے۔ اس مقبرہ میں آپ نے شرح ملا علی قاری کے کئی نسخوں سے ایک مستند نسخہ مرتب فرمایا تھا۔ جس کے بعض مقامات پر حضرت محدث سورتی نے حواشی تلمبند فرمائے ہیں۔ یہ قلمی نسخہ مولانا وقار الدین پبلی بھیتی کے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے۔ اور راقم الحروف نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے۔ علیہ حضرت عظیم

البرکت مولانا عبدالحق کو محدث پبلی بھیت کے لقب سے یاد فرماتے اور اکثر کہتے کہ مولانا عبدالحق کو دیکھ کر سلف و صالحین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ مولانا عبدالحق کاشمار محدث سورتی کے نہایت عزیز و لائق تلامذہ میں ہوتا ہے۔ آپ تمام عمر درس نظامی کی تدریس میں مصروف رہے۔ صرف و نحو حدیث پر اچھی مہارت تھی۔ ایک عرصہ تک مدرسۃ الحدیث میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ کچھ عرصہ جامع مسجد پبلی بھیت کے مدرسہ میں پھر مدرسہ رحمانیہ پبلی بھیت اور پھر مدرسہ آستانہ شیرینہ میں تدریس کے فرائض انجام دیتے نہایت خلیق و مہربان بزرگ تھے۔ شریعت کی پابندی اور سادگی قابل دید تھی۔ بعض اوقات آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ پانچامہ کا ایک پائینچہ نیچا دوسرا اونچا۔ پیر میں جوتے مگر دونوں مختلف۔ مگر جہاں عزت کا معیار علم و عمل ہو، وہاں دنیا بے حقیقت ہو جاتی ہے۔

پبلی بھیت کے محلہ پنجابیاں کے آبائی قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کے ایک صاحبزادے مولوی سراج الحق پبلی بھیت میں تجارت کرتے ہیں۔

مولانا عبدالحق کرگنہوی

مولانا عبدالحق کرگنہوی ولد حاجی قدرت علی رئیس کرگنہ ۲۷ ذی قعدہ ۱۲۸۱ھ موضع کرگنہ پرگنہ جہان آباد ضلع پبلی بھیت میں پیدا ہوئے۔ قرآن حکیم اپنے والد سے پڑھا اور عربی فارسی کی ابتدائی کتابیں مولانا سلامت اللہ رامپوری سے پڑھیں۔ جو اس وقت کرگنہ کے ایک مدرسہ میں مدرس و تدریس پر فائز تھے۔ حضرت محدث سورتی سے درس حدیث لیا اور ارشاد العلوم رامپور سے دستار بندی کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کو فاضل بیہوی مولانا احمد رضا خان سے شرف بیعت حاصل تھا۔ مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی نے لکھا ہے کہ آپ کا وصال ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۶ء مطابق ۲۱ رجب ۱۳۵۵ھ کو ہوا۔ حضرت محدث سورتی کے مقبرہ سے متصل قبرستان میں سپرد قبر کیا گیا۔ مولانا احمد رضا خاں شہناز خاں پڑھائی۔

مولانا عبدالحمید سہیلی بھیتی

مولانا عبدالحمید حضرت محدث سورتی کے برادر خورد مولانا عبداللطیف سورتی تلمیذ مولانا عبدالحمید فرنگی محلی کے خلف رشید تھے۔ سہیلی بھیت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر اپنے چچا حضرت وصی احمد محدث سورتی کے مدرسۃ الحدیث میں داخل ہو کر تمام علوم تکمیل کی۔ ۱۳۳۷ھ میں دورۂ حدیث کی تکمیل پر سالانہ جلسہ دستار بندی میں حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ رامپوری نے دستار فضیلت زیب سر کی۔ آپ کے ہم سبق طلبہ میں مولانا احمد علی اعظمی المعروف صدر الشریعہ اور مولانا محمد شفیع بیسپوری اور آپ کے برادر خورد مولانا عبدالرحمن کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا عبدالحمید کو شرف ہدیت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں سے حاصل تھا۔ تمام عمر مدرسۃ الحدیث سہیلی بھیت سے بحیثیت مدرس و البتہ رہے۔ آپ کی علمی لیاقت پر فاضل بریلوی اور حضرت محدث سورتی کو بڑا ناز تھا۔ مدرسۃ الحدیث سے ملحقہ بیوں والی مسجد میں زمانہ طالب علمی سے ہی امامت کے فرائض انجام دینے لگے تھے۔ مولانا حکیم قاری احمد نے لکھا ہے کہ مولانا عبدالحمید کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کے پیچھے فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں نے کسی نمازیں ادا کیں جبکہ حضرت محدث سورتی اور مولانا عبداللطیف سورتی اکثر نمازیں ان کے ہی پیچھے پڑھتے تھے۔ بڑے دیندار اور عبادت گزار بزرگ تھے۔ آپ کی شفقت اور محبت کا پورا شہر ولدادہ تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے سنت مخالف اور مسلم لیگ کے حامی تھے۔ سہیلی بھیت میں مسلم لیگ کی ابتدائی تنظیم اور کامیابی میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ ساٹھ سال سے زائد عمر میں یکم جون ۱۹۴۳ء کو سفر آخرت اختیار کیا۔ ابوالمساکین مولانا ضیاء الدین سہیلی بھیتی نے نماز جنازہ پڑھائی اور بیوں ولے قبرستان میں اپنے چچا حضرت محدث سورتی کے مقبرے سے متصل سپرد قبر کئے گئے۔ مولوی عبدالعلی، مولوی عبدالغنی عرف دو میاں اور مولوی عبدالغنی عرف برکات میاں اور الہی آپ کے صاحبزادوں کے نام ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد دو میاں اور برکات میاں پاکستان آ گئے تھے۔ دو میاں اپنے والد کی طرح صاحب تقویٰ اور صاحب سلسلہ بزرگ تھے

اور حیدرآباد میں مقیم تھے۔ ۲۲ اگست بروز جمعہ ۱۹۶۹ء انتقال ہوا پرانا قلعہ حیدرآباد کے قریب واقع قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ حیدرآباد اور اندرون سندھ مریدین کی کثیر تعداد موجود ہے۔ برکات میاں کراچی میں مقیم ہیں۔ اور ملازمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مولانا غلام جیلانی میرٹھی سے سند حدیث حاصل کی ہے۔

مولانا عبدالعزیز خاں محدث بجنوری

مولانا عبدالعزیز خاں ولد مولوی ظفر باب خان ضلع بجنور قصبہ گھنٹا گھوڑہ کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور درس نظامی کی تکمیل مولوی احمد حسن امرہوی سے کی بعد میں حضرت محدث سورتی کی خدمت میں پہنچے۔ اور صحاح ستہ سے احادیث سنا کر سند حاصل کی۔ حضرت محدث سورتی آپ کی ذہانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کو مدرسہ حافظیہ جامع مسجد سہیلی بھیت میں بحیثیت مدرس مامور کیا۔ ۱۳۴۷ھ میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے دھماکے کے بعد جن کے آپ مرید و خلیفہ تھے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے مدرسہ منظر الاسلام بریلی طلب کیا۔ جہاں آپ تادم آخر درس و تدریس میں مشغول رہے۔ ۸ جمادی الاول ۱۳۶۹ھ کو آپ کا دھماکا ہوا۔ مزار انجمن اسلامیہ بریلی کے قبرستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

مفتی عبدالقادر لاہوری

مفتی عبدالقادر لاہوری نے دورۂ حدیث کی تکمیل حضرت محدث سورتی سے کی تھی جس کا انہوں نے اپنے فیض بخش و رفاع عام پریس سے ۱۳۳۷ھ میں شائع ہونے والے حضرت محدث سورتی کے رسالہ جامع الشواہد کی تقریظ میں کیا ہے۔ تلاش بسیار کے باوجود آپ کے حالات ذمیل کے البتہ عقائد کی مختلف کتب پر موجود آپ کی تقریفات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ مدرسہ غوثیہ عالیہ مسجد سادھواں لاہور سے بحیثیت مدرس ایک عرصہ تک وابستہ رہے۔ مولانا حکیم قاری احمد نے بھی آپ کو حضرت محدث سورتی کا شاگرد لکھا ہے۔ امرتسر سے شائع ہونے والے اخبار

القیہہ میں آپ کے مستقل مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ ۵ مئی ۱۹۱۹ء کے شمارہ میں البرحان فی منع الدعان کے نام سے آپ کا ایک طویل مضمون شائع ہوا تھا جس میں آپ نے دماغی حکمت و فائزہ کی تشریح کی ہے۔ اس کے علاوہ ۵ اکتوبر ۱۹۱۹ء کے القیہہ میں شراب کی تجارت، طالب علم اور مسافر کی مسجد میں رہائش، اور دیگر مسائل پر فتویٰ شائع ہوئے ہیں۔

مولانا عبدالقدیر میاں سیلی بھیتی

مولانا عبدالقدیر میاں اپنے وقت کے معروف پیر طریقت حضرت عبدالبصیر میاں کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ ۱۶ رجب المرجب ۱۳۱۷ھ کو تور ڈھیر ضلع مردان صوبہ سرحد میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک اپنے جدا مجد سید رحیم اللہ میاں سے اور عربی فارسی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد سے پڑھیں۔ کچھ عرصہ سنبھل ضلع مراد آباد میں بھی تعلیم حاصل کی۔ دورہ حدیث کی تکمیل کے لئے مدرسۃ الحدیث سیلی بھیت میں حضرت محدث سورتی کے آگے زائے تلمذ تہہ کیا اور سند حاصل کی۔ آپ حضرت شاہ جی شیر میاں کے مرید و خلیفہ تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں آپ کے ہزاروں مرید اور عقیدت مند موجود ہیں۔ ۱۴ محرم الحرام ۱۳۸۴ھ مطابق ۱۷ مئی ۱۹۶۴ء بروز دو شنبہ آپ کا وصال ہوا اور درگاہ بصیر یہ میں تدفین عمل میں آئی۔ آپ کے صاحبزادے مولانا عبدالرشید میاں آپ کے خلیفہ و جانشین ہیں اکثر و بیشتر پاکستان تشریف لاتے رہتے ہیں۔

مولانا عزیز الحسن

مولانا عزیز الحسن پھچھوندوی ولد عنایت اللہ خان قصبہ پھچھوند ضلع اوٹا وہ میں پیدا ہوئے مولانا سید احماد حسین مودودی سے فارسی کی کل کتابیں اور دس نظامی کی عربی کتب متوسطاً پڑھیں۔ مولانا سید مصباح الحسن پھچھوندوی کے بیمار پر دورہ حدیث کے لئے حضرت محدث سورتی نے چند کتب شروع کر کے بریلی بھیج دی جہاں مولانا مجد علی اعظمی انصاری مولانا رحم البند سے تکلم کر کے سند فرغت حاصل کی۔ علی حضرت مولانا احمد رضا خاں سے بیعت و ارادت کا شرف حاصل تھا۔ ۱۲۶۲ھ میں وصال فرمایا اور پھچھوند میں تدفین عمل میں آئی۔

علامہ قاری غلام محی الدین

علامہ قاری غلام محی الدین کا حضرت محدث سورتی کے آخری تلامذہ میں شمار ہوتا ہے۔ آپ بیک وقت شیخ الحدیث، شاعر شیریں مقال، واعظ بے مثال اور پیر طریقت ہیں۔ حضرت شاہ محمد شیر میاں سیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرنے اور نواسے ہوتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت حافظ غلام جیلانی خطیب جامع مسجد سیلی بھیت ایک متبحر عالم دین اور حضرت شاہ جی مجد شیر میاں کے خلیفہ تھے۔ سیلی بھیت اور گردونواح میں آپ کی شخصیت کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ خصوصاً علی حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خاں بریلوی سے ایک خاص نسبت تھی اور دونوں بزرگوں کے درمیان برادرانہ مراسم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاندان کا آج بھی بریلی شریف سے روحانی رشتہ استوار ہے علامہ قاری غلام محی الدین کو پیدائش کے وقت حضرت شاہ جی شیر میاں نے اپنے لعاب دہن سے نوازا اور دعا دی کہ یہ بچہ قرآن حکیم کا ماہر اور متبحر عالم دین ہوگا۔ چنانچہ آپ نے دس سال کی عمر میں حفظ کر لیا اور لکھنؤ کے مدرسۃ فرقانیہ میں داخلہ لیکر قاری مجد نذر سے تلمذ حاصل کیا اور نہایت کم عمری میں آپ کا شمار مشاہیر قرار میں ہونے لگا۔ قرأت کی تکمیل کے بعد آپ نے حضرت محدث سورتی کے مدرسۃ الحدیث میں داخلہ لیا۔ حضرت محدث سورتی نے موصوف کو میزان شروع کر کے اپنے داماد حضرت مولانا محمد شفیع بیسپور کے سپرد کر دیا اور باقی کتابیں ان سے مکمل کیں۔ دوران تدریس حضرت محدث سورتی آپ پر خصوصی عنایت اور توجہ فرماتے تھے کیونکہ نہایت ذہین اور حصول علم دین کی لگن سے سراسر تھے علامہ قاری غلام محی الدین کا بیان ہے کہ میری بسم اللہ بھی حضرت محدث سورتی نے پڑھائی تھی اس لئے مجھے روز اول سے ہی حضرت محدث سورتی سے تلمذ کا شرف حاصل ہے حضرت محدث سورتی کے وصال سے کچھ قبل آپ خیر آباد چلے گئے جہاں آپ نے مدرسہ نیاز یہ میں جامع منقول و منقرات مولانا حکیم محمد بشیر خان علیہ الرحمۃ مدفون گورٹو شریف (لاہور) میں

سے معقول و منقولات کی کتابیں پڑھیں۔ اور مدرسہ عالیہ رامپور سے دس نظامی کے سند تکمیل حاصل کی۔ دورہ حدیث کے لئے بریلی شریف حاضر ہوئے اور حجۃ الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خاں سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مولانا امجد علی اعظمی کا شمار بھی آپ کے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ دورہ حدیث کی تکمیل آپ نے اُن سے کی۔ علامہ قاری غلام محی الدین کا بیان ہے کہ میں واحد طالب علم تھا جس نے حضرت محدث سورتی سے کتابیں شروع کیے اُن کے ہی شاگرد عزیز مولانا امجد علی سے تلمذ کیا اور دستارِ نصیحت حاصل کی۔ علامہ قاری غلام محی الدین کو حضرت شاہ جی شیر میاں کے خلفا رسیدنا حافظ انور علی، خلیفہ مقصود عالم خاں رامپوری، قاضی مہربان علی شاہ، اپنے والد ماجد حضرت حافظ غلام جیلانی اور مفتی اعظم ہند علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خاں بریلوی سے اجازت و خلافت حاصل ہے اور پاک و ہند میں آپ کے بے شمار مریدین موجود ہیں۔

علامہ قاری غلام محی الدین نے دس دس دس لیس کا آغاز اپنے بھائی حکیم حبیب الرحمن پبلی بھیتی کے قائم کردہ مدرسہ آستانِ شیر سے کیا اور پھر دادوں ضلع علیگر میں نواب احمد جان کے مدرسہ میں مدرس ہو کر چلے گئے اور برسوں تشنگانِ علم کی پائیں بچھلتے رہے آپ کے تلامذہ میں مفتی مسعود علی قادری مرحوم، مولانا تقدس علی خاں، مولانا اعجاز علی خاں، حافظ رشید، قاری حافظ سخاوت حسین، اتہال احمد علی اسٹنٹ ایڈیٹر روزنامہ جنگ کراچی، نواب اکرم خان شیرواتی، مولانا اعجاز حسین، عبدالشاہ خاں شیرواتی، مصنف باغی ہندوستان (قاری امانت رسول پبلی بھیتی وغیرہم شامل ہیں۔

قاری غلام محی الدین مدظلہ العالی شعبان ۱۳۹۹ھ میں کراچی تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر راقم الحروف، جناب محمد یوسف طربشمسی اور علامہ شاہ حسین گردینری نے آپ کی یادداشتیں تلبنت کی ہیں۔ جو اہل علم کے لئے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ قاری صاحب کا ان دنوں مستقل قیام بلہوانی ضلع نینی تال میں ہے جہاں آپ نے اشاعت الحق کے نام سے ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کر رکھا ہے اس کے علاوہ آپ پبلی بھیتی میں بھی آستان

شیر پبلی بھیتی کی دیکھ بھال کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ عربی فارسی اعداد و میں شریک تھے ہیں۔ آپ کا بیشتر کلام لغتِ رسولِ مقبول اور حمد و منقبت پر مشتمل ہے۔ یغنیہ اشعار پر مشتمل آپ کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم الکتاب کی مشنری روبرو اشالیہ کی مختصر اور شرح تحریر فرمائی ہے جو ۱۱۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ اور اشاعت الحق بلہوانی سے شائع ہوئی ہے۔

حافظ محمد احسن کانپوری

حافظ محمد احسن مولانا احمد احسن کانپوری کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ آپ نے ابتدائی کتب اپنے والد سے پھر اپنے بڑے بھائی مولانا مشتاق احمد کانپوری سے پڑھیں اور حدیث حضرت محدث سورتی سے پڑھا۔ اور تمام عمر چھوٹی عید گاہ نئی شکر کانپور میں امام و خطیب رہے۔ مولانا حکیم قاری احمد نے لکھا ہے کہ نہایت سادہ طبیعت پائی تھی۔ درمیانہ قد سا لولہ رنگ اور گٹھا ہوا جسم تھا۔ شہرت اور دنیا داری سے کوسوں دور تھے۔ یہی وجہ ہے گمنامی کے عالم میں رہے۔ قیام پاکستان کے بعد کانپور میں انتقال ہوا۔ آپ کے صاحبزادے مولانا شبیر احسن کانپور کے مقتدر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اور چھوٹی عید گاہ میں اپنے والد کی جگہ امام و خطیب ہیں۔ مولانا حکیم مومن سجاد کی پوتی، آپ کی اہلیہ ہیں۔ ۱۹۶۲ء میں آپ پاکستان تشریف لائے تھے۔ راقم الحروف پر بے پناہ شفقت فرماتے ہیں۔

مولانا حافظ محمد اسماعیل محمود آبادی

مولانا حافظ محمد اسماعیل محمود آبادی نہایت سادہ لوح انسان تھے۔ ریاست محمود آباد میں آپ کا خاندان میلاد خواں کی حیثیت سے بہت معروف تھا۔ آپ کے والد حافظ محمد علی مولانا سید خواجہ عبدالصمد بھچونڈوی کے مرید تھے۔ اور کوٹھی عثمان پورہ ضلع بارہ بنکی میں پوسٹ ماٹرن تھے۔ حافظ محمد اسماعیل نے ابتدائی تعلیم مولانا خواجہ عبدالصمد بھچونڈوی سے

حاصل کی۔ اور آپ سے ہی بیعت ہوئے۔ آپ کی آواز پر شعلہ سا لپک جلنے کا گمان ہوتا تھا اس قدر محویت کے عالم میں نعتِ رسول مقبول سناتے کہ پوری محفل پر وجد طاری ہو جاتا تھا خواجہ عبدالصمد بھونڈوی کے ۱۳۲۳ھ میں وصال کے بعد اپنے پیرزادہ مولانا شاہ سید مصباح الحسن کی معیت میں حضرت مولانا وصی احمد محدث سورتی کی خدمت میں تکمیل علوم کے لئے پہلی بیعت حاضر ہوئے اور تقریباً سات سال تک حضرت محدث سورتی سے مختلف علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دورہ حدیث مکمل کیا اور حضرت محدث سورتی کے مشورہ پر محمود آباد میں مدرسہ قائم کیا۔ جہاں آپ طلبہ کو درسی نظامی کی ابتدائی کتب پڑھاتے تھے۔ مولانا برکات احمد پہلی بھتی نبیرہ مولانا عبداللطیف سورتی کا بیان ہے کہ مولانا نہایت نقاست پسند انسان تھے۔ طلبہ سے اولاد کی طرح محبت کرتے تھے اور بڑی دھی آوازیں درس دیتے۔ اکثر دورانِ درس آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ مولانا برکات احمد نے ۱۹۰۳ء کے اوائل میں مولانا محمود آبادی سے پڑھنے کے لئے محمود آباد گئے تھے۔ اور تقریباً دو سال آپ نے محمود آباد میں قیام کیا۔ حضرت محدث سورتی کی علالت کی خبر سن کر مولانا محمد اسماعیل پہلی بیعت آگے اور تادمِ الپسین مامور بہ خدمت رہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی آپ پر خصوصی عنایت فرماتے اور آپ کو اجازت و خلافت سے بھی مشرف فرمایا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حاجی منشی محمد لعل خان کی کتاب تاریخ و ہایہ پر تقریظ لکھی تھی جو بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده سب دواہ قادری محمد اسماعیل حنفی چشتی محمود آبادی حضرت اہلسنت کلکتہ کی خدمت میں موصوفاً اور بیرون کلکتہ کی جناب میں عموماً عرض گزار ہے کہ کتاب تاریخ و ہایہ دیوبند میں مرسلہ مرتبہ برادر دینی و یقینی کرم فرمائے احباب عالیجناب منشی حاجی لعل خان صاحب سنی حنفی رضوی مدداسی مطبوعہ کلہی پریس چھپوا بازار کلکتہ جس میں ابتداً مناقب امام الائمہ سراج الاممہ سیدنا البین امام الاعظم و ہمام الائمہ الادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دیگر حالات مختصراً فرق باطلہ مثل دہلیہ و دیوبند

یعنی خوشہ چینان دہلیہ نیز مجسمہ و معتزلہ و یغزوریہ و حکمیہ و قرامطہ و خارجیہ کے میری نظر سے گذری واقعی حاجی صاحب موصوف نے مسلمان بھائیوں کے ساتھ احسان فرمایا۔ جزاہ اللہ تعالیٰ عنہ وعن سائر المسلمین خیر الجزاء خیراً۔ یہ لوگ جن پر وہ ہایہ کا اطلاق کیا گیا فی الحقیقت مخربین بین متین حبیب رب العالمین ہیں نہ اس فرقہ کو خدا نے تعالیٰ کا خوف نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشرّم علمائے اہلسنت نے صد ہائے باکیاں اور گستاخیاں جو بارگاہ رسالت میں اس فرقہ نے کیں اپنی تصانیف عالیہ میں ظاہر فرمائیں جو اصحاب طالب دیدہوں اس تاریخ سے اون کے اسرار ملاحظہ فرما کر مسرور ہوں۔ برادران اسلام مجھے بھی اس فرقہ سے گلے گلے ہے اتفاق رہا ہے۔ اور کبھی مناظرہ و مناقشے ترقی ہو کر دور تک نوبت پہنچی مگر اس فرقہ نے اصلاح نہ حاصل کی اس گروہ کے بعض افراد نے توبہ بھی کی مگر جب اپنے جرم کے سے ملے متسخر و استہزار ہی کیا اور توبہ سے کنارہ کشی کی۔ برادران ملت نان سے میل جول حلال نہ صاحبت ٹھیک قرآن کریم کا ارشاد و اہامینسیئلت الشیطن فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ پر عمل کرنا ضروری یعنی اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد دہنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ پرنظاہر کہ اس فرقے سے ظاہر، کون یہ کتاب تاریخ مذکورہ اگر انصاف سے دیکھی جائے اور پھر محبت و اطاعت تعظیم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موازنہ و مقابلہ کیا جائے تو فوراً منصف کمر بہت باندھ کر توبہ انشاء اللہ و ہایت سے کر ہی لے گا اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبول خلائق کر کے مسلمانوں کو بد مذہبوں کی شر سے محفوظ و مصون رکھے ختم اللہ لنا و لکم بالخیر والحسنی ووفقنا لما یحب ویرضی و احسننا فی ظلال حمایات اولیاء المقربین وعت لوائی سید المرسلین و صلوة اللہ و سلامہ علی خاتم النبیین محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد اسماعیل سنی قادری محمود آبادی۔ ۳ جمادی الثانی ۱۳۲۵ھ

مولانا محمد اسماعیل محمود آبادی نے ۱۳۲۵ھ محمود آباد میں داعی اجل کو لبیک کہا

مولانا محمد شفیع بیسپوری

مولانا محمد شفیع بیسپوری ولد مولانا فضل احمد ماہ شعبان ۱۲۹۵ھ بمقام بیسپور ضلع
پہلی بھیت میں پیدا ہوئے۔ آپ فاتح روہلی کھنڈ حافظ رحمت خان کے سپہ سالار عبدالرشید
خان کی اولاد میں سے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ علم حدیث حضرت
محدث سورتی سے حاصل کیا۔ آپ فہم و فراست اور علم و عمل کا عجم پیکر تھے۔ اور
ہمہ وقت استاد کی خدمت میں رہ کر کسب فیض کرتے رہتے حضرت محدث سورتی نے
اپنی صاحبزادی محترمہ حلیمہ النساء آپ کے نکاح میں دیں۔ فاضل بریلوی ایک مرتبہ
پہلی بھیت تشریف لائے تو آپ کی نگاہ انتخاب مولانا محمد شفیع پر پڑی چنانچہ آپ کو ہمراہ
بریل لے گئے اور فتاویٰ نویس و کتب خانہ کی نگرانی پر مقرر کیا۔ بعد میں آپ فاضل
بریلوی کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو خلافت عطا کی اور
۱۰۰ امین الفتویٰ کا خطاب دیا۔ علامہ اقبال احمد فاروقی نے الاستاذ کے حاشیہ پر لکھا ہے
کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے جن شاگردوں اور مریدوں کو بے پناہ اعتماد میں لیا ان میں مولانا
محمد شفیع سرفہرست تھے۔ آپ نے نہایت کم عمری میں ۲۴ رمضان المبارک ۱۳۲۵ھ
بروز جمعہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ مزار قبور بیسپور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔
آپ نے متعدد علمی و فقہی موضوعات پر مسبوط مضامین تحریر فرمائے جو تحفہ حنفیہ پٹنہ اور
الفقہیہ امرتسر میں پابندی سے شائع ہوتے تھے۔ لیکن ان رسائل کے مکمل فائل دستیاب
نہ ہونے کی بنا پر مضامین کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ البتہ ۱۵ صفر ۱۳۳۴ھ
کے الفقہیہ میں آپ کا ایک مضمون سنی مسلمانوں کو غیر مقلد بنانے کی نگرانی المروف
کے مطالعہ میں آیا جس میں مولانا محمد شفیع نے مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولوی غلیل احمد
سہارنپوری کی بعض تحریروں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کرتے ہوئے غیر مقلدین
کی وکالت کرنے والوں کو بھی خارج اہل سنت قرار دیا ہے۔ مولانا محمد شفیع کا ایک
قلمی نعتیہ دیوان اور مجموعہ فتاویٰ آپ کی علمی یادگار ہیں۔

مولانا مشتاق احمد کانپوری

مولانا مشتاق احمد کانپوری ۱۲۹۵ھ میں سہارنپور میں پیدا ہوئے جہاں ان دنوں
آپ کے والد مولانا احمد حسن کانپوری مظاہر العلوم میں مسند درس و تدریس پر متمکن
تھے۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے قرآن شریف کا ناظرہ کیا اور تقریباً ۱۳ سال کی عمر
میں حفظ کیا۔ بعد میں اپنے والد کے شاگرد رشید مولانا شاہ محمد عبید اللہ پنجابی سے درس
نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور دورہ حدیث کے لئے اپنے خالو حضرت محدث سورتی
کی خدمت میں پہلی بھیت پہنچے اور تحصیل و تکمیل علوم متداولہ و متعارفہ کیا۔ آپ
نہایت لائق و فائق تھے اور زمانہ طالب علمی ہی میں آپ کی لیاقت و فراست کا شہرہ
عام ہو گیا تھا۔ مولانا مشتاق احمد نے معاشی کی ابتدا اپنے والد کے مدرسے دارالعلوم
مسجد رنگینیاں کانپور سے کی بعد میں مدرسہ مولتیہ مکہ معظمہ میں بحیثیت مدرس پندرہ
سال درس دیا۔ دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف، جامعہ شمس العلوم بدایوں، مدرسہ عالیہ
کلکتہ، جامعہ شمس الہدیٰ پٹنہ، اور مدرسہ اسلامی میرٹھ میں بھی آپ نے بحیثیت مدرس
پر تدریس، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر خدمات انجام دیں۔ آپ اپنے والد سے سلسلہ
نقشبندیہ میں بیعت تھے۔ لیکن فاضل بریلوی سے حد درجہ عقیدت رکھتے تھے اور ہر سال
فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضری کے لئے بریلی تشریف لیا کرتے تھے۔ مولانا مشتاق
احمد علوم معقولہ و منقولہ کی تدریس میں اپنے والد کی مثل تھے۔ اور تمام زندگی تشنگان
علوم اسلامی کی پیاس بجھانے میں گزار دی۔ آپ نے ۲۴ مئی ۱۹۲۵ء کو انجمن حزب الاحیاء
لاہور کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں شرکت فرمایا تھی۔ اس جلسہ کی صدارت مولانا
سید دیدار علی محدث الہدیٰ نے کی تھی۔ جبکہ فاضل بریلوی کے صاحبزادے مولانا حامد رضا
خال بھی جلسہ میں شریک تھے۔ مولانا مشتاق احمد اس وقت مدرسہ مولتیہ مکہ معظمہ
میں مدرس تھے۔ اور امام معقولات و منقولات کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے مولانا

مشائق احمد کے شاگردوں میں مولانا عمیم الاحسان صدر مدرس مدرسہ عالیہ ڈھاکہ مولانا عبدالرحمان مدد باریونی اور مولانا بڈل الرحمن نے نمایاں قومی و ملی خدمات انجام دیں مولانا بڈل الرحمن نے اپنے استاد کے نام پر ایک مدرسہ کٹا جنکشن ضلع رنگپور سابق مشرقی پاکستان میں قائم کیا جو اچھی حیثیت میں چل رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا مشائق احمد کے اہل خانہ نے مولانا کا کتب خانہ جو کئی ہزار کتابوں پر مشتمل تھا اسی مدرسہ کو دیدیا تھا۔ مولانا حکیم قاری احمد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ مولانا مشائق احمد نے دو شادیاں کیں پہلی بیوی سے دو فرزند حافظ امداد احمد اور حکیم مختار احمد تھے۔ دونوں صاحبزادوں نے علم دین حاصل کیا مگر تجارت میں لگ گئے جس کی بنا پر علمی شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ خاندانی سلسلہ کو جاری رکھا اور حافظ امداد احمد ہر سال مسجد نیرنگیاں میں قرآن شریف سنایا کرتے تھے۔ آپ کی آواز نہایت پرورد تھی جس کی بنا پر اکثر سامعین پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی حکیم مختار احمد کو سیاست سے لگاؤ تھا چنانچہ آپ نے مولانا حسرت موہانی کے ہمراہ کانپور میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کے لئے بڑی خدمات انجام دیں۔ مولانا مشائق احمد آخر عمر میں زیادہ تر کلکتہ میں مقیم رہے جہاں آپ مدرسہ عالیہ کے پرنسپل تھے لیکن عیدین پڑھانے کانپور تشریف لاتے تھے۔ ۲۹ رمضان المبارک ۱۳۶۷ھ بمطابق ۲۰ اکتوبر ۱۹۴۷ء کانپور میں عید کا چاند دیکھ کر اعتکاف سے اٹھ کر گھر پہنچے اور اسی شب روح قفس عنقریب سے پرواز کر گئی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حافظ امداد احمد نے ۳۴ صفر ۱۳۸۲ھ بمطابق ۱۵ جون ۱۹۶۳ء کو بمقام کانپور داعی اجل کو لبیک کہا۔ حکیم مختار احمد دامت برکاتہم عالیہ بفضل تعالیٰ بقید حیات ہیں اور کلکتہ میں بریتوں کی تجارت کرتے ہیں۔ مولانا مشائق احمد کے بارے میں بیشتر معلومات حکیم مختار احمد نے مولانا حکیم قاری احمد کو ایک مفصل خط میں بہم پہنچائی تھیں۔ یہ خط مولانا قاری احمد کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔

مولانا مصباح الحسن پھونڈوی

آپ حضرت خواجہ عبدالصمد پھونڈوی کے فرزند ارجمند تھے۔ ۷ جمادی الاول ۱۳۴۷ھ بمقام پھونڈ ضلع اٹارہ میں پیدا ہوئے قرآن حکیم خواجہ اخلاق حسین ابن مولانا الطاف حسین حالی سے ختم کیا۔ جو خواجہ عبدالصمد کے مرید صادق تھے۔ ابتدائی کتب درسیہ مولانا امیر حسن ہسوانی، مفتی محمد ابراہیم مولانا شاہ اخلاق حسین مولانا حکیم مومن سجاد اور علامہ محمد ہایت اللہ خان رامپوری سے پڑھیں۔ ۱۳۶۶ھ میں حضرت مولانا وصی احمد محدث سورتی سے دورہ حدیث مکمل کیا۔ اور صحاح ستہ کی سند حاصل کی۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ مولانا بركات احمد پہلی بھتیجی کا بیان ہے کہ مولانا کو تمام علوم و فنون پر قدرت حاصل تھی۔ آپ گفتگو کرتے تو اس طرح محسوس ہوتا جیسے علم کا دریا موجزن ہو۔ حضرت محدث سورتی کے اخلاقی اور سادگی کا اکثر تذکرہ فرماتے اور کہتے کہ دین کی خدمت کرنے کے لئے حضرت محدث سورتی کا عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ خود و نمائش سب دین سے محبت کی علامات ہیں۔ علم کے حصول اور علم کے فروغ کے لئے سادگی اور پاکبازی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔

مولانا شاہ مصباح الحسن پھونڈوی کو قومی سیاست سے بھی ہمیشہ ایک حساس عالم دین دلچسپی تھی چنانچہ برصغیر میں انگریزی اقتدار کے خلاف ہر تحریک کا آپ نے بغور جائزہ لیا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانان ہند کی فلاح و بہبود کے لئے مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست کا قیام ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور مولانا عبدالحماد بدایونی کی معیت میں قیام پاکستان کے لئے کی جانے والی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ نے پاکستان کی حمایت میں ۱۱ فروری ۱۹۴۷ء بمطابق ۸ ربیع الاول ۱۳۶۵ھ کو پھونڈ ضلع اٹارہ میں سنی کانفرنس طلب کی اور اپنے خطبہ استقبالیہ میں ایک مثالی اسلامی ریاست کے قیام پر دلائل پیش کئے آپ کا یہ خطبہ استقبالیہ ایک تاریخی دستاویز

رکھتا ہے۔ جس سے آپ کی سیاسی بصیرت اور قومی معاملات کے فہم کا پتہ چلتا ہے سہ
سنی کانفرنس پھونڈ کی صدارت حضرت مولانا ابوالہمامہ سید محمد محدث کچھوچھو نے
کی جبکہ کانفرنس سے مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا عبدالحامد بیدالیونی اور دیگر علمائے
خطاب کیا۔

مولانا مصباح الحسن پھونڈی عربی فارسی اور اردو میں شعر بھی کہتے تھے۔ کلام میں
سوز و گداز سلاست و روانی اور فکر کی بلندی پائی جاتی ہے۔ علامہ محمود احمد قادری نے آپ کا تذکرہ
فرید عصر مولانا سید مصباح الحسن کے نام سے مرتب کیا ہے۔ آخر عمر میں فالج کا حملہ ہوا
اور دو سال تک صاحب فرانس رہنے کے بعد ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۸۴ھ کو وصال فرمایا
امرشد جان جہان جنت رسید سے تاریخ وفات نکلتی ہے۔ مولانا حسرت موہانی مولانا نثار
احمد کانپوری، مولانا عبدالاحد پٹی بھٹی، مولانا عبدالقدیر بیدالیونی، مولانا حامد رضا خان بریلوی
اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے آپ کے خصوصی مراسم تھے۔

مولانا نثار احمد کانپوری

مولانا نثار احمد کانپوری ۱۸۸۰ء بمطابق ۱۲۹۶ھ بمقام کانپور پیدا ہوئے۔ آپ استاد من مولانا
احمد حسن کانپوری کے چھوٹے صاحبزادے اور مولانا شتاق احمد کانپوری کے برادر خور تھے۔ ابتدائی
تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، عربی و فارسی کی ابتدائی کتابیں مولانا شاہ عبید اللہ کانپوری، مولانا عبدالغفار
کانپوری اور مولانا محمد علی منگیری سے پڑھیں اور دورہ حدیث کے لئے اپنے خالو حضرت محدث سورتی کے
سامنے زائے تلمذ تہہ کیا۔ اچھ بہایت خوش الحان حافظ قرآن، سحر البیان مفسر و مقرر، متبحر
عالم و مناظر اور دروہند قومی رہنا تھے۔ آپ کو شرف بیعت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں سے حاصل
تھا۔ اور اپنے پیر و مرشد سے عقیدت و درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ مولانا نثار احمد کانپوری نے ۱۹۱۰ء میں
ہندوستان کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ اور بہت جلد پورے ہندوستان میں آپ کی شہرت

سہ خطبات سنی کانفرنس ۱۳۳۵ء، محمد ضلال الدین قادری، مکتبہ رضویہ، حجرات ۱۹۴۸ء

عام ہو گئی۔ آپ انگریزوں کے شدید مخالف اور ہندوستان میں سلطنت اسلامی کے احیاء کے زبردست
داعی تھے۔ ۱۹۱۰ء میں حافی سنت نواب سر سلیم اللہ خاں تلمیذ مولانا احمد حسن کانپوری نے جب مسلمانوں
کی علیحدہ سیاسی جماعت مسلم لیگ کے قیام کے سلسلے میں ہندوستان کے قومی رہنماؤں کو ڈھاکہ آنے
کی دعوت دی تو آپ نے بھی بحیثیت مبصر اس اجلاس میں شرکت کی۔ مولانا نثار احمد کانپوری نے
قومی سیاست کا آغاز اس مقام سے ہوتا ہے جبکہ ۱۹۱۳ء میں مسجد مہبل بازار کانپور کے ساتھ پراپ کی شہرت
کو دوام حاصل ہوا۔ اس تحریک کے ہراول دستہ میں مولانا عبد الباری فزنگی محلی، مولانا محمد علی جوہر،
مولانا آزاد سبجانی، مولانا عبدالحامد بیدالیونی، میر سطر مظہر الحق اور مولانا نثار احمد کانپوری شامل تھے۔
اس سانحہ کی مذمت میں مولانا نثار احمد کانپوری نے کانپور کے اطراف و اکناف میں اپنی کھربانی سے آگ سی
دکھائی تھی اور مسلمانوں کے قافلے مسجد کے انہدام کو روکنے کے سلسلے میں جوق و جوق کانپور پہنچ رہے تھے
بزرگ صحافی سردار احمد صابری نے لکھا ہے کہ مولانا نثار احمد کانپوری مشہور سیاسی رہنما اور بہت ہی
پرجوش خطیب تھے۔ جس شہر میں آپ کی تقریر ہوتی تھی۔ اُسے سننے کے لئے قرب و چوار کے علاقوں سے
بکثرت لوگ آیا کرتے تھے۔ قرآن مجید پر سیر حاصل عبور تھا۔ بات بات پر قرآن مجید کی آیات استدلال
میں پیش کرتے تھے۔ سہ سردار احمد صابری نے اپنے مضمون میں مولانا نثار احمد سے متعلق تقریباً
تمام یادداشتیں قلمبند کر دی ہیں۔ ہر چند بعض مقامات پر واقعاتی تضاد و اغلاط موجود ہیں لیکن
اس کے باوجود یہ مضمون ایک وقیع حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے مولانا نثار احمد
کی زیارت کا شرف پہلی مرتبہ ۱۹۱۰ء یا ۱۹۱۱ء میں حاصل ہوا۔ اس زمانہ میں کانپور مسلمانوں اور
عیسائیوں کے مناظرہ کا اہم مرکز بنا ہوا تھا۔ خاص کر پادری احمد شاہ کی سرگرمیوں نے جہاں تک
اختیار کرتی تھی۔ مدرسہ الہیات کے وسیع احاطہ میں عام مناظروں سے برعکس علمی نوعیت کا ایک
مناظرہ عیسائی مشنریوں سے ہوا تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے مہبل بازار کے ہیرو مولانا آزاد سبجانی اور
مولانا نثار احمد نے حصہ لیا تھا۔ میں اپنے خالو مولانا عبد الرزاق کانپوری مصنف برامک کے ہمراہ مناظرہ
دیکھنے گیا۔ نو عمری کی وجہ سے سجدہ میں ٹوکھ نہ آیا لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ مولانا سبجانی کی تقریر ایک پٹری سے
سہ۔ مولانا نثار احمد کانپوری مضمون سردار احمد صابری مطبوعہ روزنامہ جنگ کراچی ۱۲ مئی ۱۹۶۶ء

ہوئے وہی ایک سی تھی جبکہ مولانا نثار احمد کی تقریر کا آغاز ایک طوقانی سمنڈ کی طرح تھا۔
 مولانا نثار احمد نے جنگ طرابلس کے موقع پر بھی بڑی جرات اور گرمجوشی کا مظاہرہ کیا۔ اور کلاں
 کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے ترک بھائیوں کا ساتھ دینے کے لئے کمر بستہ ہو جائیں۔ ابھی طرابلس کی آگ
 ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری جنگ بلقان کے شعلے بھڑک اٹھے چنانچہ مولانا کانپوری کا جوش و خروش
 اور بڑھ گیا۔ آپ نے علماء فرنگی محل کے تعاون اور اشتراک سے ترکوں کی امداد کے لئے بڑی تندہی
 سے کام کیا۔ اس سلسلہ میں علماء فرنگی محل نے لکھنؤ میں ایک جلسہ منعقد کیا جس سے مولانا نثار
 احمد کانپوری نے خطاب کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ اگر برطانیہ نے ترکوں کو یورپ
 سے نکلنے کی کوشش کی۔ تو اسے مسلمانان ہند کی وفاداری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

مولانا نثار احمد کانپوری اور مولانا محمد علی جوہر کے درمیان تعلقات کا آغاز ۱۹۱۰ء میں مسلم لیگ
 کے قیام کے موقع پر ہوا اور پھر ان تعلقات کو ایسا استحکام حاصل ہوا کہ مرتدوں تک ایک دوسرے کا
 ساتھ نہیں چھوڑا۔ مولانا محمد علی کی ۱۹۱۹ء میں رہائی کے بعد مولانا نثار احمد کانپوری نے کانپور کی رہائش
 ترک کر کے آگرے کو اپنا مستقر بنا لیا۔ اور آگرے کے مفتی مقبول ہوئے۔ اس زمانہ میں خلافت اور
 عدم تعاون کی تحریک اپنے پورے شباب پر تھی۔ پورے ملک میں جلسے ہو رہے تھے۔ مولانا نثار احمد کانپوری
 کے پیرو مشد فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں نے ترک موالات کے سلسلے میں یہ موقف اختیار کیا تھا۔
 کہ جب انگریزوں سے ترک موالات ہے تو ہندوؤں سے موالت کیا معنی رکھتی ہے کیونکہ قرآن و سنت کی
 رو سے دونوں کافر اور اسلام دشمن قوتیں ہیں۔ مولانا حکیم قاری احمد نے لکھا ہے کہ مولانا نثار احمد کانپوری
 کا بریل سے رشتہ اس قدر مستحکم تھا کہ ترک موالات کی حمایت کے باوجود آپ خانقاہ و ضریہ بریلی کی
 حاضری سے نہیں رکے۔ سید فاضل بریلوی کے خلیفہ اور حضرت محدث سورتی کے صاحبزادے سلطان
 الراضی مولانا عبدالاحد قادری پہلی بھتی جو ہندو مسلم اتحاد کے سخت مخالف اور ترک موالات کے
 سلسلے میں فاضل بریلوی کے فتویٰ کے زبردست مبلغ تھے۔ ان سے بھی مولانا نثار احمد کانپوری کے
 مراسم ہمیشہ باور انداز ہے اور تمام حدود کسی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انجمن خدام کعبہ، خلافت کمیٹی
 ملہ۔ تاریخ پاک و ہند ص ۲۵۲۔

اور مسلم لیگ کے علاوہ مولانا نثار احمد کانپوری نے انجمن خدام الحرمین کے قیام میں بھی بڑی گرمجوشی
 سے حصہ لیا۔ اس انجمن کے آرگنائزروں میں مولانا عبدالباری فرنگی علی، مولانا نثار احمد کانپوری
 مولانا حسرت موہانی اور مشیر حسین تدرائی شامل تھے۔ ملہ

۸ مئی ۱۹۲۱ء کو کراچی میں مولانا محمد علی جوہر کی صدارت میں آل انڈیا خلافت کانفرنس کا اجلاس
 منعقد ہوا جس میں متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی گئی کہ انگریز کی فوج میں مسلمانوں کا بھرتی ہونا
 شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے اس قرارداد کی حمایت میں پانچ سو علماء کا ایک دستخط شدہ فتویٰ
 بھی کانفرنس میں تقسیم کیا گیا چنانچہ حکومت نے خلافت کانفرنس کے سات رہنماؤں کے خلاف بغاوت
 کے الزام میں مقدمہ قائم کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت
 علی، مولانا نثار احمد کانپوری، پیر غلام مجدد و سر ہندی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، حسین احمد مدنی اور
 شنکر اچاریہ کو مختلف مقامات سے گرفتار کر کے کراچی لایا گیا۔ اور ۲۶ ستمبر ۱۹۲۱ء کو کراچی کے خالقہ بنیال
 میں مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی۔ اور مقدمہ سیشن سپروکرویا گیا جہاں سے سوائے شنکر اچاریہ کے
 سب رہنماؤں کو دو دو سال قید یا مشقت کی سزا سنائی گئی۔ مولانا نثار احمد کی دوسری مرتبہ گرفتاری ۱۹۲۵ء
 میں عمل میں آئی۔ جبکہ آپ نے یتیم خانہ اسلامیہ پر بیڈ بازار کانپور میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے
 حجاز میں مقامات مقدسہ کے اہتمام پر شدید احتجاج کیا حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ہندوستان
 کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے حکومت حجاز سے احتجاج کرے اور بھاری کاغذ
 کو روکے۔ غرض کہ مولانا نثار احمد کانپوری کی پوری زندگی عالم اسلام کی سر بلندی کے لئے جدوجہد
 کرتے ہوئے گزری۔ آپ نے جب اور جس تحریک میں حصہ لیا اس کے لئے بے پناہ قربانیاں دیں اور
 اپنی ذات کو تو می خدمات کے لئے وقف کر کے رکھ دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے کہ اس عظیم
 رہنما کو موزمبین اور تذکرہ نگاروں نے بھلا دیا اور کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ ان کی
 زندگی اور شخصیت سے نئی نسل کو روشناس کرایا جائے۔

۴۴ جنوری ۱۹۳۱ء کو جب مولانا نثار احمد کانپوری کو اطلاع ملی کہ مولانا محمد علی جوہر لندن میں

ملہ۔ علماران پالیٹکس ص ۲۹۱۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مبلوہ کراچی ۱۹۷۳ء



مولانا احمد حسن کانپوریؒ

استاذ ذمّن حضرت مولانا احمد حسن کانپوری ۳ صفر ۱۲۹۶ء کو ڈسکہ ضلع حصار پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولانا جلال الدین رومی کی وساطت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ابتداً حصول علم کی جانب کوئی رغبت نہ تھی چنانچہ سن بلوغت کو پہنچنے تک کچھ نہ پڑھ سکے بعد میں خیال آیا اور ابتدائی تعلیم اپنے برادر خورد حافظ موسیٰ اور اپنے والد مولانا عظمت اللہ سے حاصل کی اور تکمیل علوم کے لئے امرتسر ہوشیلا پور، ملتان، پشاور، پانی پت، بہاولپور، مظفرنگر، لکھنؤ، چربا کوٹ اور خیرآباد کا سفر اختیار کیا۔ لیکن اطمینان قلب کانپور پہنچ کر حاصل ہوا۔ اور آپ استاذ العلماء حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے درس میں شامل ہوئے جو مدرسہ فیض عام کانپور میں مسند درس و تدریس پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن رسا عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ جلد ہی تمام علوم و فنون کی تکمیل کر لی اور سہارنپور کے مدرسہ میں بحیثیت استاذ مسند درس پر متمکن ہوئے۔ بعد میں مدرسہ فیض عام میں چلے آئے اور تمام زندگی کانپور میں ہی درس و تدریس میں گزار دی۔ آپ کو اویس دوداں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے قلبی لگاؤ تھا چنانچہ

ایک مرتبہ آپ نے بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کی لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔
 ۱۰ احمد حسن تمہارا حصہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس ہے: چنانچہ آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہو کر خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت پیر سید بہر علی شاہ گولڑوی انہی ایام میں آپ سے تعلیم کے لئے کانپور پہنچے لیکن آپ مکہ معظمہ روانگی کے لئے تیار تھے چنانچہ پیر صاحب علی گڑھی پہنچے جہاں استاذ العلماء حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی مسند درس و تدریس پر فائز تھے۔ کئی سال کے بعد پاک پٹن کے عرس میں مولانا احمد حسن کانپوری اور پیر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ تو مولانا نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ کاش میں آپ کو چند اسباق پڑھا دیتا پیر سید غلام محی الدین گولڑوی سے ہر منبر میں روایت ہے کہ میں نے کسی معزز بزرگ کو ایسی لوزانی اور جاذب نظر شکل و شباهت کا نہیں دیکھا جیسے حضرت مولانا احمد حسن کانپوری تھے۔ شفاف گندمی رنگ، کشیدہ قامت، سفید ریش اور اعلیٰ درجے کی نفاست پسندی، گفتگو کے وقت گویا منہ سے بھول جھڑکتے تھے۔ اس شان علم پر اخلاص و انکسار جمید۔ مولانا فیض احمد فیض نے لکھا ہے کہ مولانا احمد حسن کانپوری کے نیاز کا ذکر فرماتے ہوئے قبلہ پیر سید غلام محی الدین گولڑوی کی طبیعت پر وقت طاری ہو گئی اور فرمایا کہ مولانا نے مکہ معظمہ لے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مزار پر چھ ماہ قیام کیا اور ہر روز پانی و ریش مبارک سے مزار کو صاف کیا کرتے تھے۔ اپنے وقت کے استاذ الکمل کی اپنے شیخ کے ساتھ یہ نسبت نیاز اور عقیدت آج کل کے علماء اور زعماء کے لئے مقام عبرت و نصیحت ہے۔ سلہ

مولانا احمد حسن کانپوری کی پہلی شادی پشیاہ کے ایک رئیس کی صاحبزادی سے ہوئی جبکہ دوسری شادی مولوی عنایت حسین دہلوی کی صاحبزادی سے اور تیسری شادی لکھنؤ کے سید گھڑنے میں ہوئی۔ پہلی بیوی سے مولانا مشتاق احمد کانپوری، مولانا شام احمد کانپوری مولانا عبدالرحمن، مولانا خلیل الرحمن نے نو عمری میں انتقال کیا۔ دوسری بیوی سے مولانا حافظ سلہ۔ ہر نمود و صورت

محمد احسن، آمنہ بی بی، عائشہ بی بی، اور حافظ محمد احسن، تیسری بیوی سے منور جہاں زوجہ
شاہ عبدالرحیم سجادہ نشین کلیر شریف اور نور جہاں بیگم زوجہ برادر خورد شاہ عبدالرحیم،
وصاحبزادہ غلام معین الدین اور آفتاب جہاں نے نو عمری میں انتقال کیا۔

حضرت محدث سورتی کے مولانا احمد احسن کانپوری سے نہ صرف معاہدہ مراسم تھے۔
بلکہ آپ مولانا کے ہم زلف بھی تھے۔ کیونکہ مولوی عنایت حسین کی بڑی صاحبزادی لطیفہ
صاحبہ حضرت محدث سورتی کے عقد میں تھیں یہی وجہ ہے کہ مولانا احمد احسن کانپوری اور حضرت
محدث سورتی چالیس سال تک رشتہ رفاقت میں پیوستہ رہے کسی بھی مرحلہ پر ایک دوسرے
کے موقف سے اختلاف نہیں کیا۔ ندوۃ العلماء کی تنظیم کے ابتدائی ایام میں غیر مقلدوں
نے ندوہ میں جو مفاسد پیدا کئے ان کو دور کرنے کی جدوجہد میں مولانا احمد احسن کانپوری نے
حضرت محدث سورتی اور مولانا احمد رضا خان سے مکمل تعاون کیا جس کا تفصیلی ذکر حضرت
کے ملفوظات اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ عشاء میں دیوبند کے ایک طالب علم نے مسئلہ
امکان کذب باری تعالیٰ سے متعلق آپ سے استفسار کیا جس کے جواب میں آپ نے
ایک مبسوط رسالہ "تنزیہ الرحمن عن شائبۃ الکذب والنقعات" تحریر
فرمایا جس پر مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے تقریظ تحریر فرمائی۔ اس رسالہ کی اشاعت
سے عقائد دیوبند پر بھاری بھاری چٹائی چنانچہ مولانا محمود الحسن (شیخ الہند) نے اس کے
جواب میں ایک رسالہ "جہد المقل" لکھا جس کا جواب مولانا عبد اللہ ٹوٹکی نے رسالہ "عجالتہ
الراکب" میں دیا ہے۔ مولانا احمد احسن کانپوری کی تصانیف میں قرآن مجید کی تفسیر (قلبی)،
شرح حمد اللہ، افادات احمدیہ، شرح ترمذی (قلبی)، اور مشنوی مولانا روم کی
شرح امدادیہ پر حاشیہ شامل ہے۔

۳۰ صفر المنظر ۱۳۲۲ھ کو آپ کا وصال ہوا۔ مولانا شاہ محمد عادل نے نماز جنازہ
پڑھائی اور سباطی قبرستان کانپور میں سپرد قبر کیا گیا۔ حضرت مولانا کے شاگردوں کی کثیر
تعداد کا شرف، شام، موصل، حلب، بخارا، افغانستان، مصر و عراق اور پاک و ہند میں پھیلی

ہوتی تھی جن کا فیض آج بھی جاری ہے۔ تباری عبدالرحمن الہ آبادی اور حضرت مولانا محمد غازی
گوٹروی نے آپ سے چند اسباق کا درس لیا تھا۔ مولانا احمد احسن کانپوری کی حیات و خدمات
پر راقم الحروف نے تفصیلی معلومات بذریعہ مکتوب حضرت کے نبیرہ حافظ شبیر احسن صاحبزادی
سے حاصل کی ہیں جو کانپور میں مقیم ہیں اور حضرت کے فیض کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔

آپ کے نواسے ڈاکٹر مغیث فریدی دہلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ
اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں ایک اور نواسے معین فریدی عرف نواب میاں اگرہ
میں مقیم ہیں اور درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں ایک نواسی محترمہ نفیس
فاطمہ زوجہ قبلہ محمد اکرام فریدی حیدرآباد سندھ میں مقیم ہیں۔ راقم الحروف پر بے پناہ
شفقت فرماتی ہیں جن کے بڑے صاحبزادے قدیر الاسلام نحری نے اردو میں ایم اے
کیا ہے اور علامہ اقبال ہائی اسکول میں مدرس ہیں۔

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی

چودھویں صدی ہجری کے ادائیں میں جن علماء کرام نے مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور اسلام
کو تفریح سے چلنے کے لئے گرفتار خدمات انجام دیں ان میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد
رضا خان بریلوی کا اسم گرامی سرفہرست آتا ہے۔ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور برصغیر میں
اس کے پیروکاروں نے سرکارِ دو عالم تا جدارِ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے فضائل کو گھٹا کر دینے کے سائے پیش کرنے کی جو مذموم تحریک شروع کی وہ تمام مسلمانوں کے
لئے شدید غم و غصہ اور تکبر کا باعث تھی۔ مولانا شاہ فضل حق خیر آبادی۔ مولانا قطب الدین
دیوبندی، مولانا فضل رسول بیلوئی، مولانا تباری عبدالرحمن پانی پتی، مولانا عنایت احمد کاندھلوی،
مولانا نقی علی خان بریلوی، اور اسی دور کے متعدد علماء کرام نے اس فتنہ کے خلاف علمی
جہاد کیا اور مختلف موضوعات پر گرفتار رسائل و کتب تصنیف فرما کر تمام مصطفیٰ کے

تحفظ کے لئے سنی بیخ فرائی لیکن ۱۸۵۷ء کے بعد جب وہابی عناصر غیر مقلدین اور منکرین ختم نبوت کی شکل میں سامنے آئے۔ تو علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس ذہنیت و تحریک کے خاتمہ کے لئے صرف آرا ہو گئی۔ اس ضمن میں علمی سطح پر سب سے نمایاں خدمت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے انجام دیں اور نہایت سخی کے ساتھ اوصاف محمد سے انکار کرنے والوں کو پابند فتویٰ کیا۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق مصطفیٰ میں غرق اور محبت مصطفیٰ میں فرد تھے۔ اپنے نظم و شرواں اصناف ادب میں وہ شہ پارے تصنیف فرمائے جو آج بھی مسلمانوں کے سینے عشق مصطفیٰ سے معمور رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ۱۰ اشوال المکرم ۱۲۷۲ھ مطابق ۱۲ جون ۱۸۵۶ء بریلی کے ایک محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد امام المتکلمین مولانا تقی علی خان اور دادا مولانا رضا علی خان اپنے وقت کے عالم بے بدل تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم مرزا غلام قادر بیگ سے اور باقی کتب اپنے والد ماجد سے پڑھیں۔ مولانا عبدالعلی لاہوری سے بھی شرح چغینی کے کچھ سبق پڑھے اور تقریباً چودہ سال کی عمر میں اپنے والد سے سند فراغت حاصل کر لی۔

بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت کی ذہانت و ذکاوت کے چرچے عام تھے چنانچہ آپ نے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد ہی ایک سوال کے جواب میں فتویٰ تحریر فرمایا جس سے متاثر ہو کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی۔ اور پھر تادم آخر آپ فتویٰ نویسی فرماتے رہے۔ مولانا عبدالعظیم شرف قادری لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے علم و نظر کی بختگی، نگاہ کی جولانی، استدلال کی قوت، تنقید کی شدت اور بے پناہ قوت فیصلہ کا اندازہ ہزار ہا صفحات پر پھیلے ہوئے آپ کے فتاویٰ کو دیکھ کر بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور حضرت محدث سورتی کی وفات تقریباً نصف صدی پر مشتمل ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ دونوں زعمائے ملت یک جاں دو قالب تھے تو بیجا نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت ۲۳ مولانا عبدالعظیم شرف قادری۔ مکتبہ قادریہ لاہور۔

پر محدث سورتی سن و سال میں فوقیت رکھتے تھے لیکن اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کے ہر مقام پر معترف رہے۔ ہمیشہ اعلیٰ حضرت کو واجب الاحترام سمجھا اور ہر معاملہ میں اعلیٰ حضرت کی رائے اور فتویٰ کو فوقیت دی۔ یہ ان دونوں مسنین ملت کی باہمی وفات اور اخلاص کا ہی کرشمہ تھا کہ چودھویں صدی کی ابتدا میں علماء کی ایک ایسی مضبوط جماعت منظر عام پر آئی جس نے دین میں رخنہ اندازی کی ہر کوشش کاجرات مندی سے مقابلہ کیا اور مسلک حقہ کی حفاظت میں اپنے روز و شب ایک کر دیئے۔ پیش نظر تہذیب کرہ میں اعلیٰ حضرت اور محدث سورتی کے مراسم اور مشترکہ کارشوں کا متعدد مقامات پر کثرت سے ذکر موجود ہے جس سے فائزین کرام ان بزرگوں کے باہمی اخلاص و محبت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اعلیٰ حضرت اور محدث سورتی کی یہ دوستی اغیار کی آنکھوں میں مثل غار کھٹکتی تھی۔ چنانچہ علماء و باہمیہ کے علاوہ علماء دیوبند نے بھی اکثر اپنی کتب و رسائل میں طنز کے تیر چلپے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اور شیخ خاص مولوی محمد رفیع حسن درجنوری نے اپنے ایک مکتوب میں اعلیٰ حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر میری حالت کی پوری تحقیق منظور ہو تو اپنے وزیر اعظم مولوی امجد صاحب سورتی سے دریافت کر لیجئے۔

اسی رسالہ میں ایک اور مقام پر اسی شخص نے محدث سورتی کو چودھویں صدی اور بدعتیوں کا محدث کہہ کر مخاطب کیا ہے لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور حضرت محدث سورتی نے جو لوجہ اللہ مسلک حقہ کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے ان تمام دشنام طرازیوں اور خرائات کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اور اپنے کام کو جاری رکھا۔

حضرت محدث سورتی کے شاگردوں پر اعلیٰ حضرت کی نظر انتہا ہمیشہ رہتی یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت محدث سورتی کے شاگردوں کی اکثریت کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور ان سے مسلک اہلسنت کی کما حقہ ترویج و اشاعت کا کام لیا۔ خصوصاً مولانا ضیاء الدین مدنی مولانا ظفر الدین بہاری، مولانا عبدالاحد بیلی، مولانا امجد علی اعظمی انصاری، مولانا

۱۰۔ اسکاٹ المحدثی مسئلہ، مطبوعہ کتب خانہ امدادیہ دیوبند (یو پی) ۱۳۲۶ھ

عبدالرشید بیسپوری، مولانا محمد اسماعیل محمود آبادی، علامہ سید محمد محمدت کچھوچھوئی،
مولانا صدیق الدین پبلی بھیتی، مولانا عبدالحق پبلی بھیتی۔ اور مولانا سید سلیمان اشرف وغیرہ
کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

مولانا ظفر الدین بہاری نے اپنی کتاب 'حیات اعلیٰ حضرت' میں اور مولانا نسیم بستی
نے اعلیٰ حضرت بریلوی میں حضرت محدث سورتی اور اعلیٰ حضرت کی باہم رفاقت کے متعدد
واقعات درج کئے ہیں جن کو خوف طوالت سے یہاں درج نہیں کیا جا رہا ہے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل سے اس قدر نوازا تھا کہ آپ نے
کم و بیش پچاس علوم پر گرانقدر تصانیف تالیف فرمائیں جن کو عرب و عجم کے علماء نے
اعلیٰ حضرت کی علمیت اور مہر دانی پر سند قرار دیا۔ اس کے علاوہ ۱۳۱۶ھ میں پٹنہ کے
ایک اجتماع میں پاک و ہند کے علماء و محققین کی اکثریت موجود تھی۔ آپ کو مولانا عبدالعزیز
بداونی نے مجدد مائتہ حاضرہ کے خطاب سے مخاطب کیا جسکی تمام علمائے تائید فرمائی۔
اعلیٰ حضرت کی مذہبی اور ملی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اور اس کو رقم کرنے
کے لئے ایک علیحدہ تذکرہ کی ضرورت ہے کیونکہ برصغیر کی تمام قومی و سیاسی تحریکات میں آپ
کا عمل دخل رہا ہے اور خصوصاً قیام پاکستان کے سلسلہ میں علمائے کرام نے جو خدمات انجام
دیں وہ آپ کے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خاں بریلوی کی مرہون منت
ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وصال ۲۵ صفر ۱۳۲۲ھ بروز جمعہ دو بجے ۳۸ منٹ پر ہوا۔ راقم الحروف
نے نومبر ۱۹۶۹ء میں بریلی میں آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور آپ کے صاحبزادے
مفتی اعظم حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خاں بریلوی کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ
اعلیٰ حضرت کی روح پاک سے خالو زادہ محدث سورتی کے رابطہ عقیدت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین۔

مولانا ارشاد حسین محدث رامپوری

حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری تیرھویں صدی ہجری کے بزرگ ترین عالم اور
محدث کامل تھے۔ آپ کا حلقہ دس بہت وسیع تھا اور طلبہ دور دراز سے حصول علم کے
لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے آپ حضرت مجدد الف ثانی کی اولاد میں سے تھے
اور نودسائے سے آپ کا شجرہ نسب حضرت مجدد الف ثانی تک پہنچتا ہے۔ آپ کے بزرگ
سرہند پر سکھوں کی تعدی کے بعد بریلی آئے اور پھر رامپور پہنچے۔ مولانا ارشاد حسین رامپوری
کی ولادت ۱۳ صفر ۱۲۳۸ھ کو ہوئی۔ تکمیل علوم رامپور میں حضرت مولانا محمد نواب خان
مجددی سے کی۔ تقریباً چالیس سال بلاسپور دروازہ پر واقعہ میاں خواجہ احمد کے مدرسہ
میں دس حدیث دیا۔ آپ کے تلامذہ میں مولانا سید دیدار علی محدث الوری مولانا شاہ
سلامت اللہ رامپوری۔ علامہ ظہور المسین رامپوری۔ مولانا عبدالغفار رامپوری اور علامہ
مشعل نعمانی قابل ذکر ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے حیات مشعلی میں لکھا ہے کہ مشعلی
نعمانی کو حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری کی وسعت نظر۔ اصابت رائے اور مجتہدانہ شرف
نگاہی کا اعتراف ہمیشہ رہا اور اکثر بسبیل تذکرہ آپ کے کمال فہم و ادراک اور قوت تفکر
کے واقعات بیان فرماتے۔ مولانا ارشاد حسین نہایت مستند حنفی تھے مولوی نذیر حسین
دہلوی کی کتاب 'مدیا الحق' کے جواب میں انتصار الحق لکھی اور علامہ مشعلی کو بھی فقہ حنفی
میں بہت غلو تھا۔ چنانچہ آپ نے بحیثیت استاد مولانا ارشاد حسین رامپوری کا انتخاب کیا۔
مولانا ارشاد حسین رامپوری کو ان کے تقریباً تمام معاصر علماء نہایت محترم رکھتے
تھے۔ حضرت محدث سورتی کو بھی مولانا کی ذات سے ایک خاص تعلق تھا چنانچہ آپ اکثر بیشتر
رامپور تشریف لیتے اور حضرت مولانا سے نیاز حاصل کرتے دختر زادہ حضرت محدث
سورتی قبلہ حسن میاں نے راقم الحروف کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ مولانا جب

بھی پہلی بحیثیت تشریف لے جاتے تو حضرت محدث سورتی کے جہان ہوتے حضرت محدث سورتی نے اپنی تحریروں میں اکثر مقامات پر مولانا ارشاد حسین رامپوری کا تذکرہ نہایت عقیدت احترام سے کیا ہے چنانچہ منیۃ المصلیٰ کی شرح التعلیق المجلدی میں ایک مقام پر آپ کا ذکر ان الفاظ آداب کے ساتھ کیا ہے۔ و سپہنا تحقیق شریف لقطاب الارشاد المحدث النبویہ والفقیرہ الوجیبہ سندنا العلامة و مستند الفہامہ سیدنا و مولانا الشیخ ارشاد حسین الرامپوری۔ مولانا ارشاد حسین رامپوری کے تلامذہ سے حضرت محدث سورتی کا تعلق آپ کی وفات کے بعد بھی برقرار رہا۔ اور آپ مولانا سلامت اللہ رامپوری شاگرد رشید مولانا ارشاد حسین رامپوری کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ مولانا ارشاد حسین رامپوری کا وصال ۱۵ جمادی الآخر ۱۳۱۵ھ بروز پیر لڑچہ مرض تپ محرقہ ہوا۔

۲۰ روزہ منیر سے تاریخ وفات نکلتی ہے۔ راقم الحروف نے مولانا ارشاد حسین رامپوری اور مولانا سلامت اللہ رامپوری کے شاگرد مولانا حشمت اللہ خان رامپوری سے نومبر ۱۹۶۶ء میں ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان کی یادداشتیں قلبتہ کیں۔ مولانا حشمت اللہ خان کراچی میں اپنے بڑے بیٹے عظمت اللہ خان کے ساتھ گوجرانوالہ ناظم آباد پر عرصہ ۲۰ سال سے مقیم تھے۔ اور ۵ جنوری ۱۹۶۹ء کو ۱۰۲ برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا سخی حسن نارتھ ناظم آباد کے قبرستان میں سپرد خاک کئے گئے۔

حکیم خلیل الرحمن خان

طیب حاذق حکیم خلیل الرحمن خان پہلی بحیثیت سے جانب اتر ایک گاؤں موضع جگروٹی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے آباؤ اجداد افغانی تھے۔ اور حافظ رحمت خان بدھیلی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ حکیم خلیل الرحمن خان نے ابتدائی تعلیم پہلی بحیثیت اور بریلی میں حاصل کی اور پھر کانپور میں مولانا مفتی لطف اللہ علیگرہی کے درس میں شامل ہو کر درس نظامی کی تکمیل کی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا محمد علی مونگیری، مولانا احمد حسن

۱۴۵۔ التعلیق المجلدی۔ ص ۱۴۵

کانپوری، اور مولانا محمد حسن سنبھلی بھی شامل ہیں۔ حضرت محدث سورتی سے آپ کے مراسم مدرسہ فیض عام کانپور میں ہی استوار ہوئے اور پھر تادم مرگ یہ رشتہ استوار رہا۔ آپ نے جھولی ٹولہ لکھنؤ میں حکیم عبدالغزیز سے تعلیم طب حاصل کی اور اپنے عہد کے نامور اطباء میں شمار ہوا۔ اویس دوران حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی سے آپ کو بحیثیت اور خلافت کا شرف حاصل تھا۔ خاندانی رئیس ہونے کی بنا پر روہیلکھنڈ میں آپ کو نہایت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی سے آپ کے خصوصی مراسم تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کی ہر آواز پر لبیک کہا اور بے خطر ہو کر مسلک اہل سنت کی تبلیغ و اشاعت میں حصہ لیا۔ خصوصاً ندوۃ العلماء کی اصلاح اور تحریک ترک موالات کے دوران آپ نے دامن، دامن، دامن، سنی اعلیٰ حضرت کا ساتھ دیا۔ قاضی عبدالوجید عظیم آبادی نے شاگرد میں عظیم آباد پہنچنے والے علمائے اہلسنت کی شان میں جو قصیدہ امالی الابرار کے نام سے لکھا تھا اس میں حکیم خلیل الرحمن کو یوں حراج تحسین پیش کیا ہے۔

بیطب خلیل رحمن اللہ

بشکم فقید صحیحہ فقرد

۱۳۱۵ھ میں رسالہ تحفہ حنفیہ کے پٹنہ عظیم آباد سے اجراء پر آپ نے ایک نظم کہی تھی جو یوں شروع ہوتی ہے۔

قبل کی طرف کو بلا تھا اٹھائے، یارب خلیل کی دعا ہے

تضرع ہے پٹنہ سے یہ جاری، دل کامرے بس یہ مدظلے

آپ کے صاحبزادے حکیم سعید الرحمن خان اور حکیم محمود الرحمن خان حضرت محدث سورتی کے شاگرد عزیز اور نامی گرامی طیب گزرے ہیں حکیم سعید الرحمن خان ایک عرصے تک سیر پر بورڈ پہلی بحیثیت کے چیرمین رہے۔ جبکہ حکیم محمود الرحمن خان حیدرآباد دکن میں شاہی علاج کے عہدے پر فائز تھے۔ حیدرآباد دکن کے ممتاز شاعر شاذ ممکنت جب ۱۹۶۹ء میں کراچی

۱۴۵۔ رموز الاطباء جلد دوم ص ۱۴۵۔ تحفہ حنفیہ ص ۱۴۵۔ جمادی الثانی ۱۳۱۵ھ

آئے تو راقم الحروف سے ایک ملاقات میں انہوں نے حکیم محمود الرحمن خان کا ذکر کیا اور بتایا کہ حکیم صاحب حیدرآباد کی ہرولہ عزیز اور ادب دوست شخصیات میں شمار ہوتے تھے اور اکثر ان کے مکان پر شرف و سخن کی محفل گرم رہتی تھی۔ حکیم خلیل الرحمن کے برادر زادے حکیم الحاج مولوی عبید الرحمن خاں بھی حضرت محدث سورتی کے شاگرد تھے۔ تمام عمر پہلی بھیت میں رہے۔ نہایت نفاست پسند خوش اخلاق اور پابند شریعت تھے۔ علمائے اہلسنت آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پہلی بھیت میں ہی اکتوبر ۱۹۵۸ء کو انتقال ہوا۔

ندوة العلماء کے ضمن میں علمائے اہلسنت کی جانب سے تحریر کیے جانے والے سائل اور کتب میں حکیم خلیل الرحمن خاں کا بکثرت ذکر ملتا ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی۔ حضرت محدث سورتی کے وصال کے وقت حیات تھے۔

مولانا سید دیدار علی محدث الوری

مولانا سید دیدار علی محدث الوری کا شمار برصغیر پاک و ہند کے ممتاز محدثین میں ہوتا ہے۔ خصوصاً تقسیم سے قبل پنجاب میں مسلک اہلسنت کے فروغ اور علم حدیث کی تدریس کے جو چراغ روشن کئے ان سے آج بھی سرزمین پنجاب مہمور و منور ہے۔ مولانا سید دیدار علی بن سید نجف علی محلہ نواب پورہ ریاست الوری میں ۱۳۱۵ھ کو پیدا ہوئے۔ آپ کے اجداد مشہد سے اودھ کے خطہ بلگرام آئے اور پھر ریاست الوری میں مستقل سکونت اختیار کی ابتدائی تعلیم اپنے چچا حضرت مولانا سید نثار علی الوری سے حاصل کی اور پھر وہلی پینچے — جہاں حضرت مولانا شاہ کرامت اللہ دہلوی کے علم کا چراغ روشن تھا۔ اور طلباء کی ایک کثیر تعداد مختلف بلاد و ممالک سے تحصیل علم کے لئے آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتی تھی۔ حضرت شاہ کرامت اللہ دہلوی سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ بعض کتب کی تکمیل کے بعد — استاذ العلماء حضرت مولانا سید ارشد حسین رامپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اصول فقہ و معقولات کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران آپ نے کچھ کتابیں حضرت مولانا شاہ منایت اللہ خان رامپوری سے بھی پڑھیں۔ ماخوذ میں دورہ حدیث کے لئے امام احمدین حضرت مولانا احمد علی محدث بہار پور کی

کی خدمت میں پہنچے یہاں پر شیخ العارفین قبلہ عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ گڑڑی قدس سرہ اور حضرت مولانا شاہ دینی احمد محدث سورتی سے مراسم کا آغاز ہوا۔ اور پھر تقریباً چالیس سال ان دونوں نفوس قدسیہ کے درمیان اخوت و محبت کا رشتہ قائم رہا۔ حضرت محدث سورتی اور مولانا دیدار علی محدث الوری کے درمیان ایک اور قدر مشترک اور رشتہ باطن حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی ذات گرامی تھی۔ جن سے دونوں حضرات کما جازت و خلانت کا شرف حاصل تھا۔ مولانا شاہ حسین گڑوی نے اپنی کتاب رجال السنہ میں مولانا احمد علی محدث بہار پور کی کے ان تینوں ہم درس تلامذہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حکیم اہلسنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری نے مخزن برکات کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ مغربی پاکستان میں سنیت کی نشاۃ ثانیہ کا سہرا حضرت سید دیدار علی محدث الوری کے سر بندھتا ہے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا یار محمد فریدی فرمایا کرتے تھے کہ اگر سید دیدار علی لاہور آکر درس و تدریس اور عفظ تبلیغ کا سلسلہ شروع نہ کرتے تو سارا پنجاب و بانی مذہب قبول کر لیتا۔

مولانا سید دیدار علی نے الوری میں مدرسہ قوت الاسلام قائم کیا پھر گروہ کے خطیب و مفتی مقرر کئے گئے ایک عرصہ تک جامعہ خانیہ لاہور میں مسند درس پر فائز رہے۔ سید وزیر خان لاہور کی خطابت قبول کی اور ۱۳۲۳ھ میں دارالعلوم حزب الاعانت کی بنیاد ڈالی اور تادم آخر اسی مدرسہ میں علوم و فنون کی ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ کے صاحبزادوں علامہ ابوالحسنات لاہوری اور استاذ احمدین مولانا ابوالبرکات سید احمد لاہوری نے ۲۲ رجب ۱۳۵۲ھ کو آپ کے وصال کے بعد اس علمی خدمت کا بیڑہ اٹھایا اور آج بھی یہ دارالعلوم علامہ محمود احمد رضوی کی سرپرستی میں مسلک اہلسنت کے فروغ میں شہد روز معروف ہے۔ راقم الحروف کو ۱۹۵۸ء میں حضرت مولانا ابوالبرکات سید احمد لاہوری سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ اور راقم الحروف نے حضرت محدث سورتی کے بارے میں حضرت مولانا سے معلومات حاصل کیں۔ اس موقع پر ممتاز اور مکاتبہ قادریہ لاہور کے ناظم مولانا عبدالحکیم شرف قادری اور دارالعلوم نظامیہ رضویہ کے ناظم اعلیٰ مولانا مفتی عبد القیوم نزاری بھی موجود تھے۔

ع۔ مخزن برکات حدیث، رضا دارالمصطفیٰ حاشتی، مطبوعہ مکتبہ مخزن برکات لاہور ۱۳۹۵ھ

اور میاں منصور عالم پوری وغیرہ کو قبولیت عام حاصل ہوئی۔ مولانا عتیق احمد نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مولانا عبدالرشید خان نے وعظ میں سماع سورتی کا انکار کیا اس پر زانی خلیل الدین حسن خان نے بیعتی نے اختلاف کیا۔ حاجی مزیار احمد نے بھی ان کی تقریر کو نہ سمجھا تو انہوں نے تفسیر کی عبارت پڑھ کر سنائی تب بھی بات سمجھ میں نہ آئی چنانچہ وہاں سے سب لوگ جن میں حضرت محدث سورتی اور حاجی سید الطلیف خان بھی شامل تھے۔ شاہ جی شیر میاں کی خدمت میں پہنچے۔ شاہ صاحب کو باہر لے کر توفیق ہوا کچھ دیر بعد اندر سے تشریف لائے تو ایک کتاب ہاتھ میں تھی اور انگلی اوراق کے درمیان تھی۔ یہ خلاف معمول بات دیکھ کر سب کو تعجب ہوا۔ آپ نے وہ کتاب اس جگہ سے کھولی کہ حضرت محدث سورتی کے حوالے کی اور کہا کہ اس کو پڑھیں۔ جب پڑھا تو اس میں سماع سورتی کی بکت تھی۔ شاہ جی شیر میاں کی لاتعداد کرامات زبان زد خاص و عام ہیں۔ راقم الحروف کو اکتوبر ۱۹۶۹ء میں آپ کے فرار پر حاضری اور سالانہ عرس میں شمولیت کا شرف حاصل ہوا ہے۔

حضرت شاہ جی شیر میاں کا وصال ۱۲۲۳ھ کو تپہ لرزہ میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا سلامت اللہ رام پوری نے پڑھائی جبکہ تدفین میں روہیلکھنڈ کے نامی گرامی علماء اور ہزاروں افراد شریک تھے۔

۱۔ مولانا عتیق احمد صاحب زکریا، مولانا عتیق احمد حضرت محدث سورتی کے فاضل تلامذہ میں سے تھے اور جامع مسجد پبلی بھیت میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ تفسیر و تالیف سے گہرا شغف تھا۔ شعر خوب کہتے تھے۔ آپ نے ہجری سال کے ہجرت میں پیش آنے والے تمام تاریخی واقعات پر مشتمل ایک نظم لکھی تھی جو محمد حنفیہ پبلی کی ۱۳۱۵ھ کی اشاعتوں میں شائع ہوئی اس کے علاوہ آپ کے مضامین مختلف رسائل کے تراجم اور منظوم منتقبتیں بھی معاصر مسائل میں شائع ہوا کرتی تھیں۔ آپ کے وصال اور اہل خاندان کے بارے میں تلاش و جستجو کے باوجود کچھ تیر چل نہ سکا۔

مولانا عبد العلی آسی مدرسی

مولانا عبد العلی آسی مدرسی چنور کے رہنے والے تھے۔ لیکن جوانی میں تحصیل علم کیلئے لکھنؤ آگئے اور تمام عمر لکھنؤ میں ہی قیام کیا۔ آپ نے زیادہ تر درسی کتب مولانا الہی بخش فیض آبادی سے اور بعض کتب مولانا عبدالمطیٰ فرنگی علی سے پڑھیں اور فقہ، حدیث، نحو اور علم لغت میں کمال حاصل کیا۔ ابتداً آپ نے عبدالرحمن خان مالک مطبع نظامی کانپور کے یہاں کتب دینیہ کی تصحیح و تفسیر کی خدمت انجام دی اور اس فن میں پورے ہندوستان میں اپنی مثال آپ قرار پائے۔ فن طباعت سے آپ کو خاص شغف تھا۔ چنانچہ لکھنؤ سے ۱۳۲۳ھ میں اردو اور عربی کا ایک مشترکہ ماہنامہ رسالہ البیان جاری کیا جس نے عرب و عجم میں حدود مقبولیت حاصل کی۔ مہدی افادی نے افادات مہدی میں لکھا ہے کہ ملک میں عالمانہ اردو کے ساتھ عربی لٹریچر کے مذاق کی تجدید کے لئے البیان کو مثال ہیں یہی وجہ ہے کہ ادبی رسالوں میں یہ علانیہ ممتاز ہے۔ ۱۔

جناب نام سیتا پوری نے لکھا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ادبی رسالہ تھا جس کو قبولیت عام حاصل ہوئی۔ البیان کی ادارت کیلئے مولانا عبداللہ العمدی کو منتخب کیا گیا تھا جو اس زمانہ میں عربی کے ملے ہوئے صحافی و ادیب تھے۔ البیان سات آٹھ سال تک جاری رہا۔ اب اس کے فائل نایاب ہیں۔ ۲۔

مولانا عبد العلی آسی مدرسی — نے البیان کے اجراء کے بعد لکھنؤ کے محلہ محمود نگر میں مطبع آسی مدرسی کے نام سے ایک دلالت شاعت قائم کیا اور لیتھو پریس لگایا جو حسن طباعت کے لحاظ سے اپنے عہد کا مشہور پریس تھا۔ اس مطبع کے مہتمم مولانا آسی کے صاحبزادے مولانا عبد الولی تھے جبکہ آپ کے برادر خورشید مولانا عبدالاول جو پوری بھی مطبع میں تصحیح و تفسیر کا کام انجام دیتے تھے حکیم عبدالمطیٰ دکن بریلوی نے نرہتہ الخواطر میں مولانا آسی کے مختصر حالات درج کئے ہیں اور

۱۔ افادیت مہدی ص ۱۵۵۔ مہدی افادی۔
۲۔ حضور البیان، مطبوعہ ستمبر ماہی بھارت، کراچی، اپریل ۱۹۶۳ء

سہا ہے کہ دینی کتب کی نشوونما ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ حضرت محدث سورتی سے مولانا اسی کے بڑے دیرینہ مراسم تھے۔ کیونکہ مولانا اسی ہی مستند حنفی تھے اور غیر مقلدوں کو فرقہ باطل تصور کرتے ہوئے ہمیشہ ان کی تکذیب فرماتے آپ نے ایک غیر مقلد غلام نبی الدین کی فتنہ پرداز کتاب النظر المبین کے جواب میں ایک کتاب تہنید الوباب میں تحریر فرمائی اور محدث سورتی کا فتویٰ جامع الشواہد اس کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع کیا۔ تہنید الوباب میں پر حضرت محدث سورتی نے منظوم تقریظ تحریر فرمائی تھی۔ جو یہاں من و عن دوح کی جاتی ہے۔

تحریر بے نظیر و تقریر پذیر دشمن اثبات و جوہر تقلید مع موابہر علمای شاہیر محمدی خاں علامہ وحید قاسم ندوی صاحب تہنید الوباب مولانا اسی حنفی سورتی مدرس مدرسہ علیہ السلام

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| کمان بین وہ شیدا سے نقل و روایت | کہ حرمین وہ اہل اہل عقل و روایت |
| کمان بین وہ اصحاب و عوام سے سنت | کہ حرمین وہ ارباب فتوایں سے سنت |
| جو کہتے ہیں تقلید کو شرک و بدعت | اور اہل نقاہت کو اہل سفاہت |
| ذرا آئین دیکھیں یسین بصیرت | کہ تقلید اور فقہ جو میں سنت |
| اور اسپر جو شاہ حدیث اور آیت | کہ تقلید ہرگز نہیں شرک و بدعت |
| جو تقلید واجب ذر سے روایت | دلیل اسکی جو میں حدیث اور آیت |
| جو لاف نہیں کی سراسر جہالت | کہ تقلید شخصی کو کہتے ہیں بدعت |
| بھلا اہل تقلید ہوں اہل بدعت | یہ قول ایسا محمول ہو کہ بدعت |
| عداوت ہو انکی سراسر شرارت | شرارت میں انکی بھری ہوشیاری |
| بہی انکی عداوت جو شرانکی خصلت | فریب انکی خصلت جو کید انکی عداوت |
| جو بدعت میں انکے گمان مذمت | مذمت میں انکے جو ایسا بدعت |
| ایہ پر طعن انکی نعم و فراست | غیبوں پر طعن انکی عقل و کیاست |
| مقلد ہیں سب سائیں بہت | مقلد ہیں سب طہین روایت |
| یہ تقلید واجب ہوا زنا و محبت | یہ تقلید ثابت ہوا زوی محبت |
| یہ تقلید مفروض ہو ابدا بہت | یہ تقلید ماسور ہو بالروایت |
| یہ تقلید ایہ کی جو میں سنت | یہ تقلید ایمان کی جو علامت |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| جو تقلید و خضر رو دین و ملت | جو تقلید ارشاد و پیر طریقت |
| جو تقلید اسلام کی میں محبت | جو تقلید دین نبی پر ولایت |
| جو تقلید واجب زوی روایت | جو تقلید ثابت زراہ درایت |
| جو تقلید سر منزل راہ سنت | جو تقلید سر شہراستقامت |
| جو تقلید باغ و بہار ہدایت | جو تقلید نقش و نگار سعادت |
| جو تقلید فشاے ضبط شریعت | جو تقلید فحوا سے ربط طریقت |
| جو تقلید فتح در استخارت | جو تقلید بال و پر استخارت |
| جو تقلید خو کردہ استکانت | جو تقلید پروردہ استقامت |
| جو تقلید تعلیم ارباب محبت | جو تقلید تقسیم اصحاب ملت |
| جو تقلید بسے ریاحین خبرت | جو تقلید گوے گریبان عبرت |
| جو تقلید تاج سراسر استقامت | جو تقلید بیخ استقامت |
| جو تقلید ڈر و محیظ کرامت | جو تقلید نور و سبط ولایت |
| جو تقلید سنت پر روشن ولایت | جو تقلید مومن کی پاکیزہ خصلت |
| جو تقلید تا کید حکم رسالت | جو تقلید تائید امر و ہدایت |
| جو تقلید مرقاۃ ہام روایت | جو تقلید مراثی زوی روایت |
| جو تقلید بران دین دیانت | جو تقلید سلطان رشہ ہدایت |
| جو تقلید آئینہ من صورت | جو تقلید گنجینہ نقد سیرت |
| جو تقلید منقح باب ارادت | جو تقلید مصباح تاب عبادت |
| جو تقلید حاصل شرک بدعت | جو تقلید تحصیل دین و ملت |
| جو تقلید رسم و رواج اہل سنت | جو تقلید آئین اہل دیانت |
| جو تقلید کائناتیں جگہ و مکان | جو تقلید کائناتیں جگہ و مکان |
| جو تقلید فرض اور واجب آیت | جو تقلید کی دین میں سر ضرورت |
| جو تقلید درجہ ان و نوح ولایت | جو تقلید سرور یا رض پر یاست |
| جو تقلید اسلاموں کی علامت | جو تقلید ایمانوں کی شہادت |
| جو تقلید مہول عالمی سنت | جو تقلید مہول واصل بقربت |
| جو تقلید مسلم کی راہ سلامت | جو تقلید مومن کی ایمانی انفت |

وہی بس کر اب مع کی کیا ہو حاجت
وہ اسی کہ ہر اس انوار وحدت
وہ اسی کہ ہر دم دن شرک و بہت
وہ اسی کہ ہر فتح بزم دانست
وہ اسی کہ کثات رفہ جبارت
وہ اسی کہ وہ اسے حکم شریعت
وہ اسی کہ بلح دریا سے جودت
وہ اسی کہ ہر صدر ایوان خلوت
وہ اسی کہ شمس اشفاق فصاحت
وہ اسی کہ ہر جامع فقہ و سنت
وہ اسی کہ تقلید واجب کی آیت
پس اب بھی نہ مانیں جو اہل روایت
نہ دیکھیں گے آنکھوں سے روی حقیقت
جو ان جاہلون کی جہالت پہ فطرت
نہ مانیں گے جب یہ کسی کی نصیحت

کہ اسی نے خود کی ضیے میں رحمت
وہ اسی کہ قنطاس اسلحہ حکمت
وہ اسی کہ رونق وہ دین و امت
وہ اسی کہ ہر بلح رزم فطانت
وہ اسی کہ عقاب حقیقت اشارت
وہ اسی کہ میناے راز طریقت
وہ اسی کہ سیاح پیدا سے فطنت
وہ اسی کہ ہر جوہر درخشان جلوت
وہ اسی کہ ہر کمال جا سے بلاغت
وہ اسی کہ ہر جامع شرک و بہت
بتادی و کھادی حدیث اور روایت
کیا ثابت از رو سے بران و محبت
تو ہرگز نہ پائیں گے راہ ہدایت
سین کے نہ کانون سے لای اصابت
جو بہ نیت انگلی ہی انکی حینت
وہی کیا کرے کوئی انکو وصیت

مولانا عبدالعلی اسی مدرسی کو شعر گوئی میں بھی کمال حاصل تھا۔ حضور صا غیر مقلدوں کے
رد میں آپ نے عظیم النظیر نظمیں تحریر فرمائی ہیں۔ آپ کا کوئی شعری مجموعہ ہر چند شائع نہیں
ہوا۔ لیکن "تنبیہ الوباب" میں اکثر مقامات پر آپ کی شاعری کے نمونے موجود ہیں۔ مولانا
اسی کا دھماکا ۱۳۳۷ھ بمطابق ۱۹۱۹ء لکھنؤ میں ہوا۔ تصانیف: التبصرة انتظامیہ فی التروس
التانیہ۔ تبصرة الحکمتہ فی حفظ الصحت۔ تکملة واجب الحفظ۔ حل التعاريف المشکله۔
میزان اللسان۔ تنبیہ الوبابین وغیرو۔

شیخ الاسلام مولانا عبدالقادر بدایونیؒ

شیخ الاسلام مولانا عبدالقادر بدایونی کا شمار برصغیر پاک و ہند کے ممتاز علماء
میں ہوتا ہے۔ آپ نے تیرھویں صدی ہجری کے اختتام اور چودھویں صدی ہجری کے
اوائل میں ناقابل فراموش ملی و مذہبی خدمات انجام دیں۔ خصوصاً ترک تقلید کے فتنے کے
استعمال اور مفسدات مذہب العلماء کی اصلاح کے ضمن میں آپ شب و روز معروض رہے
مقام صحابہؓ کے تحفظ کے سلسلے میں بھی آپ نے متعدد رسالہ قلمبند فرمائے۔ آپ
سیف المسلول حضرت مولانا شاہ فضل رسولؒ بدایونی کے صاحبزادے اور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادیؒ
کے شاگرد عزیز تھے۔ ۱۲۵۳ھ کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ شیخ الاسلام فی الہند
سے آپ کی تاریخ ولادت نکلتی ہے۔ محب رسول جزوی نام قرار پایا۔ علامہ فضل حق خیر آبادیؒ
کے شاگردوں میں استاذ العلماء علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری، مولانا فیض الحسن ہزارویؒ
شمس العلماء حضرت علامہ عبدالحق خیر آبادیؒ اور مولانا عبدالقادر بدایونیؒ فنا عمر ارادہ سرور
کے جلتے تھے۔ علامہ محمداحمد قادری نے تذکرہ علماء اہلسنت میں لکھا ہے کہ علامہ عبدالقادر
خیر آبادی آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ ہر سہ ماہ مذہب کسی خاص فن میں یکتے تھے اور وحید
روزگار ہیں لیکن مولانا عبدالقادر بدایونی کا تجراند جامعیت تمام علوم و فنون میں ہے۔
مولانا عبدالقادر بدایونی کے حضرت محدث سورتی سے خصوصی مراسم تھے یہی وجہ ہے کہ دونوں
حضرات کم و بیش پچیس سال فیروز شکر رہے۔ حضرت محدث سورتی سے غیر مقلدوں کے خلاف
فتویٰ جامع الشواہد لکھوائے اور پھر اس کی عرب و عجم میں تشہیر کے سلسلے میں آپ نے نمایاں حصہ
لیا۔ اس کے علاوہ ندوۃ العلماء کے قیام اور اس کی اصلاح کے سلسلے میں آپ کی خدمات بھی
بڑی اہمیت کی حامل ہیں اعلیٰ حضرت نائٹل بریلوی سے بھی آپ کے بے پناہ ولی مراسم تھے۔ یہی
وجہ ہے کہ نائٹل بریلوی نے آپ کی فائت سے محبت کو علامت اسلام قرار دیا ہے۔ سادہ آپ کی
شان میں قصیدہ چراغ آس میں لیں فرمایا۔

سنت سے پھر اہل حق سے پھرا
اب جو تجھ سے پھرا محب رسول

آج قائم ہے دم سے ترے
دین حق کی بنا محب رسول

شیخ الاسلام کراچہ دار ہجرت سے دس دس و تدریس سے خصوصی شغف تھا۔ نہایت توجہ اور اہتمام سے آخر دم تک تعلیم دیتے رہے۔ مولانا محب احمد بدایونی، مولانا فضل احمد بدایونی، مولانا فضل مجید بدایونی، مولانا حافظ بخش بدایونی، مولانا شاہ عبدالعہد مودودی چشتی سہسوانی مولانا محمد حسن سنبھلی آپ کے نامور تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی تصانیف بکثرت ہیں۔ جن میں حقیقۃ الشفا، شفا السائل، سیف الاسلام، ہدایت الاسلام، عقائد الاسلام اور تاریخ بدایوں زبیر طبع سے آراستہ ہو کر شہرت و راس حاصل کر چکی ہیں۔ ایک کتاب آپ نے حضرت علیؓ و حضرت معاویہؓ کے ضمن میں تصحیح العقیدہ فارسی میں تصنیف فرمائی تھی جس کا اردو میں ترجمہ دارالعلوم نعیمیہ فیضانِ اسلامیہ کے استاذ مولانا شاہ حسین گریزی نے کیا ہے۔ مولانا عبدالقادر بدایونی کی وفات ۱۴ جمادی الآخر ۱۳۱۹ھ کو مخقر علالت کے بعد ہوئی۔ اپنے والد کے پہلو میں مدفون ہیں۔

حضرت مولانا شاہ عبدالکریم گنج مراد آبادیؒ

حضرت مولانا شاہ عبدالکریمؒ جالندھر کے سید گھرنے سے تعلق رکھتے تھے۔ علم دین کے حصول کی تمنا میں جالندھر سے ترک مکانی کر کے بدایوں اور سہسوان پہنچے لیکن اطمینان قلب نصیب نہ ہوا۔ چنانچہ گنج مراد آبادی تھے اور اویس دوران حضرت شاہ فضل رحمانؒ کی خدمت عالیہ میں حاضری دی۔ اور پھر ہمیشہ کے لئے اسی چوکھٹ کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت شاہ فضل رحمانؒ آپ پر حد درجہ عنایت فرماتے اور ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھتے۔ مولانا عبدالکریم صاحب نے (جو شاہ فضل رحمانؒ کے حلقہ مریدین میں چھوٹے بچوں کے نام سے معروف تھے) ایک عرصہ تک حضرت شاہ صاحب کی صحبت میں سلوک طریقت کی منزلیں اور عروج معرفت کے درجے طے کئے۔ تفسیر وحدیث

کی کتابیں پڑھیں اور سند اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب نے آپ کو اپنے خصوصی اور دو وظائف کی اجازت بھی عطا فرمائی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالکریمؒ ظاہر و باطن میں اپنے مرشد کی مثل قرار پائے۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی نواسی صدیقہ بی بی آپ کے عقد میں دیں۔ اور خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے شریک بیعت کیا۔ مولانا حکیم قاری احمد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبدالکریم گنج مراد آبادی اپنے وقت کے زبردست عالم۔ زاہد۔ متقی اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ قرآن وحدیث کا مطالعہ اور اوراد و وظائف کا سلسلہ آپ کا مشغلہ خاص تھا۔ بزرگی و وقار، عظمت و جلال اور انس و محبت آپ کے مخصوص اوصاف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فتوحات دنیا سے بھی نوازا تھا۔ زمینداری اور باغات کی دیکھ بھال فرماتے جب تک اعضاء لے سکتے تھے۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد باغات تشریف لے جاتے اور باغ میں ایک ایک درخت پر ایسی محبت کی نظر ڈالتے جیسے باتیں کر رہے ہوں۔ اپنے مرشد سے اس قدر عقیدت و محبت تھی کہ شام کے وقت اکثر مرشد کے مزار پر دیر تک ستر جھکائے کھڑے رہتے۔ آپ کے فیوضات گہری و باطنی کا دور و نزدیک شہرہ تھا اور ہزاروں مریدین روزانہ آپ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے۔ حضرت محدث سورتی کو آپ سے خصوصی ائس تھا اور وہ اکثر اپنے مرشد کے وصال کے بعد شاہ عبدالکریم کی خدمت میں حاضری دیتے اسی تعلق خاطر اور قلبی لگاؤ کی بنا پر حضرت شاہ عبدالکریم نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت محدث سورتی کے صاحبزادے مولانا عبدالاحد کے عقد میں دیں تھیں۔ آپ نے ۲۷ ربیع الاول ۱۳۲۹ھ گنج مراد آباد میں وصال فرمایا اور اپنے اموں کے باغ میں دائمی سکون حاصل کیا۔ مزار مبارک کے تکیہ پر قد مات فی حب رسول اللہ

کتاہے۔

آپ کی اولاد کے اسمائے گرامی یہ ہیں :- حمیدہ خاتون زوجہ مولانا عبدالاحد سورتی
مولانا عبدالطیم عرف حلومیان سجادہ نشین گنج مراد آباد، صفیہ خاتون زوجہ حکیم سید منظور علی

مرحوم مقیم کوٹہ بلوچستان، حبیبہ خاتون زوجہ سید معصوم علی مرحوم مقیم ناظم آباد کراچی
مولانا نفیال الرحمن مرحوم، نفیہ خاتون مرحومہ زوجہ مولانا عبدالحکیم میرٹھی مرحوم۔
عتیقہ خاتون مرحومہ زوجہ سید اوصاف علی مقیم عزیز آباد کراچی۔ نعیمہ خاتون زوجہ عبدالحکیم
مرحوم مقیم آگرہ، مولانا ضیاء العابد مقیم گنج مراد آباد، پروفیسر سراج الآفاق مقیم
نارتھ ناظم آباد کراچی۔

پیر سید مہر علی شاہ گورٹوی

قبلہ عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ گورٹوی کی ولادت یکم رمضان المبارک ۱۲۷۵ھ
کبھڑی آپ کا شجرہ نسب ۲۵ رسالہ سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی تک اور ۳
رسالہ سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ اپنے علم اور فطرت کی بنا پر
برصغیر پاک و ہند میں مجدد کامل اور ولی آخر قرار پائے۔ علم قرآنی اور اوصاف طریقت
سے آپ کی ذات کچھ اس طرح نمودار ہوئی کہ دوسرے نزدیک آپ کا شہرہ تھا۔ مولانا رحمت اللہ
کیرالزی اور مولانا فضل حق رامپور کی جیسے علماء و فضلا آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اور
آپ کو جامع العلوم قرار دیا۔ حضرت محدث سودقی سے بھی اختلاف سن و سال کے باوجود آپ
کے مراسم بڑے دیرینے تھے۔ اور حضرت محدث سودقی آپ کی نہایت تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ ۱۲۹۵ھ
میں جب حضرت محدث سودقی سہارنپور میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے سند حدیث لینے
پہنچے تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ بھی محدث سہارنپوری کے درس حدیث میں شامل تھے۔ اور اسی
سلسلہ میں ان دونوں صاحبان نقیلت کے درمیان رسم درجہ پیدا ہوئی۔ محدث سودقی کے شیخ
مولانا حکیم قادری احمد علی بھٹی زمین کو پیر صاحب سے شرف بیعت حاصل تھا لکھتے ہیں کہ درجہ الاول
۱۳۵۰ھ میں میرے قیام گورٹوہ شریف کے دوران حضرت قبلہ عالم نے دعا و دعائیں میں حاضرین
سے میرا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔ میں سہارنپور کے مدرسہ میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری
سے حدیث پڑھا کرتا تھا ہم دس ساتھیوں میں مولانا دسی احمد محدث سودقی میرے کمرے کے

برابر الگ کمرے میں اپنے چھوٹے بھائی مولانا عبداللطیف کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میری عادت
تھی کہ میں ہر جمعرات اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ گھڑا بجا کر گنگنا یا کرتا تھا۔ محدث سودقی اپنے
کمرے میں تھوڑی دیر تو سنتے رہتے اور اس کے بعد ہاتھ میں ایک لکڑی لے ہوئے میرے
کمرے میں داخل ہوتے اور پھر لکڑی مار کر میرا گھڑا توڑ دیا کرتے۔ یہ سلسلہ مہینوں جاری
رہا۔ نہ میں نے اپنا طریقہ بند کیا اور نہ مولانا نے میرا گھڑا توڑنا چھوڑا۔ مگر اس کے باوجود ہمارے
ان کے تعلقات اور محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سلسلہ

حضرت پیر مہر علی شاہ سے حضرت محدث سودقی کی ایک اور ملاقات انجمن نعمانیہ کے سالانہ
اجلاس منعقدہ ۱۹۱۲ء میں بھی ثابت ہے۔ جس میں ان دونوں صاحبان نقیلت نے تعاریر
کی تھیں۔ ان دونوں اصحاب علم و عمل نے اپنے اپنے علاقے میں مسلک اہلسنت کی ترویج و
اشاعت اور تحفظ ختم نبوت کے ضمن میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ حضرت پیر مہر علی
شاہ نے ایک عرصہ تک مرزا قادیانی کی لغویات کا تقاب کیا۔ اور ہر مقام پر اسے
شدید ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ چودھویں صدی ہجری کی ابتدا میں متحدہ ہندوستان
میں صرف پیر صاحب کی ایک ایسی ذات گرامی نظر آتی ہے جس نے کھل کر قادیانیت کی مخالفت کی اور
اس مرض مذہم کو پھیلنے سے روکنے کے لئے اپنی تمام توانائیاں صرف کیں۔ اس کے علاوہ محکم
ہندوستان کی تمام تحریکوں میں آپ بلا واسطہ یا بالواسطہ سرگرم عمل رہے۔ قبلہ عالم پیر صاحب
کے علم سے چودھویں صدی کے تقریباً تمام علماء و دانشور نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ انہوں نے بقدر
ظرف استفادہ بھی کیا۔ آپ کا ۸۱ سال کی عمر میں ۲۹ صفر المنظر ۱۳۵۶ھ مطابق ۱۱ مئی ۱۹۳۷ء
بروز شنبہ بوقت عصر اسم ذات کا مدد کرتے ہوئے وصال ہوا۔

حضرت پیر مہر علی شاہ کی تعانیف میں تحقیق الحق فی کلمۃ الحق۔ شمس الہدایتی فی انبات

سلسلہ۔ ماہنامہ پیام حق کراچی ص ۱، شماره جون ۱۹۶۸ء

علماء کے متعلق حضرت پیر صاحب کا مسلک آپ کی سوانح حیات مہرینیر سے واضح ہے ویسے
ابتداء میں بوجہ قبلہ حال اس طرف زیادہ توجہ رہی آخر میں کافی حد تک بوجہ مجالس سماع کے
انتقاد سے بائیں وجہ احتراز فرماتے تھے کہ نساہ زمانہ کی وجہ سے بعض نااہل ناجائز نامہ لکھتے ہیں۔

حیات السیاح - سیف چشتیائی - اعلا رکلمتہ اللہ فی بیان ما اهل بہ لغير اللہ - الفتوحات العمدیہ
تصنیفہ مابین سنی و شیعہ - جیسی نادر روزگار کتابیں شامل ہیں - شاعر مشرق علامہ اقبال
نے بھی مسئلہ زمان و مکان پر آپ سے رہنمائی حاصل کی -

حضرت محدث سورتی کے وصال کے بعد بھی پہلی بعیت کا گورنر شریف سے روحانی
رابطہ قائم رہا اور آپ کے صاحبزادے سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد قادری پہلی بعیت برابری
گورنر شریف حضرت پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور پھر اپنے صاحبزادے مولانا
حکیم قاری احمد کوروحانی فیوض و برکات سمیٹنے کے لئے حضرت پیر صاحب کی خدمت
میں پہنچا - اور آج بھی اس خاندان کی گورنر شریف سے عقیدت و محبت اپنی جگہ برقرار ہے
راقم الحروف کو حضرت پیر غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ غلام
مبین الدین مدظلہ العالی اور حضرت شاہ عبدالمقصد مدظلہ العالی کی خدمت میں متعدد بار حاضری کا
شرف حاصل ہوا ہے - راقم الحروف اس عظیم روحانی خاندان سے اپنی روحانی وابستگی پر نہ صرف
فخر مند ہے بلکہ گورنر شریف کی حاضری کو کائنات پر تصور کرتا ہے - اللہ تعالیٰ اس روحانی تعلق
کو آئندہ نسلیں تک قائم و دائم رکھے -

حضرت پیر صاحب علی شاہ گورنر دیوبند ایک وسیع السلسلہ بزرگ تھے آپ کے کچھ علمین و مریدین
میں دیوان فیث الدین اجیری، دیوان سید محمد پاکپٹن، مولانا قاضی قطب الدین کشمیری، مولانا
رحمت اللہ کیراٹری، مولانا فضل حق واپوری، مفتی عبدالکافی کانپوری، مولانا محمد قاری مہاجر
مکی، مولانا غلام محمد گھوٹوی، مولانا فیض احمد چشتی، مولانا محمد حسن فیضی، مولانا محمد رفیع بدوی
مولانا عبدالغفور ہزاروی، قاضی عطار الرسول بدوی، قاضی قدرت اللہ پشاوروی، مولانا قائم علی
چشتی، مولانا حکیم قاری احمد بیلی بستی، مولانا محب النبی کیمپوری، استاذ العصر مولانا عطاء محمد
بندیلوی، استاذ العرب قاری عبداللہ مکی، استاذ العجم قاری عبدالرحمن اللہ آباری، قاری
غلام محمد لٹپاوری و قاری عبدالرحمن جوہرزی کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں -



حاشیہ مدارک

ماوراء النہر کے شہر نخشب کے رہنے والے علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی،
(م ۱۰۱۰ھ) کا شمار اٹھریں صدی ہجری کے معروف فقہاء و علماء میں ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن
حکیم کی ایک نہایت معتبر تفسیر مدارک التشریح کے نام سے تصنیف فرمائی جس کو اہل علم
کے درمیان شہرت دوام حاصل ہوئی۔ برصغیر کے علماء نے بھی اس تفسیر کو وقت کی
نگاہ سے دیکھا اور اس کے حواشی بھی تحریر کئے۔ خصوصاً آئندہ میں مدارک کے طلبہ کے لئے
اس کی فادیت کو تسلیم کیا گیا۔ حضرت محدث سورتی نے مطبع نظامی سے شائع ہونے والی
اس تفسیر پر ۱۳۲۲ھ میں ایک مختصر حاشیہ تحریر کیا تھا جیسا کہ مدرسۃ الحدیث کی ازسیر
نو تعمیر کے سلسلہ میں ۱۳۳۲ھ میں شائع ہونے والے ایک شہزاد میں محدث سورتی
کی تصانیف کے ضمن میں اس حاشیہ کا ذکر موجود ہے۔ راقم الحروف کو ہندوپاک کے
مستند کتب خانوں میں باوجود تلاش بسیار اس کا کوئی نسخہ دستیاب نہ ہو سکا۔

حاشیہ بیضاوی (قلمی)

ابوسعید عبداللہ بن عمر بیضاوی (م: ۶۸۵ھ) کی معرکتہ الآرا تفسیر الزوال التزیل و اسرار التاویل تفسیر قرآنی میں ایک اہم مقام کی حامل ہے۔ یہ تفسیر اپنے اصل نام سے کم اور تفسیر بیضاوی کے نام سے زیادہ معروف ہے اور درس نظامی کے نصاب کی اہم کتاب شمار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر اور مصر کے مدارس میں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ بیضاوی نے یہ تفسیر اپنے شیخ محمد بن محمد کے ایما پر تالیف کی اس کے بنیاد علامہ جبار اللہ زحمشری کی تفسیر کشاف پر ہے چنانچہ جبکہ جبکہ علامہ بیضاوی نے زحمشری کے اعتزال پر شدید گرفت کی ہے۔ تفسیر بیضاوی پر برصغیر پاک و ہند کے علماء نے بکثرت حواشی تحریر کئے ہیں جن میں مولانا مصلح الدین لاری۔ ابو الفضل کازرونی (م: ۹۵۹ھ) شیخ محمد احمد آبادی (م: ۹۸۲ھ) علامہ وجیبہ الدین علوی (م: ۹۹۸ھ) قاضی نور اللہ شرمسری۔ مولانا عبدالسلام لاہوری (م: ۱۰۳۷ھ) علامہ شیخ عبدالحی محمد دہلوی (م: ۱۰۵۲ھ) ملا عبدالحکیم سیالکوٹی (م: ۱۰۶۷ھ) ملا عبدالحکیم لکھنوی فرنگی محلی (م: ۱۲۸۸ھ) کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں حضرت محدث سورتی نے بھی بیضاوی پر ایک مسبووط حاشیہ قلمبند کیا تھا لیکن طبع نہ ہو سکا حافظ انقار ولی خان کے بیان کے مطابق قلمی نسخہ مولانا حبیب الرحمن ربیعین اڑیسے کے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے۔

حاشیہ جلالین (قلمی)

علامہ جلال الدین محلی (م: ۸۶۳ھ) کی تصانیف میں تفسیر جلالین اہم ترین کتاب ہے۔ انہوں نے سورہ الکہف سے الناس تک اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی بعد میں علامہ عبدالرحمان جلال الدین سیوطی (م: ۹۱۱ھ) نے اس کی تکمیل کی۔ اتفاق سے جلالین کے دونوں مفسر شافعی المذہب تھے لیکن کتاب کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ ہر

مکتب فکر کے علماء نے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ اس کی شرحیں اور حواشی لکھے۔ درس نظامی کے نصاب میں یہ تفسیر شامل ہے برصغیر پاک و ہند کے جن علماء نے اس پر حواشی لکھے ہیں ان میں مولانا شیخ سلام اللہ (م: ۱۲۲۹ھ) مولانا تراب علی لکھنوی (م: ۱۲۸۱ھ) مولانا فیض الحسن سہارنپوری (م: ۱۳۰۳ھ) علامہ روح اللہ حنفی نقشبندی (م: ۱۳۱۷ھ) اور مولانا محمد ریاست علی حنفی کے نام قابل ذکر ہیں۔ حضرت محدث سورتی نے بھی اس تفسیر پر حاشیہ قلمبند کیا۔ لیکن درس و تدریس کی مصروفیات کی بنا پر اس کی طباعت کی جانب توجہ نہ دے سکے۔ اور آپ کے وصال تک قلمی صورت میں یہ آپ کے کتب خانے میں موجود تھا بعد میں مولانا سردار احمد لاہوری اس کو طبع کرائے کی نیت سے لے گئے جیسا کہ علامہ محمود احمد قادری نے تذکرہ علماء اہلسنت میں لکھا ہے لیکن یہ ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکا۔

تلیقات سنن نسائی

امام ابو عبدالرحمن نسائی (م: ۳۰۳ھ) آئمہ صحاح ستہ میں اہم شخصیت کے حامل ہیں اور تمام مشائخ و علماء آپ کے تقدم اسامات کا اعتراف کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ امام نسائی علم حدیث میں اپنے تمام ہم عصروں پر فائق تھے حافظ ابن حجر مستطانی (م: ۸۵۲ھ) نے لکھا ہے کہ امام نسائی نقدر جلال میں انتہائی عظامہ معتمد اور افضل تھے۔ آپ نے اپنے عہد کے نادر اور یگانہ روزگار مشائخ سے سماع حدیث کا شرف حاصل کیا اور پھر تمام علم خدمت احادیث میں گزار دی۔ آپ کے تلامذہ کا سلسلہ بھی بہت وسیع ہے۔ امام نسائی نے شدید مصروفیات کے باوجود متعدد کتب تصنیف کیں۔ آپ کی تصنیف نسائی — کتب صحاح ستہ میں انتہائی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ سنن میں امام نسائی نے صرف احادیث ہی کو جمع نہیں کیا بلکہ علل حدیث اور دیگر فنون حدیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ شمس الدین سنآوی (م: ۹۰۲ھ) اپنی تالیف فتح المغنیث میں لکھتے ہیں کہ بعض مغربی محدثین نے تصریح کی ہے کہ امام نسائی کی کتاب سنن امام بخاری (م: ۲۵۶ھ) کی صحیح

سے زیادہ بہتر ہے۔ سنن نسائی کا سبب تالیف محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ پہلے امام نسائی نے ایک ضخیم کتاب سنن کبریٰ تالیف کی جس میں صحیح اور حسن دونوں قسم کی احادیث جمع تھیں بعد میں آپ نے امیر فلسطین رملہ کی فرمائش پر تمام صحیح احادیث علیحدہ مرتب کیں جس کا نام سنن صغریٰ رکھا جو عرفاً میں سنن نسائی کے نام سے اہل علم میں معروف ہوئی۔ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ صحاح ستہ کی دیگر کتب کی جس قدر شرح اور تعلیقات تحریر کی گئیں سنن نسائی کی شرح اور حواشی پر اس قدر توجہ نہیں دی گئی اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کتاب آسان اور سہل المصوب ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سنن نسائی کی اکثر احادیث چونکہ دوسری کتب صحاح میں آچکی ہیں اور وہاں ان کی مفصل شرح کی جا چکی ہے اس لئے سنن نسائی کے عنوان سے ان احادیث کی مزید شرح نہیں کی گئی: سہ

سنن نسائی کی پہلی سبب شرح علامہ ابوالحسن علی بن عبداللہ الانصاری (م ۵۶۷ھ) کی تالیف ہے۔ دوسری شرح علامہ ابن الملقن (م ۸۰۲ھ) نے اور تیسری شرح حافظ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) نے لکھی اس کے علاوہ نسائی پر حواشی اور تعلیقات بھی لکھی گئیں۔ تیرھویں صدی ہجری کے آخر میں حضرت مولانا وحی احمد محدث سورتی نے اس کتاب کے بعض مقامات کو قابل تشریح تصور کیا اور نہایت مدلل اور مفصل تعلیقات فرمائیں۔ ان تعلیقات کو علامہ سہبانی نے نہایت تدرک کی نگاہ سے دیکھا۔ خصوصاً مولانا احمد علی محدث بہار پوری نے سنن نسائی کی تعلیقات دیکھنے کے بعد حضرت محدث سورتی کو حلقہ درس میں شامل کر کے خصوصی سند عنایت کی۔ سنن نسائی پر محدث سورتی کی یہ تعلیقات، ۱۲۹۵ھ میں مطبع نظامی لاہور نے نہایت اہتمام سے شائع کی تھیں جو آج بھی اہل علم کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ تعلیقات سنن نسائی کا ایک نسخہ رضا لائبریری رامپور اور ایک نسخہ دارالعلوم نعیمیہ فیڈرل بی ایریا کراچی کی لائبریری میں موجود ہے۔

سہ :- علامہ غلام رسول سعیدی، ص ۱۱۱، تذکرۃ المحدثین۔

حاشیہ شرح معانی الآثار

امام ابو جعفر طحاوی (موتی ۳۲۱ھ) کا شمار تیسری صدی کے محدثین و فقہاء میں ہوتا ہے آپ جامعین کتب احادیث صحاح ستہ کے معاصر ہیں یہی وجہ ہے کہ محدثین اور فقہاء کے تمام طبقات آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت محدث سورتی نے شرح معانی الآثار کے حاشیہ پر مقدمہ تحریر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محدثین امام ابو جعفر طحاوی کو حافظ اور امام کہتے ہیں اور فقہاء ان کو مجتہد منتسب قرار دیتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر نے کہا کہ وہ فقہ، نبیل اور حدیث کا مسکن تھے۔ معانی نے کہا کہ وہ امام عاقل اور ثقہ شخصیت کے مالک تھے۔ اور ان کی وفات کے بعد دنیا آج تک ان کی نظیر نہیں پیش کر سکی امام سیوطی نے کہا کہ وہ حدیث اور فقہ میں امام علوم دینیہ کے ماویٰ اور حدیث نبویہ کے ملجائے تھے۔ اور حافظ ابو شیبہ زہری کہا کرتے تھے کہ امام ابو جعفر طحاوی اصحاب ابو حنیفہ کی ریاست کے منہا ہیں سہ لیکن اس کے باوجود مذاہب اربعہ کے علماء آپ کو حدیث فقہ دونوں میں سند تسلیم کرتے ہیں۔

امام جعفر طحاوی ۲۳۹ھ میں مصر کے حسین دادی نیل کے کنارے طحان نامی بستی میں پیدا ہوئے۔ اور اسی نسبت سے آپ کو طحاوی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے مائول ابوالبرہم غزنی سے فقہ شافعی پڑھی۔ مصر میں ابو جعفر احمد بن ابی عمران سے فقہ حنفی پڑھی۔ شام میں ابو حازم سے فقہ کی تکمیل کی۔ محدث سورتی نے لکھا ہے کہ علم حدیث میں آپ نے سلیمان بن شیبہ کیساتی۔ ابوموسیٰ یونس بن عبدالاعلیٰ الصدقی سے استفادہ کیا۔ امام ابو جعفر طحاوی ابتدا میں شافعی المذہب تھے بعد میں شافعییت کو چھوڑ کر حنفی مسلک اختیار کر لیا اور بہت جلد حدیث و فقہ میں امام بے عدیل اور فاضل بے مثل ہوئے امام طحاوی کے علم و فضل اور ورع و تقویٰ سے کسی کو انکار نہیں اور تمام علماء و رجال سہ۔ دھی احمد محدث سورتی ص ۱۱۱، شرح معانی الآثار مطبوعہ اسلامیہ لاہور ۱۳۲۸ھ

نے فنِ حدیث و فقہ میں آپ کے فضل و کمال کا ہمیشہ اعتراف کیا ہے۔ آپ صاحب تصانیف کثیرہ تھے مورخین نے مختلف علوم و فنون پر آپ کی ۲۹ کتابیں درج کی ہیں امام ابو جعفر طحاوی بیاسی سال کی عظیم و پر شکوہ زندگی گزارنے کے بعد یکم ذیقعد ۳۲۱ھ میں انتقال کر گئے۔

شرح معانی الآثار امام طحاوی کی ایک گرانقدر تصنیف اور اصناف کا سرمایہ افتخار ہے اس کتاب میں حدیث فقہ اور جلال کے متعدد علوم کو نہایت حسن اور خوش اسلوبی سے جمع کر دیا گیا ہے۔ شرح معانی الآثار کی افادیت اور عظمت کے پیش نظر اس کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں اور اب تک متعدد بار عالم اسلام میں یہ کتاب شائع ہو چکی ہے تیرہویں صدی کے اواخر میں علماء ہند نے معانی الآثار کے ایک مستند نسخے کی اشاعت ضروری سمجھی چنانچہ دہلی کے تاجر قاضی بن یامین نے اس جانب توجہ دی اور پہلی مرتبہ اس کا ایک مستند نسخہ محمود نگر لکھنؤ سے شائع ہوا جس پر مولانا وصی احمد محدث سورتی کا مختصر لیکن نہایت مفراقتی مقدمہ اور حاشیہ شامل تھا۔ قاضی بن یامین نے اس نسخہ کو دوسری مرتبہ ۱۳۰ھ میں مطبع المصطفائی کانپور سے طبع کرایا یہ نسخہ دو جلدوں پر مشتمل تھا۔ پہلی جلد میں ۴۲۴ اور دوسری جلد میں ۴۳۶ صفحات تھے۔

اس نسخہ کا افتتاحیہ مولانا محمد حسن اسراییلی سنبھلی نے لکھا ہے۔ آپ نے اختتامیہ میں اس نسخہ کی اشاعت کا پس منظر کچھ یوں بیان کیا ہے: جب قاضی بن یامین پنجابی تم دہلوی نے اس کتاب کو طبع کرانا چاہا تو ان کو تین مخطوطے ملے جو مولوی عبدالحمید فرنگی محلی، مولانا عبدالقادر بدایونی، اور میاں نذیر حسین دہلوی کے پاس تھے۔ چنانچہ ان تینوں مخطوطوں کو ایک صحیح متن کی ترتیب کا فریضہ تدوین المنقحہ واسوۃ سعادۃ الملتہ الصغیہ مولوی محمد وصی احمد السورتی لازال فیضہ الحنفی والجلالی اور مولوی محمد عبدالعلی آسی مدداسی (صحیح مطبع نظامی) نے انجام دیا اور طباعت و اشاعت کے لئے ان تین نسخوں

سے ایک صحیح متن مرتب کیا۔ پھر مولوی وصی احمد محدث سورتی نے اس کا مقدمہ تحریر فرمایا۔ اور اس کتاب پر حواشی لکھے تاکہ اہل بصیرت کی نظر کو جلا ملے۔ کتاب پر تمام حواشی مولوی وصی احمد محدث سورتی کے تحریر کردہ ہیں صرف دو تین جگہ خاکسار (مولوی محمد حسن اسراییلی) نے حواشی لکھ دیئے ہیں۔

شرح معانی الآثار کے اس حاشیہ کو اہل علم میں قبولیت کا درجہ حاصل ہوا اور یہ ہندوستان کے کئی مطابع سے اشاعت پذیر ہوا۔ ۱۳۲۶ھ میں اس نسخہ کا اردو ترجمہ جو مولانا محمد حیات سنبھلی نے کیا تھا۔ مطبع اسلامیہ لاہور سے چار جلدوں میں طبع ہوا۔ ۱۳۲۸ھ میں اسی مطبع نے اس نسخہ کا عربی متن بھی دو جلدوں میں شائع کیا۔ مولانا غلام رسول سعیدی نے اپنی کتاب تذکرۃ المحدثین میں لکھا ہے کہ حضرت محدث سورتی نے شرح معانی الآثار پر ایک مختصر اور مفید حاشیہ لکھا ہے جس میں مشکل الفاظ کے معانی اور باب کی پوری بحث کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔

مطبع مصطفائی کانپور سے شائع ہونے والے اس نسخے میں جو دو جلدوں اور ۸۸۰ صفحات پر مشتمل ہے حضرت محدث سورتی نے ۶۱۷ مقامات پر حاشیہ لکھا ہے بعض مقامات پر کتب معتبرہ سے اسناد بھی پیش کی ہیں۔ اور متعارض احادیث پر جرح بھی کی ہے۔ خصوصاً اسرار الرجال کے سلسلے میں محدث سورتی نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ اور جہاں حدیث ضعیف کے ضمن میں راوی کے اعتبار کی بات آئی ہے آپ نے کوشش کی ہے کہ معاصر اسناد سے مسئلہ صاف ہو جائے اکثر حواشی میں آپ نے ملا علی قاری کو بطور سند پیش کیا ہے جس سے آپ کی ملا علی قاری کی طرف رغبت اور انسیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک مقام پر حضرت محدث سورتی نے اپنے استاد مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے بھی ایک مسئلہ میں سند پیش کی ہے۔

تعلیقات شروح اربعہ ترمذی شریف

والی محمد آباد عرف ٹونک نواب محمد علی خان نے اپنے ایام اسیری میں مجموعہ احادیث ترمذی شریف کی مختلف شروح کا مطالعہ کرنے کے بعد چار شروح کا انتخاب کیا اور ان کو مجموعہ شروح اربعہ ترمذی شریف کے نام سے مرتب کیا۔ یہ مجموعہ نواب محمد علی خان کی خواہش پر محمد عبدالرحمن خان مالک مطبع نظامی کانپور نے ۱۸۹۲ء میں شائع کیا جو چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ جلد اول ۱۸۹۲ء میں اور جلد ثانی ۱۸۹۶ء میں شائع ہوئی تھی جبکہ دو جلدیں بعد میں زیور طبع سے آراستہ ہوئیں۔ ان شروح کی طباعت سے قبل والی ٹونک نے جو خرد عالم جلیل اور محدث کامل تھے۔ مجموعہ میں شامل شروح کے بعض مقامات پر تعلیقات کی ضرورت محسوس کی چنانچہ اس کام کے لئے حضرت محدث سورتی کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت محدث سورتی نے مذکورہ شروح کے مطالعہ کے بعد کم و بیش چاروں شروح پر چھاپ گنجائش محسوس کی وہاں تعلیقات سپرد قلم فرمائیں۔ مجموعہ میں شامل شروح یہ ہیں۔

- ۱- شرح سراج احمد
- ۲- شرح ابی الطیب
- ۳- قوت المغذی
- ۴- عارضۃ الاحوذی

اس مجموعہ پر حضرت محدث سورتی کی تعلیقات کے مطالعہ سے حضرت محدث سورتی کے علم و فضل پر کمال روشنی پڑتی ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو تفہیم حدیث اسماء الرجال اور تفہیم کتاب میں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ فنون عربیہ اور قواعد ادبیہ کی تمام اصطلاحات کو آپ کتب احادیث میں سمودیتے تھے۔ خصوصاً کتاب فہمی میں مجتہدانہ بصیرت رکھتے تھے۔ علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی نے شروح اربعہ ترمذی پر محدث سورتی کی تعلیقات کا اپنے ایک مضمون میں بڑی خوبصورتی سے احاطہ کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت محدث سورتی کی مذکورہ تعلیقات بے شمار خوبیوں کی حامل ہیں اور علماء و فضلاء کے لئے اپنا اندر بڑی علمی جاذبیت رکھتی ہیں۔ حدیث فہمی کے سلسلے میں ایک محدث

کے لئے ضروری ہے کہ وہ متعارض احادیث میں ترجیح اور تبطیق دینے کی جہارت رکھتا ہو حدیث سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو اخذ کرنے کی اس میں پوری پوری صلاحیت ہو۔ فقہی مسائل کا استنباط کر سکتا ہو۔ جو حدیث مخالفین کے مسلک کا مستدل ہو اس کی توجیہ کرے۔ اور اپنے مسلک کی مؤید احادیث کو وارڈ کرے۔ حدیث کو فن حدیث سے بھی پرکھے۔ اور علم اصول حدیث کے تحت اس حدیث پر گفتگو کرے حضرت علامہ دمی احمد محدث سورتی اسی شان کے محدث تھے جیسا کہ شروح اربعہ ترمذی پر تعلیقات سے ظاہر ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی نے الصوم فی النصف الباقی من شعبان الحال رمضان کے تحت اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کی ہے کہ "حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ماہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔" امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور ان الفاظ کے ساتھ مزید ہے اور بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ آدمی شروع ماہ روزہ نہ رکھے۔ اور جب ماہ شعبان کے شروع میں چند روز ہوں تو روزہ رکھے۔ تاکہ رمضان کے روزوں کے لئے وہ تیار رہے اور اس مسلک کی تقریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے جس کو ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو آلا یہ کہ اس دن روزہ رکھنا اس کی عادت ہو۔"

اس ضمن میں امام ترمذیؒ کے قول وھذا حدیث النبیؐ پر حضرت محدث سورتی نے اپنی تعلیقات سپرد قلم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "محدث سہارنپوری مولانا حافظ احمد علی صاحب نے اپنی نگہانی میں جو نسخہ چھپوایا ہے اس میں اس مقام پر حدیث کے لفظ کے بجائے تخریث کا لفظ لکھا ہے اور اقام الحروف محمد دمی احمد عفا اللہ عنہ کے نزدیک یہی نسخہ زیادہ صحیح ہے اور اس نسخہ کی بنا پر یوں ہوگا کہ رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کی کراہت کا سبب یہ ہے کہ

علامہ غلام رسول سعیدی ص ۵۹ مضمون محدث سورتی کی تعلیقات مطبوعہ ترجمان اہلسنت کراچی جنوری ۱۹۹۶ء

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو اور اس تقریر پر لفظ
 حیث تعلیلیہ (یعنی سبب کا معنی ظاہر کرنے والا) ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ روزہ
 رکھنے کی کراہت اس جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ رمضان سے
 پہلے روزہ نہ رکھو اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دلیل کراہت اس جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یعنی کراہت کے ثبوت کی جگہ یہ حدیث ہے اور ان آخری دو صورتوں
 میں لفظ حیث ظرفیہ (یعنی جگہ کا معنی ظاہر کرنے والا) ہوگا۔ یہ وہ تقریر ہے جو مجھ پر ظاہر ہوئی
 اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ علامہ وصی احمد محدث سورتی کی اس تقریر سے
 ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کو کتاب نہیں کا عظیم ملکہ حاصل تھا۔ چنانچہ آپ نے ترمذی کے دونوں
 میں سے اس نسخہ کو ترجیح دی جس میں حدیث کی جگہ حیث کا لفظ ہے اور لفظ حیث کے تین
 محل بیان فرمائے۔ ایک باعتبار تعلیل کے اور دو باعتبار ظرفیت۔ کتاب نہیں کے لئے ظرفی
 ہے کہ عبارات کتب پر جگہ گہری نظر ہو۔ حقیقت مجازاً استعاراً اور کنایہ محاورہ اور روزمرہ کا اعتبار
 سے الفاظ کے محل استعمال سے واقفیت ہو۔ اختلاف اعراب سے جو معنی پر اثر پڑتا ہے وہ نگاہ
 سے اور محمل نہ ہو حضرت علامہ وصی احمد محدث سورتی اسی شان کے مالک تھے۔ مذکورہ بالا حدیث
 پر جو آپ نے حاشیہ لکھا ہے اس سے آپ کی کتاب نہیں کی ایک جھلک ظاہر ہوتی ہے۔ ستہ
 قیام شہر رمضان کے باب میں امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث
 بیان کی ہے کہ حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے
 رکھے۔ ہم نے تراویح نہیں پڑھی یہاں تک کہ صرف سات دن رمضان ختم ہونے میں رہ گئے پھر
 تیسویں شب کو حضورؐ نے ہم کو تراویح پڑھائیں یہاں تک کہ تہنات باقی رہ گئی۔ پھر چوبیسویں
 شب کو قیام نہیں فرمایا اور پچیسویں شب کو تراویح پڑھائیں۔ یہاں تک کہ اودھیات گذر گئی

۱۔ شروع ابجد ترمذی مست ۱۰۲ جلد ثانی مطبوعہ مطبع نظامی لاہور ۱۸۹۶ء
 ۲۔ علامہ غلام رسول سعیدی مست ۵۹۔ محدث سورتی کی تعلیقات

ہم نے عرض کیا حضورؐ کا اس آپ ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اس حدیث پر حاشیہ
 کرتے ہوئے علامہ وصی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: بندہ مسکین وصی احمد
 عفا اللہ عنہ کہتا ہے کہ امام محمدؒ نے حدیث حضرت عائشہؓ کو اپنی موطا میں ان الفاظ کے ساتھ
 ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں
 پڑھتے تھے۔ چار رکعت پڑھتے اور نہ پوچھو کہ ان کے طول اور حسن کا کیا مقام تھا پھر چار رکعت
 پڑھتے اور نہ پوچھو کہ ان کے حسن اور طول کا کیا مقام تھا پھر تین رکعت وتر پڑھتے۔ ملا علی قاریؒ
 اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کشف الغطاء میں لکھتے ہیں علامہ سیوطی نے حافظ
 ابن حجرؒ سے یہ نقل کیا ہے کہ ابن ابی شیبہؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے اور یہ
 روایت ضعیف ہے۔ علاوہ ازیں یہ حضرت عائشہؓ کی حدیث صحیح سے معارض بھی ہے جبکہ
 حضرت عائشہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے زیادہ واقف تھیں۔ حافظ ابن حجرؒ کے
 جواب میں ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضورؐ
 بیس رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اور یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہر صورت فضائل اعمال
 میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ امام بیہقیؒ نے اپنی کتاب معرفتہ میں سند
 صحیح کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے کہ ہم حضرت عمر بن خطابؓ کے دور خلافت میں بیس رکعت
 تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ پس گویا کہ بیس رکعت تراویح پر بغیر کسی انکار کے اجماع ہو گیا اور
 اس کی تائید اس حدیث سے ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ میری سنت کو لازم رکھو اور
 میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو اس کے بعد دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی
 جاسکتی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کا محمل یہ ہے کہ حضورؐ رمضان میں اوائل شب میں
 تراویح پڑھتے تھے اور حضرت عائشہؓ کی حدیث کا محمل یہ ہے کہ حضورؐ آخر شب میں تہجد پڑھتے
 تھے۔ ملا علی قاریؒ کی بات ختم ہوئی۔ صاحب فہم و فراست سے غشی نہیں ہے کہ علامہ قاریؒ
 کی گفتگر سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اول ابن ابی شیبہ کا ضعف اس کی روایت پر عمل کرنے سے

ما لفع نہیں ہے دوئم یہ کہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایت میں تعارض نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت زیادہ پرورد حضرت عائشہؓ کی روایت تہجد پر محمول ہے۔
اس حاشیے کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محدث سورقی ایک حدیث سے متعلق اور مناسب تمام احادیث اور ان کی شرح پر گہری نظر رکھتے تھے۔ فہم حدیث کے سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ محدث حدیث کے تمام طرق پر نظر رکھتا ہو۔ اس اعتبار سے بھی حضرت محدث سورقی کی نظر بے حد وسیع تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ سولے اور چاندی میں نصاب زکوٰۃ کے بارے میں امام ترمذیؒ نے جو حدیث وارد کی اسی کو امام ترمذی نے ضیف قرار دیا ہے۔ حضرت محدث سورقی نے اس حدیث کے اور کئی طرق ذکر کئے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ عبد ضعیف وصی احمد سنی حنفی کہتا ہے کہ اس حدیث کو ہم النشار اللہ امام اعظم کی سند سے ابو داؤد کے حاشیہ میں بیان کریں گے نیز اس کو بہیقی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ سے اور طبرانی نے کبیر میں ابی ثعلبہ سے اور اسط میں حضرت جابر اور ابن مسعود سے۔

اسمار روات کا ضبط کرنا یعنی ان کے اسماء کی حرکات و سکنات کو منضبط اور راوی کے اسم و لقب اور کنیت سے باخبر ہونا بھی فہم حدیث کے لئے ایک ضروری امر ہے۔ حضرت محدث سورقی نے اپنے حاشیہ میں اس امر کا بھی التزام کیا ہے چنانچہ عون ابن ابی جحیفہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عون ابن ابی جحیفہ سدا میں لفظ سدا پر پیش ہے اور الف کو مد کے ساتھ پڑھنا ہے یہ کوئی اور ثقہ تابعی تھے۔ ۱۱۶ میں وفات پا گئے۔ اور ابو جحیفہ میں پہلے جیم ہے یہ لفظ جہینہ کی طرح ہے ان کا نام وامہب بن عبد اللہ تھا۔ لیکن ابو جحیفہ کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے انہیں وامہب الخیر کا لقب ملا تھا۔ اور یہ مشہور صحابی تھے۔

فہم حدیث میں صرف راوی کے اسماء کے ضبط اور اس کے اسم و کنیت کا فرق معلوم

۱۔ شرح اربع ترمذی ص ۱۵۳۔ جلد ثانی۔ ۲۔ شرح اربع ترمذی ص ۲۶۔ جلد ثانی۔

۳۔ شرح اربع ترمذی ص ۳۲۔ جلد ثانی۔

کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی ضعاف پر حرج و تعدیل کے لحاظ سے واقف ہونا بھی ضروری ہے حضرت محدث سورقی اس فن میں بھی طاق تھے۔ ایک مقام پر حارث ابن عبد اللہ الاعمور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حارث بن عبد اللہ الاعمور ہولانی میں م ساکن ہے۔ سوئی میں خا پر پیش ہے یہ شخص کو ذکاوت کا رہنے والا تھا حضرت علیؓ کا شاگرد تھا۔ شعیب نے اس کو جوٹا قرار دیا ہے اور اس پر راضی ہونے کی تہمت لگائی گئی تھی۔ امام نسائی نے اس سے صرف دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر کی خلافت میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔

بجسیت ایک محدث شرح اربع ترمذی پر حضرت محدث سورقی کی تعلیقات ایک ایسا حسین گلدستہ ہیں جن میں نہ صرف علم حدیث سے متعلق علوم جمع کر دیئے گئے ہیں۔ بلکہ قواعد عربیہ اور فنون ادبیہ کے تمام اصول و فروع اس میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔ ترمذی کی ان شرح سے استفادہ کرنے والا کوئی شخص اس حاشیہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا بشریح اربع پر محدث سورقی کی یہ تعلیقات جو عربی اور فارسی میں ہیں زبور طبع سے آراستہ ہونے کے باوجود اہل علم کے لئے اب نادر و نایاب ہو چکی ہیں۔

شرح السنن ابی داؤد (قلمی)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق سجستانی (م ۲۴۵ھ) علم حدیث میں بے نظیر مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ امام بخاری اور امام مسلم کے بعد جو امام حدیث ہیں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کے مالک ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے کہ جس زمانہ میں امام ابو داؤد نے تصنیف و تالیف کا آغاز کیا اس وقت عام طور پر علم حدیث میں جوامع اور مسانید کی تالیف عام تھی، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے کتاب السنن لکھ کر علم حدیث میں ایک نئی راہ دکھائی اس کے بعد متعدد ائمہ حدیث نے ان کے چراغ سے چراغ جلانے اور فن حدیث میں کتب سنن کا ایک قابل قدر ذخیرہ

۱۔ شرح اربع ترمذی ص ۱۵۸۔ جلد ثانی۔

جمع ہو گیا۔ ملہ امام ابو داؤد کے بارے میں ممتاز محدثین علامہ محمد بن اسحاق صنفانی اور
ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو داؤد کے لئے علم حدیث کو اس طرح سہل کر دیا
جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو ملائم کر دیا تھا۔ امام داؤد نے اپنے وقت
کے جلیل القدر آئمہ حدیث سے اس علم کو حاصل کیا اور طلب حدیث میں نہ صرف
دور دراز مقامات کا سفر اختیار کیا بلکہ تمام زندگی جو تقریباً ۳۷ سال پر مشتمل تھی۔
خدمت علم حدیث میں گذاری۔ آپ کی تصانیف میں السنن ابی داؤد کو اللہ تعالیٰ
نے حد درجہ مقبولیت عطا فرمائی۔ تمام طبقات فقہاء میں یہ کتاب یکساں مقبول رہی
ہے اور دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے عالم اسلام میں اس کتاب پر کافی کام
ہو رہا ہے۔ حضرت محدث سورتی نے مدرسین علم حدیث کی ضروریات کے پیش نظر اس کی
ایک مبسوط شرح تصنیف فرمائی تھی۔ جو اپنی ضخامت کی وجہ سے کئی سو صفحات پر
مشتمل تھی۔ استاد الحدیث علامہ سیّد احمد ابوالبرکات لاہوری (م۔ ۱۳۹۸ھ) نے اپریل
۱۹۷۸ء کے دوران ایک ملاقات میں، بتایا کہ حضرت محدث سورتی نے کتب صحاح ستہ
پر جو اس قلمبند فرمائے تھے۔ کیونکہ آپ ایک بلند پایہ محدث اور عظیم المرتبت مدرس
تھے اس لئے طلبہ و مدرسین کی علمی ضروریات آپ کے پیش نظر رہتی تھیں سنن ابی داؤد
پر بھی آپ نے تشریحی حاشیہ تحریر کیا تھا۔ جو اپنی مثال آپ تھا۔ محدث سورتی کو حوالہ
کے بعد اس حاشیہ کو کئی مرتبہ طبع کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہمیشہ وسائل کی کمی
آڑے آگئی۔ آخری مرتبہ ۱۳۷۶ھ میں مولانا غلام جیلانی میرٹھی اور میں پبلی بھیت حاضر
ہوئے اور مولانا عبدالحی پبلی بھیتی خلف رشید مولانا عبد اللطیف سورتی سے اس شرح
کا مسودہ حاصل کیا اور میرٹھ سے اسے طبع کرنے کا مکمل انتظام کر لیا لیکن اسی
دوران پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس شرح کی طباعت کا پروگرام التوا میں
پر گیا۔ بعد کی اطلاعات کے مطابق یہ مسودہ مولانا غلام جیلانی میرٹھی (م۔ ۱۳۹۸ھ) کے مدد
سے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ۲۹۱۔ تذکرۃ المحدثین۔

کے کتب خانہ میں موجود تھا۔ راقم الحروف کی علامہ ابوالبرکات سے ملاقات کے موقع پر
مولانا عبدالحکیم شرف قادری مدرسہ مدرسہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور اور مفتی عبد القیوم ہزاروی
ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس عربیہ پاکستان بھی موجود تھے۔ علامہ ابوالبرکات کی اس
اطلاع پر راقم الحروف نے حافظ افتخار دلی خاں کو پہلی بھیت ایک خط لکھا اور اس
امر کی تصدیق چاہی چنانچہ انہوں نے میرٹھ سے اس کی تصدیق کر کے راقم الحروف کو
اطلاع دی کہ یہ مسودہ ابھی بچھا ظت مدرسہ کی لائبریری میں موجود ہے۔

شرح مشکوٰۃ المصابیح (قلمی)

چھٹی صدی ہجری میں امام ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی (م ۶۵۱۶ھ) نے
صحاح ستہ اور حدیث کی دیگر کتابوں سے احادیث کا ایک انتخاب مصابیح کے نام سے
کیا جس میں چار ہزار چار سو چوبیس (۲۳۸۴) احادیث موجود تھیں۔ یہ انتخاب ہر چند کہ
بہت دقیق تھا لیکن اس کے باوجود ترتیب و تدوین کے اعتبار سے اس میں کچھ فتنی خامیاں
موجود تھیں چنانچہ اٹھویں صدی ہجری میں معروف محدث علامہ شیخ ولی الدین محمد بن عبد
خطیب سلمی عراقی نے عرصہ دلازکی محنت شاقہ کے بعد ان خامیوں کو دور کیا اور اس
انتخاب کو مشکوٰۃ اربع کے نام سے پیش کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح کو حلقہ علمدار و طبقہ محدثین
میں بہت جلد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور آج بھی کتب احادیث میں یہ ایک مقبول مقام
رکھتی ہے۔ علامہ ولی الدین عراقی نے مشکوٰۃ المصابیح کی ترتیب کے ساتھ ایک اہم خدمت
انجام دی اور وہ ایک ہزار تینتیس (۱۰۳۳) رجال حدیث کا تذکرہ ہے۔ جسے اکمال فی
اسماء الرجال کے نام سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ اکمال کے ترجمہ مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی
نے لکھا ہے کہ فن رجال میں اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے
کہ اگر یہ مجموعہ تالیف نہ ہوتا تو بیشتر صحابہ اور تابعین کے حالات پر وہ اخفا میں رہ جاتے بلکہ
حضرت محدث سورتی کو مشکوٰۃ شریف سے ایک شغف خاص تھا چنانچہ آپ نے آخر عمر میں
۱۔ مولانا حکیم قاری احمد صاحب ۳۲۱۔ اکمال فی اسماء الرجال مطبوعہ محمد سعید انبیا سنز ناشران کتب کراچی

شکوہ کی ایک شرح تالیف فرمائی۔ تاکہ علماء و طلباء کو اس اہم کتاب کے مشکل مقامات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ علامہ محمود احمد قادری لکھتے ہیں کہ حضرت محدث سورتی کے ایک شاگرد مولانا سید مصباح الحسن پھچھوندوی کہتے تھے کہ حضرت کی تمنا تھی کہ میری موت حدیث پڑھانے ہوتے تھے چنانچہ بوقت وفات مشکوٰۃ شریف آپ کے سینے پر تھی اور اھذا الصراط المستقیم پر روح نے جسم سے جدائی اختیار کی۔ علامہ قادری نے حضرت محدث سورتی کی تصانیف کے ضمن میں لکھا ہے کہ جلالین اور مشکوٰۃ کے حواشی مولانا سردار احمد محدث لاہلپوری آپ کی اہلیہ سے شائع کرانے کے وعدے پر لے گئے تھے پھر پتہ نہیں چلا کہ یہ حواشی کہاں اور کس کے پاس ہیں۔ سہ

افادات حسن حصین

حضرت مولانا وصی احمد محدث سورتی ایک صاحب سلسلہ بزرگ تھے۔ اور آپ کو اوراد و وظائف کی جانب خصوصی رغبت تھی۔ چنانچہ دلائل الخیرات اور محدث اعظم محمد ابن جزری (م ۸۳۳ھ) کی تالیف حسن حصین اکثر و بیشتر آپ کے مطالعہ میں رہتی تھیں۔ ان دونوں کتب کی آپ کو اولیں دوراں عارف باللہ حضرت فضل رحمن گنج مراد آبادی سے اجازت حاصل تھی۔ خصوصاً حسن حصین کی جانب رغبت زیادہ تھی۔ اور اسی بنا پر امام جزری کا تذکرہ بعد عقیدت کیا کرتے تھے۔ یوں ہی حسن حصین میں شامل تمام دعائیں احادیث نبوی سے ماخوذ ہیں۔ اس لئے بارگاہِ رب العزت میں ان کی قبولیت ایک یقینی امر ہے۔ حسن حصین ہمیشہ سے علماء و صوفیاء کے معمولات میں شامل رہی ہے اور اس کی پراثر دعاؤں کو پڑھ کر وہ ہر مشکل وقت میں تائیدِ خداوندی حاصل کرتے رہے ہیں۔ حضرت محدث سورتی نے امام جزری اور ان کی تالیف حسن حصین کے افادات پر ایک طویل مضمون تلمبند کیا تھا۔ یہ مضمون اردو میں تھا۔ اور عظیم آباد پینٹ سے شائع ہونے سے۔ علامہ محمود احمد قادری ص ۳۱۰، تذکرہ علماء اہلسنت مطبوعہ لاہور (مجموعہ)

والے رسالہ تحفہ حنفیہ کی اشاعت ربیع الاول ۱۳۲۳ھ میں طبع ہوا تھا۔ حضرت محدث سورتی نے امام جزری کی علم حدیث میں خدمات اور حسن حصین کے سبب تالیف پر گفتگو کرتے ہوئے گذشتہ چار سو سال کے دوران ان دعاؤں سے مستفید ہونے والے علماء کے اقوال بھی درج کئے تھے۔ اس ضمن میں آپ نے ایک ذاتی واقعہ بھی رقم کیا تھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ امام جزری کی کتاب حسن حصین کے واسطے سے میری ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی ایک مرتبہ میری زیر تصنیف کتاب التعلیق المجلیٰ کا مسودہ گم ہو گیا۔ اور میں اس کی تلاش و فکر میں بھوک پیاس سے میگانا ہو چکا تھا کہ اچانک خیال آیا اور حسن حصین کو اٹھا کر دعائیں مصروف ہو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے لئے مسجد میں گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ محراب میں التعلیق المجلیٰ کا مسودہ کپڑے میں لپیٹا ہوا رکھا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد سے اپنا معمول بنا لیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اسی کتاب کو واسطہ بنا تا ہوں۔ میرے پیروں میں حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی نے مجھے حسن حصین کے ورد کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بعد الجمعہ حسن حصین کو شروع کرے گا اور حجرات کے دن بعد العصر ختم کرے گا وہ ہمیشہ ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے گا۔ خلق اللہ میں محبوب رہے گا۔ اور اس کی جملہ حاجات پوری ہوتی رہیں گی۔ اور یہ وہ مبارک و مجرب طریقہ ہے جس کی تلعین و اجازت میرے نامور مرتبہ و مرشد حضرت شاہ آفاق مجددی دہلوی نے مجھے عطا فرمائی۔

التعلیق المجلیٰ لمافی منیۃ المصلیٰ

التعلیق المجلیٰ لمافی منیۃ المصلیٰ حضرت مولانا وصی احمد محدث سورتی کی تصانیف میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ دراصل یہ علامہ سدید الدین کا شغری کی کتاب منیۃ المصلیٰ و غنیۃ المبتدی کی ایک مبسوط شرح ہے جو اپنی جگہ خود فقہ کی ایک اہم کتاب کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ علامہ سدید الدین کا شغری کا شمار ساتویں صدی ہجری کے فقہاء

میں فرماتے ہیں کہ ادب میں امام اور لسان عرب میں حجت کا مقام رکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں چونکہ وہ خود بخوبی تھے اس لئے اس پر اختصار کیا اور نہ امام بقالی نوح سے زیادہ فقہ میں مشہور ہیں زعمشری سے پڑھا اور اس کے حلقے میں اس کے نائب قرار پائے۔ زعمشری عمر بن محمد فرعون اور ابو طاسر مبنی وغیرہ سے علم حدیث حاصل کیا اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مثلاً جمع التفریق کتاب التفسیر کتاب التراجم بلسان الاعاجم شرح اسرار المسند مفتاح التنزیل کتاب التزیین (فیصلت علم میں) اذکار الصلوة - آفات الکذب الہدایتہ فی المعنی والبیان التنبیہ علی اعجاز القرآن تعویم اللسان اور الاعجاب فی الاعراب (علم نوح میں) وغیرہ ذالک۔

امام جلال الدین سیوطی بغیۃ الدعاة میں آپ کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ بہت نفع پہنچانے والے اور عمدہ عقیدہ والے اور کریم النفس تھے۔ کتابت اور اشعار کے پرکھنے میں بڑا درک رکھتے تھے۔ ستر سال کی عمر میں ۵۶۲ھ میں انتقال فرمایا اگرچہ طبقات کفوی میں ۵۶۶ھ سن وصال درج ہے لیکن پہلا قول زیادہ مستند ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔

اکثر علماء فرماتے ہیں آئمہ خوارزم میں بقالی ہمارے آخری امام ہیں۔ امام شمس اللامہ حلوانی کے معاصر تھے سیف السنہ آپ کا لقب تھا۔ اہل بلخاریہ کے لئے چھوٹی باتوں میں تھوڑے عشار کا فتویٰ آپ نے دیا تھا جیسا کہ فتح حلیہ وغنیہ اور درر وغیرہ میں مذکور ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ ص ۱۵۸

بعد از نماز ترک استقبال قبلہ اور مکتوب علی حضرت

حضرت محدث سودی فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلی بھیت میں سہارنپور کے کچھ مشہور علماء نے ظہر کی نماز میری امامت میں ادا کی میں نے والد محترم شیخ مکرم (مولانا محمد طیب) اور دو سکے جلیل القدر علمائے کرام کی طرح حسب معمول نماز سے سلام پھینکنے کے بعد سیدھی (شمال) جانب رخ موڑ کر دعا مانگی۔ میرے اس طریقہ پر علماء سہارنپور نے اعتراض کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ آپ نے قبلہ سے رخ موڑ کر دعا مانگی

ہے جبکہ فقہائے کرام نے ایسی نماز جس کے بعد سنن اور لوافل ہوں امام کے لئے ترک استقبال قبلہ کو مکروہ لکھا ہے اس پر میں نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ بتائیں کہ فقہائے کون سی کتاب میں اسے مکروہ لکھا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا یہ بات عام کتابوں میں موجود ہے اور معمولی علم رکھنے والا بھی اسے جانتا ہے۔ چونکہ حضرات مہمان تھے۔ دو سکر دن خدمت ہو گئے۔ تو میں نے کتب فقہ میں جو میرے پاس موجود تھیں اس مسئلہ کو تلاش کیا لیکن تصدیق نہیں ہو سکی۔ پھر میں نے عالم سنت مجدد مائتہ حاضرہ فقہ و جہہ محدث نبیہ سیدنا علامہ احمد رضا خان بریلوی کی خدمت عالیہ میں اس مسئلہ کو پیش کیا اللہ تعالیٰ انکے صوری اور مدنی فیض کو عام کرے۔ آپ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم۔ تحفہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امام امام سید رسول اکرام علیہ و علیہم افضل الصلوٰۃ والسلام کی سنت متواترہ امام کیلئے یہ ہے کہ اگر وہ سلام کے بعد ٹہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنا رخ قبلہ کی طرف سے موڑ لے۔ اس حکم میں تمام نمازیں برابر ہیں اکثر علماء نے یہی تصریح کی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد استقبال قبلہ پر بقا کو مکروہ لکھا ہے۔ چنانچہ جو کچھ آپ نے کیا وہ حق ہے اور جو آپ کے مخالف نے کہا وہ فقہائے کرام پر بہتان ہے۔ محقق شہیرا بن امیر الحاج حلیہ شرح منیہ میں زخییرہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اذا فرغ الامام من صلوٰۃ اجمع علی انہ لا یکتفی فی مکانہ

مستقبل للقبلة۔ (جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو اس بات پر اجماع

ہے کہ وہ استقبال قبلہ پر نہ رہے) سائر الصلوٰۃ فی ذالک علی السواء

اس حکم میں تمام نمازیں برابر ہیں۔) اور فرماتے ہیں:-

وقد صرح غیر واحد بانہ یکرہ ذالک (اور اکثر علماء نے تصریح

کی ہے کہ نماز کے بعد استقبال قبلہ پر قائم رہنا مکروہ ہے۔)

امام ابو داؤد اپنی سنن میں اور حاکم مستدرک میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ریحہ

فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نماز یا اس کی مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی جبکہ ابو بکرؓ و عمرؓ پہلی صف میں سیدھی طرف کھڑے تھے۔ ایک آدمی نماز میں آیا اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی پھر واپس اور بائیں جانب سلام پڑھا یہاں تک کہ ہم نے آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھ لی۔ پھر آپ ابو ریشہ کی طرف پھرے (یعنی قبلہ سے رخ موڑ لیا) تو وہ آدمی کھڑے ہو کر دو گانہ پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جھپٹ پڑے۔ اسے کانڈھوں سے پکڑ کر حرکت دی اور کہا کہ بیٹھ جا کہ اہل کتاب اس نے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں کے درمیان وقفہ نہیں تھا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا: "عمر تو نے سچ کہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ ایسی نماز جس کے بعد نوافل ہوں ترک استقبال قبلہ پر نفل ہے۔ چنانچہ اس سے منع کی کوئی وجہ نہیں۔ اگرچہ بعض نے ایسی نماز بھی جس کے بعد نوافل نہ ہوں استقبال قبلہ کو سلام پھیرنے کے بعد مکرر لکھا ہے جیسا کہ صاحب غنیہ نے خلاصہ سے نقل کیا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔"

تشریح حدیث

لا یجتمع امتی علی الضلالہ۔ اس حدیث کو ترمذی نے ان اللہ لا یجمع امتی اور امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الضلالہ کے الفاظ سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اجماع امت کی حقیقت پر دلالت کر رہی ہے اور اس حدیث میں لفظ "اور آدمی کے شک کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہ بات زیادہ قابل فہم ہے کہ منسوب الیہ اسم محمد سے تمام امتوں سے متاثر ہو گیا۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امت اجابہ کا اجتماع کفر کے سوا کسی شے پر نہیں ہو سکتا اس لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ امت کا کفر پر جمع ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ امر واقعہ ہے لیکن کفر پر اجتماع کے بعد امت کا امت ہونا ناممکن ہو گا اور یہاں امت سے مراد امت اجابہ ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ۔

ان الساعۃ لا تقوم الا علی الکفار (قیامت نہیں ہوگی مگر کفار پر!) بہر حال حدیث مسلمانوں کے اجماع کے حق ہونے پر دلالت کہہ رہا ہے اور اجماع سے علماء کا اجماع مراد ہے۔ عوام کا اجماع بے علمی کی بنا پر معتبر نہیں۔ علامہ طوطاوی حاشیہ مرقا میں لکھتے ہیں کہ علماء سے مراد اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں جو امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے متبع ہیں اور علامہ ابہری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔ علی الضلالہ الا علی الخطا۔ یعنی ضلالت کا معنی خطا ہے۔ اور بعض علماء نے ضلالت کے معنی کفر اور بعض نے معصیت کہا ہے۔ یہی اللہ کناہ ہے نفرت و غلبہ یا حفاظت و رحمت سے یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ استنباط احکام کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے احسان و توفیق سے رسول اللہ اور صحابہ کرام کے معتقدات اور اعمال پر اطلاع ہو جاتی ہے۔ علی الجماعۃ یعنی جو لوگ دین پر مجتمع ہیں اللہ تعالیٰ ضلالت و خطا سے ان کی حفاظت فرماتا ہے یا انہیں وہ توفیق عطا فرماتا ہے جو اجماع امت کے موافق ہو۔ "ومن شد یعنی جو جماعت سے اعتقاداً قولاً یا فعلاً علیہ ہوا اور جماعت کے عقیدہ پر قائم نہیں رہا۔" شد فی السامۃ یعنی جو علیہ ہوا تو وہ صحابہ کرام سے علیہ ہوا جو کہ اہل جنت ہیں چنانچہ علیہ کی بنیاد پر اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔

یہ حدیث مبارکہ آئمہ اربعہ امام ابو حنیفہ کو فی تابعی امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی تقلید کے واجب ہونے پر ایک مسلمہ دلیل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔ اور ان کے ساتھ امت والبتہ ہو گئی بلکہ دو سو سال کے بعد مکمل طور پر پوری امت ان حضرات کی پیروی کا ہو گئی۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ ملک الارشاد علامہ ارشاد حسین۔ (جزاہ اللہ عنی وعن سائر المسلمین خیر الجزا) نے امتصار الحق میں وجوب تقلید کے بحث میں اس مسئلہ کی بجاہن قاطعہ اور حج ساطعہ کے ساتھ بڑی عمدہ تحقیق فرمائی ہے۔ فاضل جلیل مولانا عبدالحی محدث لکنوی نے اپنے بعض فتاویٰ میں یہ

لکھا ہے کہ اس دور میں جو تقلید کو چھوڑنا ہے اور لوگوں کو بھی عدم تقلید کی طرف بلاتا ہے وہ منال اور مفضل ہے یعنی خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے (علاقہ بانی امام عبد الوہاب شمرانی میزان میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی سیدی علی الخراسانی سے یہ دریافت کرنا کہ اب مذہب معین کی تقلید واجب ہے یا نہیں تو آپ فرماتے تھے کہ مذہب معین کی تقلید واجب ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الخراسانی لکھتے ہیں کہ موجودہ مذاہب اربعہ جو مدونہ اور محررہ ہیں ان کی تقلید پر امت کا اجراع رہا ہے اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں جو کسی پر مخفی نہیں۔ خصوصاً اس دور میں جبکہ ہمیں لوٹ چکیں اور نفس ہوا حرص کی طرف مائل ہو چکے ہیں اور ہر صاحب الرائے اپنی رائے کو ترجیح دے رہا ہے اسی طرح اپنی کتاب عقداً الجید فی الاجتہاد والتقلید میں فرماتے ہیں کہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید میں مصلحت عظیمہ ہے اور اس سے اعراض و انحراف میں فساد عظیم ہے۔ ہم اس کو کئی وجوہ سے بیان کرتے ہیں۔
وجہ اول :- تمام امت نے اجتماعی طور پر معرفت شریعت میں اپنے اسلاف پر اعتماد کیا ہے۔ تابعین نے صحابہ پر اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا اسی طرح علماء کے ہر طبقے نے اپنے اسلاف پر اعتماد کیا۔ اور اس قدر قبول عام اچھائی پر دلالت کرتا ہے اب جبکہ اسلاف کے اقوال پر اعتماد کا تعین ہو گیا تو ضروری و لازمی ہے کہ وہ اقوال مندرجہ اسناد صحیحہ کے ساتھ مروی ہوں۔ یا کتب مشہورہ میں مدون ہوں۔ اور مذاہب اربعہ کے علاوہ کوئی مذہب بھی ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے ہاں مذہب امامیہ اور زیدیہ اہل بدعت کا مذہب ہے۔ ان کے اقوال پر اعتماد جائز نہیں ہے۔

وجہ دوم :- رسول اللہ فرماتے ہیں ایتبعوا السواد الاعظم۔ سواد اعظم کی اتباع کرو۔ جب ان مذاہب اربعہ کے علاوہ دوسرے مذاہب حقہ ناچید ہو گئے تو ان کی اتباع سواد اعظم کی اتباع ہوگی۔

شاہ ولی اللہ اپنی کتاب الفصاف فی بیان الاختلاف میں لکھتے ہیں کہ لوگ پہلی اور دوسری صدی میں مذہب معین کی تقلید پر مجتمع نہیں تھے لیکن وہ لوگ بہت کم تھے جو کسی عقیدہ معین کے مذہب پر اعتماد نہ رکھتے ہوں۔ اور یہی اس دور میں واجب و ضروری تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جب مذہب معین کی تقلید اس دور میں واجب تھی تو ہمارے دور میں تو بطریق اولی واجب ہوگی۔ اور یہ بات کسی پر مخفی بھی نہیں اسی لئے امام طحطاوی در مختار کتاب الذبائح پر اپنی تعلیقات میں فرماتے ہیں کہ حدیث مذکورہ میں الجماع سے مراد اہل علم کے نزدیک اہل فقہ اور علم دلتے مراد ہیں اور جو شخص ایک بالشیت بھی ان سے جدا ہوا وہ اللہ کی نفرت و اعانت سے خارج ہو کر جہنم میں گر گیا۔ اس لئے کہ اہل فقہ اور اہل علم سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین کے پیرو اور ہدایت یافتہ ہیں اور جو شخص بھی چھوڑے اہل فقہ اہل علم اور سواد اعظم سے علیحدہ ہوا تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو گا جو اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ اے گروہ مسلمین تم پر فریضہ ناجیہ یعنی اہل سنت و جماعت کی اتباع لازم ہے اللہ تعالیٰ کی نفرت و حفاظت اور بہت سے توفیق ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا غضب و عقوبت ان کے مخالفوں کے حق میں ہے اور آج یہ طائفہ ناجیہ مذاہب اربعہ میں مجتمع ہے۔ اور وہ حنفی مالکی شافعی حنبلی ہیں۔ اس زمانہ میں جو ان مذاہب اربعہ سے علیحدہ ہیں اہل بدعت اور اہل ناریں۔ علامہ سید مرتضیٰ حسینی محدث مہری فرماتے ہیں کہ اس دور کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اہل سنت و جماعت مذاہب اربعہ میں ہیں یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں ہر وہ شخص جس نے مذہب امام ابو حنیفہ میں کلام کیا۔ اس کا اپنا مذہب مٹ گیا۔ حتیٰ کہ اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا مذہب باقی رہنے والا ہے اور شرق و غرب کی زمین اس سے ہمیشہ آباد رہے گی۔ اور ہمیشہ لوگ اس پر ہوں گے محدث مہری فرماتے ہیں کہ حماد بن زید فرماتے تھے کہ میں نے ایوب سختیانی سے سنا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے سامنے ان کے مذہب کے نقص کے بارے میں مذاکرہ کیا۔ تو امام نے

فرمایا: یومئذ ان یطفئوا النور اللہ یا فواہم ویابی اللہ الا ان یتیم نورا
 وہ چاہتے ہیں کہ نورا الہی کو پھونکوں سے بجھادیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی چھوڑے گا
 علامہ سختیانی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مذہب کی جماعت کو امام ابوحنیفہ کے مذہب
 میں اختلاف کرتے دیکھا۔ لیکن ان کا اپنا مذہب مٹ گیا مگر امام ابوحنیفہ کا مذہب
 قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جس قدر وقت آگے بڑھتا جلتے گا۔ اس کے نوازیہ
 میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ص ۱۵

انگوٹھے چومنے کا مسئلہ

اذان کے جوبالی کلمات میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت محدث سوادتی فرماتے
 ہیں کہ شہادت اولیٰ کے سماع کے وقت صل اللہ علیک یا رسول اللہ اور شہادت ثانی کے
 سماع کے وقت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہہ کر انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں
 پر رکھنا مستحب ہے اس لئے کہ جبرائیل اس کے لاجنت میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ
 اس کے فائدہ ہوں گے ہکذا فی کفر العباد وجامع الرموز۔ اور محقق شام نے رد المحتار
 میں اس پوری حدیث کو مذکورہ بالا کتب سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ فتاویٰ صوفیہ
 میں یوں ہے کہ من قبل ظفر ابہامیہ عند سماع اشہدان محمد الرسول اللہ
 فی الاذان انا قائد اولہ ویدخلہ فی صفوف الجنتہ (جواذان میں کلمہ شہادت کے
 سننے کے وقت انگوٹھے چومے گائیں اس کا فائدہ ہوں گا اور اُسے جنتیوں کی صف میں شامل
 کر لوں گا۔ مکمل حدیث علامہ رسل نے حاشیہ بحر میں علامہ ستاری کی مقاصد الحسنہ سے
 نقل کی ہے۔ علامہ جراحی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور طویل گفتگو کی ہے اور آخر میں کہا کہ۔
 وَلَمْ یَصِحْ فِی الْمَرْفُوعِ مِنْ کُلِّ هَذَا شَیْءٌ

اور اس سے بہت سے دہاویوں نے (الذین ضل سعیہم فی الحیلولة الدنیا وہم
 یحسبون انہم یحسبون صنعا (الایہ) (یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش

دنیا ہی کی زندگی میں عاقبت ہو کر رہیں۔ اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ کوئی بڑا اچھا کام کرتے رہے
 ہیں) فائدہ اٹھایا اور شیطان نے ان کو ٹھسلا یا تو انہوں نے ہر اس معروف کو جس میں اس
 ذات کی تعظیم و تکریم تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا منکر و بدعت ٹھہرایا۔ علامہ جراحی
 کی مندرجہ بالا عبارت سے انہوں نے شہادتین میں رسول اللہ کے اسم مبارک کے سماع کے
 وقت تقبیل ابہامین کو منع سمجھا ہے۔ اور ہمارے اہلسنت و جماعت کے مبتدی طلبہ
 کو مغالطہ میں ڈالا ہے۔ وہ باری کہتے ہیں کہ آپ تقبیل ابہامین کو مستحب کیسے کہتے ہیں حالانکہ
 اس میں اختلاف ہے اور رد المحتار میں تہذیبی کتابوں کے حوالے سے تصریح کی گئی ہے کہ:
 انه لم یصح فی المرفوع منہ شئ۔ بجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شہادت
 کو رفع کرنے اور ان کے مغالطے کو دفع کرنے کیلئے میں تیار ہوں۔ اس شہدہ فاضلہ اور مغالطہ
 واضحہ کو دور کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی امداد و اعانت سے کہتا ہوں کہ اصول فقہ اور
 اصول حدیث میں معمولی بہارت رکھنے والے سے مخفی نہیں کہ صحت مرفوع کی نفی ثبوت
 کی نفی کو مستلزم نہیں چہ جائیکہ کہ اسے بہارت کامل حاصل ہو۔ اس بات کو تسلیم کر لینے کے
 بعد یہ واضح ہو گیا کہ صحیح کی نفی ہو رہی ہے حسن کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ اور حسن سے صحیح
 کی طرف استدلال کیا جاسکتا ہے۔

فقہہ عمر محدث و ہر محقق ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں۔ مسالۃ المسح
 بالمتدیل بعد الصنوقول الترمذی لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فی هذا الباب شئ۔ (روضہ کے بعد اعضاء کو رومال سے پونچھنے کے بارے میں رسول اللہ
 سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے) حسن اور اس کی امثال کے وجود کی نفی نہیں کر رہا
 پہلے پر مطلوب کا ثبوت صرف صحیح پر موقوف نہیں بلکہ جو چیز صحیح سے ثابت ہو سکتی ہے وہی
 حسن سے ثابت ہو سکتی ہے اور امام ابن حجر مکی صواعق محرقة میں فرماتے ہیں کہ امام احمد
 لا قول ہے کہ صحیح لذاتہ کی نفی سے حسن لغیرہ کی نفی نہیں ہوتی بلکہ حسن لغیرہ سے صحیح کی
 طرح دلیل دی جاسکتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن حجر از کار نوزوی کی احادیث کی تخریج

میں فرماتے ہیں کہ نفی الصحة لا ینتفی الحسن (صحیح کی نفی سے حسن کی نفی نہیں ہوتی اور منزهة النظر فی توضیح غنیمۃ الفکر میں فرماتے ہیں حسن کی یہ قسم صحیح کی طرح بطور دلیل پیش کی جاسکتی ہے۔ علامہ ملا علی قاری موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں۔ لا یصح لانیافی الحسن (لا یصح سے حسن کی نفی نہیں ہوتی)

ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہے

اس حدیث کو آپ ضعیف کہتے ہیں لیکن ضعیف حدیث کے ساتھ فضائل اعمال میں عمل صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے چنانچہ علامہ علی قاری مکی مرآة المفاتیح فی شرح مشکوٰۃ المعارج باب فضل الاذان و اجابۃ المؤذن میں فرماتے ہیں فیہ راوی مجہول ولا یضرب لانتہاء من احادیث الفضائل: اس میں ایک راوی مجہول ہے لیکن احادیث فضائل میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ اور موضوعات کبیر میں گردن کے مسح والی حدیث کے ضعف کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں لیعمل فی فضائل الاعمال اتفاقاً۔ ضعیف حدیث کے ساتھ فضائل اعمال میں متفقہ طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس لئے ہمارے آئمہ کرام نے گردن کے مسح کو مستحب یا سنت کہا ہے۔ شیخ ابوطالب مکی قوت القلوب فی معاملۃ المجرور میں فرماتے ہیں ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ اور ہمارے سلف یہی کہتے چلے آئے ہیں امام ابو ذر کبیر یا ربین میں امام ابن حجر شرح مشکوٰۃ میں۔ علامہ ملا علی قاری مکی مرآة اور حرز ثمین شرح حصن حصین میں فرماتے ہیں۔ قد اتفق العلماء علی جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال (فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے جواز میں علماء کا اتفاق ہے۔) فتح القدیر فصل حمل الخنازیر میں ہے۔ الاستحباب یثبت بالضعیف غیر الموضوع (استحباب حدیث ضعیف غیر موضوع سے ثابت ہوتا ہے) شیخ الاسلام ابو ذر کبیر یا الازکار المنتخب من کلام سید الابرار میں امام ابن ہمام العقد النفید

فی کلمۃ التوحید میں اور علامہ عبد الغنی نابلسی المدلیقہ النذیر میں فرماتے ہیں۔ محدثین اور فقہا فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کے ساتھ ترغیب و ترہیب اور عمل صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب سمجھتے ہیں۔ علامہ ابراہیم علی اپنی کبیر میں لکھتے ہیں۔ وضو کے بعد دو مال کے ساتھ اعضا خشک کرنا مستحب ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک کپڑا تھا۔ وضو کے بعد آپ اس سے اعضا پونچھتے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کے ساتھ عمل جائز ہے۔ امام جلال الدین سیوطی طلوع شریاہ اظہار ما کان خفیاً میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ابن صلاح نے اسے مستحب کہا ہے اور اس کی اتباع امام نووی نے بھی کی اس وجہ سے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کے ساتھ تسامح کیا گیا ہے۔ علامہ جلال الدین محقق الدوانی الموزح العلوم میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسی حدیث جو حجت کراہیت کا احتمال نہ رکھتی ہو۔ فضائل اعمال میں پائی جائے تو اس کے ساتھ عمل صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔

حدیث منقطعہ کا حجت ہونا

حدیث منقطعہ کے حجت ہونے پر علامہ سخاوی المقاصد الحسنہ فتح القدیر علیہ شرح منیہ سے دلائل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علامہ علی قاری مرآة میں حدیث کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ائمہ واجہہ ثم یصلی ولا یتوضأ (نبی علیہ السلام اپنی بعض اذواج کو بوسہ دیتے پھر وضو کے بغیر نماز پڑھتے) کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ مرسل یعنی نوری مرسل ہے اور یہ منقطع ہے لیکن مرسل ہمارے اہل جہور کے نزدیک حجت ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث اذا ما کح احدکم فقال فی مکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاث مرات فقد تم مکوعہ ثم قال لیس استنارہ بمتصل (جب تم میں سے کوئی کح کرے تو اپنے مکوعہ میں تین بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا مکوعہ پورا ہوگا۔ پھر کہا کہ

اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے) اس پر امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ منقطع حدیث پر فضائل اعمال میں عمل کرنا اجماعاً ثابت ہے امام جلال الدین سیوطی تعقیبات میں حدیث النظر الی اعلیٰ عبادۃ (دیدار علی عبادت ہے) کے تحت لکھتے ہیں کہ متردک اور منکر جب طرق متعدّدہ سے مروی ہو تو ضعیف غریب کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ کبھی تو حسن کے درجہ اور مرتبہ میں پہنچ جاتی ہے۔

اہل علم کے عمل سے حدیث قوی ہو جاتی ہے۔

علامہ جمال الدین بن عبداللہ بن عمر مکی سے اذان میں رسول اللہ کے نام کے سماع کے وقت انگوٹے چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں تو اپنے فتاویٰ نے آپ نے جواب دیا کہ اذان میں اسم رسول اللہ کے سماع کے وقت انگوٹے چومنا اور آنکھوں پر رکھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ ہمارے مشائخ نے کسی کتابوں میں اس کی تصریح کی ہے۔ اہل علم کے عمل کے ساتھ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہو۔ چنانچہ علامہ ملا علی قاری مرقاۃ باب ما علی المسلم من المتابعۃ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ غریب ہے اور اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن ترمذی نے اہل علم کے عمل کے ساتھ اس حدیث کی تقریر کو تسلیم کیا ہے۔ جیسا کہ شیخ محمد بن ابی حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث معلوم ہوئی کہ من قال لا الہ الا اللہ سبعین الفاعف اللہ تعالیٰ لہ ومن قیل لہ عقر لہ ایضاً۔ (جو آدمی ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادے گا۔ اور جس کے لئے پڑھا جائے اسے بھی معاف فرمادے گا۔) تو میں نے ستر ہزار مرتبہ بغیر کسی کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اس کلمہ کو پڑھا پھر ایک دوست کے پاس گیا تو وہاں ایک جوان جو کشف میں بہت مشہور تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے رونے لگا۔ تو میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے چنانچہ میں نے باطنی طور پر اس کلمہ کا ثواب اس جوان کی والدہ کو پہنچا دیا۔ تو وہ خوشی سے ہنسنے لگا۔ اور کہا کہ اب میں اسے اچھے مقام میں دیکھتا ہوں

شیخ محمد بن ابی حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحت حدیث کو اس کے صحت کشف سے اور اس کے صحت کشف کو صحت حدیث سے پہچانا۔ امام جلال الدین سیوطی تعقیبات میں حدیث صلواتہ تسبیح کے ذیل میں امام بیہقی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تداولہا العارف بعضهم عن بعض (صالحین ایک دوسرے سے ایسے لیتے رہے۔) اور صالحین کے اس عمل سے اس حدیث کو تقویت پہنچی ہے۔ اس طرح جمع بین صلاتین والی حدیث بقول حسین کے امام احمد کے نزدیک ضعیف ہے لیکن اہل علم کا اس پر عمل کرنا اس کی تقویت کی دلیل ہے۔ میں (حدیث مودتی) کہتا ہوں کہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ اور من وجہ نبی صل اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ضعیف ہے لیکن بحمد اللہ قد ثبتت رفعہ الی الصدیق الاکبر و ذالک یقیناً۔ (تحقیق اس کا مرفوع ہونا حضرت صدیق اکبر تک ثابت ہے اور یہی ہمارے لئے کافی ہے) اس لئے کہ ہمیں ان حضرات کی اقتدار کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ہمارے اولین و آخرین کے امام حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اقتدا بوالدین بعدی ابی بکر و عیسیٰ وینکہ صلی علیہ وسلم بعد بکر و عیسیٰ کی اقتدار کرد) علامہ ملا علی قاری موضوعات کبیر میں علامہ سخاوی کی عبارت لکھتے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اذ اثبتت رفعہ الصدیق فی کیفی للعامل (جب اس کا مرفوع ہونا حضرت صدیق تک ثابت ہے تو عمل کے لئے کافی ہے) کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ علیکم بيسنتی و سنتہ الخلفاء راشدین (تم لوگوں پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے)

فائدہ جلیلہ

میں آپ کو اب ایک فائدہ جلیلہ سے آگاہ کرتا ہوں۔ وہ آپ کو ہر جگہ اور ہر مقام پر نفع دے گا اور وہ یہ ہے کہ حدیث پر لا یصح لم یصح اور غیر صحیح کا حکم نفس الامر میں اس کے کاذب ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے جو علوم میں گہری نظر نہیں رکھتے۔ امام ابو عمر تقی الدین شہر زوری اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ جب کسی حدیث

پر غیبی صحیح کا حکم لگایا جاتا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نفس الامر میں کاذب ہے بلکہ کبھی تو وہ خارج میں صادق ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی اسناد بشرط مذکورہ کے مطابق صحیح نہیں ہیں ایسی حدیث کو ضعیف کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان شرط مذکورہ کے مطابق اس کی اسناد درست نہیں ہوتیں۔ تقریب اور شرح تدریب میں ہے اذ اقبل حدیث ضعیف فمعناہ لم یصح اسنادہ علی الشرط المذكور لانه کذب فی نفس الامر۔ جب کہا جائے کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرط مذکورہ کے مطابق اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ یہ کہ وہ نفس الامر میں جھوٹی ہے) اسی طرح محقق علی الاطلاق فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ حسن صحیح اور ضعیف صفات حدیث سند کے اعتبار سے ہیں اور فی الواقعہ تو غلط صحیح ہونا اور صحیح کا ضعیف ہونا جائز ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب نفس الامر میں اس کا باطل ہونا نہیں بلکہ محدثین کے نزدیک شرائط مقبرہ سے ثابت نہ ہونا ہے۔

الدَّرَّةُ فِي عَقْدِ الْاَيْدِي تَحْتَ السَّرَّةِ

حضرت محدث سورتی نے اس رسالہ میں نماز میں زیر ناف ہاتھ باندھنے کو سنت ثابت کیا ہے کیونکہ غیر مقلدین نماز میں ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ باوجودیکہ صحاح ستہ میں اس عمل کے بارے میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں۔ حضرت محدث سورتی نے اپنی کتاب التعلیق الجلی میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مذکورہ رسالہ کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے توفیق الہی سے اس مسئلہ پر اردو زبان میں ایک رسالہ لکھا تھا۔ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو عظیم کتاب تصور کریں گے۔ میں نے اس رسالہ میں ایسے مسائل جمع کئے ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں اور ان کا لے چھو نہیں اور بڑی بڑی کتابیں ان سے خالی ہیں اس رسالہ کا میرے اساتذہ نے مجھ سے پہلے نام الدرۃ فی وضع الایدی تحت السرۃ رکھا۔

سہ۔ التعلیق الجلی۔ ص۔

حضرت محدث سورتی نے اس رسالہ میں متعدد احادیث سے زیر ناف ہاتھ باندھنے کے اسناد پیش کی ہیں اور بحیثیت ایک محدث کے اس مسئلہ پر تمام احادیث یکجا کر دی ہیں بلکہ روایت و سند کا تعاقب بھی کیا ہے تاکہ مسئلہ پوری طرح صاف ہو کر عامۃ الناس کے سامنے آسکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر کہ السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلوۃ تحت الشرف (یعنی نماز میں زیر ناف ہاتھ پر ہاتھ کا رکھنا سنت ہے) تفریح اس کی یوں ہے کہ نماز میں داہنے ہاتھ کی پھیلی بائیں ہاتھ کے پونچھے پر زیر ناف رکھی جائے حضرت محدث سورتی نے اس پر بہت سیر حاصل بحث کی ہے۔ آپ نے لکھا کہ اسے ذکر کیا امام احمد بن حنبل نے مسند میں اور ان کے بیٹے عبداللہ نے زوائد میں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں دارقطنی اور بیہقی نے اپنی اپنی سنن میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں لیکن زبلی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اکثر نسخوں میں موجود نہیں لیکن انہوں نے اسے ابن داسط کے واسطے سے مروجہ نسخوں سے لیا ہے۔ اسی لئے ابن عساکر نے اور منذری نے اسے ذکر نہیں کیا اور امام تیمہ نے اپنی منتقاہ میں اس کا ذکر نہیں کیا لیکن دارقطنی نے ذکر کیا ہے۔ ابن القطان نے اس حدیث کے قومی ہونے پر اس کا تعاقب نہیں کیا بلکہ اس کی سند پر تعاقب کیا ہے کیونکہ اس کی سند میں عبدالرحمن بن اسحق جو کہ ابو شیبہ واسطی ہے کے بارے میں ابن حنبل اور ابو حاتم نے کہا کہ وہ منکر الحدیث ہے اور ابن معین نے کہا میں نے کبھی اور بخاری نے کہا فیہ نظر۔ اس سند میں زیاد بن زید مجہول الحال ہے۔ بیہقی نے کہا کہ اس کی سند ثابت نہیں کیونکہ عبدالرحمن اس میں ہے اور وہ متروک ہے۔ امام نووی نے خلاصہ میں اسے شرح مسلم میں کہا ہے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے کیونکہ عبدالرحمن بالاتفاق ضعیف ہے۔

حضرت محدث سورتی نے اس حدیث کے ضعیف ہونے پر تمام دلائل جمع کرنے کے بعد ان دلائل پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ایک راوی کا ضعیف ثابت ہوجانے کی صورت میں ضروری نہیں کہ حدیث کو خارج اعمال قرار دیدیا جائے جبکہ یہی حدیث دیگر راویوں سے بھی مختلف محدثین کی کتب احادیث میں موجود ہے اس مسئلہ کو صاف کرنے کے لئے محدث سورتی نے کمال حق والقضائے

سے کام لیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اس حدیث کے قومی ہونے پر متعدد دلائل پیش کئے ہیں جو فی الحقیقت محدث سورتی کی نقاہت اسرارہا لہذا پر مہلت اور باریک بینی کی ایک اعلیٰ نظیر ہیں۔ حضرت محدث سورتی نے دوران بحث امام ابوحنیفہ کے تابعی ہونے کو بھی ثابت کیا ہے۔ مولانا عبدالعلی آسی مدد اسی نے اپنی کتاب تنبیہ الوہابین میں نماز میں زیناف ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ایک مقام پر حضرت محدث سورتی کے اس رسالہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے اپنے دلائل ختم کئے لیکن اگر کسی کو اس پر بھی اطمینان نہیں ہے اور وہ زیادہ تفصیل کا طالب ہے۔ تو کتاب الدرۃ فی عقول ابی محمد السمری میں ملاحظہ کر لے کہ جسکو محدث بلیمعی علامہ مولانا مولوی وصی احمد صاحب سورتی نے تالیف کیا ہے اور بحث جرح و تعدیل روایت کو مثل آئینہ کے صیقل بیان سے چمکا دیا ہے۔

کشف الغمامہ عن سنیۃ العمامہ

(۱۳۲۶ھ)

چودھویں صدی ہجری کی دوسری دہائی میں جماعت کی امامت اور امامت کے تقاضوں سے متعلق ایک علمی بحث کا آغاز ہوا۔ اس سلسلہ میں سب سے متنازعہ مسئلہ یہ تھا کہ آیا امام لڑپنی پہن کر امامت کرا سکتا ہے یا اسے عمامہ زیب سر کرنا لازم ہے۔ اس مسئلہ پر مولانا عبدالطیٰ فرنگی محلی کا ایک فتویٰ عمدۃ الرعایہ پہلے سے موجود تھا لیکن اس سے مسئلہ کے جزئیات پر پوری طرح روشنی نہیں پڑتی تھی۔ ہر چند اس فتویٰ کی تصدیق حضرت محدث سورتی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کر چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مسئلہ کو صاف کرنے کی ضرورت باقی تھی۔ چنانچہ ۱۳۲۶ھ میں حضرت محدث سورتی نے ایک سائل کے جواب میں اس مسئلہ پر ایک رسالہ کشف الغمامہ عن سنیۃ العمامہ تحریر فرمایا جو تقریباً ۳۲ صفحات پر مشتمل تھا۔ اس رسالہ کی تحریر سے قبل حضرت محدث سورتی نے مسئلہ کی نوعیت

سہ: تنبیہ الوہابین ص ۱۶۷۔ مولوی عبدالعلی آسی مدد اسی مطبوعہ مطبعہ آسی مدد اسی لکھنؤ ۱۳۲۶ھ۔

پر مولانا احمد رضا خان بریلوی سے بھی خط و کتابت کی جو اعلیٰ حضرت کے فناء دہلی میں شامل ہے۔ کشف الغمامہ میں محدث سورتی نے تقریباً ۱۳۵ احادیث اور متعدد فقہا کی آراء نقل کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ امام کے لئے لڑپنی پہن کر امامت کرنا درست ہے لیکن اگر امام کے سر پر عمامہ ہو تو یہ مقب و مسنون عمل ہے۔ محدث سورتی کی یہ تحقیق اپنے اندر اس اعتبار سے بڑی ندرت لے ہوئے ہے۔ کہ انہوں نے اس مسئلہ پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور مولانا عمر الدین ہزاروی کا رسالہ ازالۃ الغمامہ عن الامامہ بغیر العمامہ شائع ہونے کے بعد اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور مسئلہ کے تمام تشنہ پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے جواب دیے ہیں۔ مولانا عمر الدین ہزاروی کے رسالہ پر محدث سورتی نے تقریباً ۱۳۲۶ھ میں تقریظ تحریر کی تھی اور ان کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ میں نے یہ رسالہ شریف و مجالہ منیفہ عالم بے مثل فاضل بے عدیل حامی سنت ماحی بدعت عین اعیان شریعت رکن رکن ارباب طریقت مولانا وسیدنا مولوی محمد عمر الدین صاحب کا رسالہ بن اذہا الی آخرھا کو دیکھا۔ اس کے سب براہین کو استوار اور تمام دلائل کو پائیدار پایا۔ روایات حدیثیہ جو اس میں مندرج ہیں وہ سب حسن اور صحیح ہیں اور روایات فقہیہ جو اس میں لکھی گئی ہیں۔ وہ سب معتبر ظاہر الروایات مدعا پر دلالت کرنے میں صریح ہیں۔ نظریات اس کے بدیہات ہیں۔ اور بدیہات اس کے اولیات ہیں۔ ہر مقدمہ اس کا واضح اور فضل مصنف پر ناطق ہے۔ اور ہر مدعا اس کا لائح واقعہ کے مطابق ہے بالجملہ مصنف بہام کی تقریر تام ہے۔ اور کلام نواب الغمام۔ ان کا مطبوع طبائع محول اعلام ہے جس کو علوم شرعیہ میں ادنیٰ مہارت نصیب ہے وہ اس نایاب تحریر کو دیکھتے ہی لپکا لٹھے گا اللہ درہ مفتی لبیب مصیب ہے۔ اور جس کو فتویٰ علم سے مس نہ ہوگا۔ اسی کو اس بے نظیر تقریر کی صحت میں کلام ہوگا حررہ العبد المسکین المشبت بذیل سید المرسلین وصی احمد الحنفی الحنفی السنی حماہ

اللہ تعالیٰ عن شرکلی غیبی (مہر: ناصر دین — محمد وصی احمد)

۱۹۳۵ء میں مولوی شاعر اللہ امرتسری غیر مقلد نے اس مسئلہ کو جب نے دوسرے سے ہوا دی۔ تو مولانا حشمت علی خان لکھنوی شہ پبلی بھیتی نے امرتسر سے شائع ہونے والے پندرہ روزہ رسالہ الفقیہہ میں "مسئلہ العمامہ والقلنسوة" کے عنوان سے ایک بسیط مضمون تحریر کیا جس کے چند حصوں پر مولانا قاضی فضل احمد لدھیانوی نے اعتراض کیا۔ چنانچہ قاضی فضل احمد لدھیانوی کے اعتراضات کا جواب اسی رسالہ میں مولانا حافظ محمد مصاحب علی مقیم جاوڑہ انکشاف حقیقت کے عنوان سے آٹھ سطروں میں دیا جو ۲۱ جنوری ۱۹۳۶ء کی اشاعت سے ۲۷ اپریل ۱۹۳۶ء کی اشاعت تک برابر شائع ہوتی رہیں۔ مولانا مصاحب علی نے اپنے اس طویل مضمون میں اس مسئلہ کی تمام باریکیوں پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور قبل ازیں جاوڑہ فیضانِ اسلامی کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اس بحث میں مولانا فضل احمد لدھیانوی اور مولانا مصاحب علی نے بار بار محدث سورتی کے رسالہ کشف الغمامہ کو بطور سند پیش کیا ہے۔ مولانا فضل احمد لدھیانوی نے حضرت محدث سورتی کے رسالہ سے ایک مرحلہ پر مولانا عمر الدین ہزاروی کے رسالہ کی تردید بھی ثابت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا عمر الدین ہزاروی کے رسالہ کی اشاعت کے چھ سال بعد مولانا مولوی جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول استاذ المدین خاتم المحدثین جناب مفتی محمد وصی احمد محدث سورتی کا رسالہ کشف الغمامہ عن سننہ العمامہ در اصل صحیح معنوں میں رسالہ ازالۃ العمامہ عن الامامہ کی تردید میں کافی ہے: دوسری طرف مولانا مصاحب علی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ محدث سورتی نے اس مسئلہ کے مختلف جزئیات پر روشنی ڈالی ہے جبکہ مولانا عمر الدین نے صرف ٹوپی پہن کر امامت کرنے کی فقہی توجیہ پر بحث کی ہے۔

حضرت محدث سورتی نے عمامہ کے مسئلہ پر طویل بحث کے بعد حاصل کلام لیں بیان کیا ہے کہ عمامہ سے نماز پڑھنے اور پڑھانے کا اجر زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں

اور عمامہ کو ٹوپی پر فضیلت بھی ہے۔ اور یہ بھی مستحب و مسنون ہے کہ عمامہ کے نیچے ٹوپی پہنا کر یہ لیکن اس کے بعد یہ دعویٰ کہ تنہا ٹوپی پہننا ممنوع و ناجائز ہے اور لباس شکرین و بلبوت شرک و کفر ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا اور پڑھانا بھی مکروہ و ناجائز ہے اور جو نماز کہ ٹوپی پہن کر پڑھی جائے واجب الاعادة ہو جاتی ہے یہ ادعائے باطل ہے اور احکام شریعت مطہرے کو قرآنی و احادیث نبوی عمامہ کا وجوب بلکہ فرضیت ثابت کرنا محض غلط ہے بلکہ جس مستحب یا مسنون عمل کو اس کی حد سے بڑھایا جائے اور بطور فرض و واجب اس کا التزام کیا جائے تو پھر وہ فعل و عمل مستحب و مسنون بھی مکروہ ہو جاتا ہے اس ضمن میں یہ اصول بھی مسلمہ ہے کہ مباحات بھی مکروہ ہو جاتے ہیں۔

اظہار شریعت

اظہار شریعت محدث سورتی کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے جس کو مولانا حاجی افتخار ولی خان پبلی بھیتی نے رسائل کی شکل میں تین حصوں میں مرتب کیا ہے۔ مجموعہ میں متعدد مسائل پر فتاویٰ موجود ہیں۔ جن کے مطالعہ سے حضرت محدث سورتی کے تجر علمی اور استخراج و استنباط فقہی کا کجی اندازہ ہوتا ہے اظہار شریعت میں محدث سورتی کے صرف ان فتاویٰ کو کجا کیا گیا ہے جن کی مرتب نے ضرورت محسوس کی بصورت دیگر اگر تمام فتاویٰ مرتب کر دیئے جاتے تو یہ رسائل ایک ضخیم مجموعہ کی شکل اختیار کر لیتے۔ راقم الحروف نے "محدث سورتی" کے فتاویٰ کے عنوان سے زیر نظر تذکرہ میں ایک باب قائم کیا ہے اور چند فتاویٰ تذکرہ قارئین کے ہیں۔ یہ فتاویٰ اظہار شریعت اور تحفہ حنفیہ سے لئے گئے ہیں۔ جبکہ دیگر فتاویٰ کے حصول کی کوشش جاری ہے۔ بہر حال اظہار شریعت کے سلسلہ میں مولانا افتخار ولی خان کی یہ کوشش فائدہ ہونے کے باوجود مستحسن ہے جس کو انہوں نے ۱۳۶۲ھ میں بریلی ایگریٹرک پریس بریلی سے طبع کر کے کتب خانہ اہلسنت پبلی بھیتی سے شائع کیا ہے۔

انفع الشواہد

حضرت محدث سورتی کا یہ رسالہ جو چھوٹے سائز کے سولہ صفحات پر مشتمل ہے غیر مقلدین کے بعض عقائد کی رد میں ہے۔ رسالہ کا تاریخی نام انفع الشواہد لمن یحدث الوہابیین عن

المساجد ہے جس سے لکھی گئی ہے۔ یہ رسالہ حضرت محدث سورتی نے مولانا عبدالرحمن مجی پوکھر برہوی مظفر پوری کے ایک استفسار کے جواب میں تحریر کیا تھا۔ جس میں مولانا عبدالرحمن نے دریافت کیا تھا کہ غیر مقلدین وہابیہ جو چار مذاہب سے باہر اور تعلیم کے منکر ہیں ان کے سچے نماز پڑھنا، شادی بیاہ کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ اگر ہم حنفی ان کے سچے نماز پڑھیں یا ان کو اپنے سچے نماز پڑھنے دیں تو جائز ہے یا نہیں اور اپنی مساجد میں ان کو آنے دینا چاہیے یا نہیں۔ حضرت محدث سورتی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کا جواب تحریر کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ غیر مقلدین دین اسلام میں منافق کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ رسالہ پہلی مرتبہ کلکتہ سے مولانا حاجی لعل خاں نے شائع کیا تھا۔ لیکن بعد میں اس پر مولانا عبدالرحمن پوکھر برہوی نے حواشی لگا کر کتب خانہ تہذیب پبلیشیت سے شائع کرایا رسالہ کے آخر میں فاضل برہوی مولانا احمد رضا خان اور مولانا دیدار علی اوی کے علاوہ متعدد علماء کرام تصدیقات درج ہیں۔

حاشیہ مقامات حریری

ابو محمد قاسم بن علی بن محمد بن عثمان الحریری (م ۵۱۶ھ) عربی ادب میں صاحب طرز المشاعر پر دراز اور مقامات نویسی میں فقیہ المثل عالم گذرے ہیں۔ حکایات نویسی کا آغاز بدیع الزماں احمد بن حسین ہمدانی (م ۳۹۸ھ) نے کیا اور مقامات ہمدانی تحریر کی لیکن یہ صنف ادب ابو محمد قاسم بن علی حریری کی کاوشوں سے عروج پر پہنچی۔ مقامات حریری عربی زبان کے متنوع اسالیب، امثال و محاورات اور رموز پرانی کا آئینہ ہے۔ مقامات حریری میں حفظ معانی، لغات اور الفاظ کے مختلف استعمال، بدائع و ضائع کو جس انداز میں اجاگر کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عربی ادب آج مقامات نویسی سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مقامات حریری کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ اس کتاب کے تقریباً دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ خصوصاً عربی فارسی اور اردو میں تو اس کی متعدد شروحات، ضبط تحریر میں لائی گئی ہیں۔ حضرت محدث سورتی نے بھی اس کا حاشیہ لکھا

تھا۔ جو مطبع یوسفی سے ۱۳۰۶ھ میں طبع ہوا۔ مولانا قاری غلام محی الدین سیلی بھتی نے نومبر ۱۹۶۹ء میں راقم الحروف کو ایک ملاقات میں بتایا کہ مقامات حریری پر حضرت محدث سورتی کا حاشیہ ہر جہد کہ مخفی تھا لیکن آپ نے بعض مقامات پر حریری کی گرفت بھی کی تھی یہ حاشیہ اب صرف رضا لائبریری رامپور میں موجود ہے۔

حاشیہ شافیہ

عربی لسانیات میں جن علماء نے دائمی ثبوت حاصل کی ان میں ابن حاجب (م ۶۴۶ھ) کا اسم گرامی سر نہرت ہے۔ ان کا اصل نام تذکرہ نگاروں نے جمال الدین ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس لکھا ہے لیکن وہ اپنے والد ابو عمرو کے منصب حاجب کے نام سے معروف ہوئے اور ابن حاجب کہلائے۔ ابن حاجب کو صرف و نحو میں بہارت نامہ حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نحو میں ان کے رسالہ کافیہ اور صرف میں شافیہ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور آج بھی ادب عربی و درسی نظامی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الشافیہ عربی زبان کی صرف پر متداول رسالہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس پر متعدد حواشی لکھے گئے۔ حضرت محدث سورتی نے بھی اس پر ایک حاشیہ تحریر کیا تھا۔ جو مطبع مصطفائی کانپور سے ۱۳۹۸ھ میں شائع ہوا۔ جیسا کہ مدرسہ الحدیث سیلی بھتی کی از سر نو تعمیر کے لئے شائع کئے جانے والے اشتہار میں محدث سورتی کی تصانیف کے ضمن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن تلاش بسیار کے باوجود راقم الحروف کو اس کا کوئی نسخہ دستیاب نہیں ہو سکا۔

تعلیقات شرح ملاحسن

حضرت محدث سورتی علوم و فنون کے تمام شعبوں میں مجتہدانہ بصیرت رکھتے تھے آپ کو جس طرح علوم فقہیہ یعنی تفسیر، حدیث اور فقہ میں کامل دسترس حاصل تھی اسی طرح علوم عقلیہ پر بھی آپ کی زبردست نظر تھی جس کا اندازہ ان تعلیقات سے ہوتا ہے جو آپ نے دس صدیوں

کے دوران منطوق و فلسفہ کی مختلف کتب پر سپرد قلم فرماتے ہیں۔ مسلم العلوم از ملا محب اللہ بہاری کی شرح ملاحسن کے ایک مطبوعہ نسخہ پر آپ کے متعدد مقامات پر قلمی حواشی عربی میں موجود ہیں۔ ہر چند ان حواشی کی نوعیت مستقل حواشی کی سی نہیں ہے لیکن ان کی افادیت مسلم الثبوت ہے۔ ان حواشی کے مطالعہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آپ نے درس و تدریس کے دوران طلباء کو منطوق و فلسفہ کی کتابیں بھی پڑھانی تھیں اور مضامین کے ابلاغ کے لئے مروجہ کتب پر حواشی بھی تحریر کئے تھے۔ تاکہ طلباء کو نئے مفہیم و مطالب سے روشناس کرایا جائے۔ ملاحسن پر ایک جگہ علت تا تمہ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ علت تا تمہ اس کو کہتے ہیں کہ معلول کا وجود اس کے علاوہ کسی اور چیز پر موقوف نہ ہو اور فضلاء مناقبہ نے کہا ہے کہ علت تا تمہ ان تمام امور کا مجموعہ ہے جو معلول کے تحقق میں معتبر ہوتے ہیں اور ان کی یہ تعریف واجب تعالیٰ کو شامل نہیں ہے حالانکہ مناطہ واجب تعالیٰ کو عقل اول کی علت تا تمہ قرار دیتے ہیں کیونکہ واجب تعالیٰ عقل اول کی علت تا تمہ ہے اور واجب تعالیٰ پر اس معنی کے لحاظ سے علت تا تمہ کا اطلاق درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ واجب تعالیٰ بسیط ہے مرکب نہیں۔ (تعلیق علی حاشیہ ملاحسن)

حضرت محدث سورتی کی ذہن رسا اور ذکاوت کا یہ ایک ادنیٰ نمونہ ہے جس میں آپ نے تمام مناطہ کی متفق علیہ تعریف کو مجروح کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ مناطہ نے جو علت تا تمہ کی تعریف کی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اسی میں ضمنی طور پر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ مناطہ کے بیان کردہ تمام اصول لائق اعتماد نہیں ہیں۔ اس لئے منطوق قواعد کی بنا پر شرعی احکام سے معارضہ کرنا لائق التفات اور قابل توجہ نہیں۔

حضرت محدث سورتی کے قلمی حواشی پر مبنی یہ نسخہ مفتی وقار الدین پبلی کھیتی شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ کراچی کے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے اور راقم الحروف نے اسی نسخہ سے استفادہ کیا ہے۔ یہ نسخہ مطبع محمدی (محمد یعقوب) کا مطبوعہ ہے جو ۲۲۰ صفحات پر مشتمل ہے لیکن اس پر رسالہ طباعت درج نہیں ہے۔

حاشیہ میبذی

شیخ رشید الدین عمر الاہری کی تصنیف ہدایت الحکمتہ کی ایک معروف شرح میبذی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مصنف ملا حسین بن معین میبذی (م ۱۰۹۶ھ) تھے جنکو فلسفہ میں خصوصی ملکہ حاصل تھی۔ میبذی دینی مدارس میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے کیونکہ اس سے ہدایت الحکمتہ کے متن میں بیان کردہ دقیق فلسفیانہ مسائل کے سمجھنے میں حد درجہ مدد ملتی ہے۔ برصغیر میں میبذی کو حکمت و فلسفہ کی ایک اہم کتاب تصور کیا جاتا ہے اور اس پر متعدد علماء نے حواشی تحریر کئے ہیں۔ حضرت محدث سورتی نے بھی میبذی پر ایک مختصر حاشیہ قلمبند کیا ہے۔ جو مطبع نظامی کانپور سے شائع ہوا تھا۔ اب تقریباً نایاب ہے۔ مدرسہ عربیہ نیوٹن کی لائبریری میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ جس سے فلسفہ و حکمت میں محدث سورتی کے علم پر روشنی پڑتی ہے۔

دیگر حواشی اور افادات

حضرت محدث سورتی نے تقریباً تمام درسی کتب پر حواشی قلمبند کئے تھے لیکن حضرت محدث سورتی کا ذاتی کتب خانہ حوادث زمانہ کی نذر ہونے کی بنا پر اب بشرح حواشی کا علم نہیں ہے۔ حضرت محدث سورتی کے ملا علی قاری کی شرح شفا راہ امام محمد کی موطا پر مختصر تعلیقات مولانا وقار الدین پبلی کھیتی شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ کراچی کے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہیں اس کے علاوہ بمشیت طبیب بھی حضرت محدث سورتی نے علم طب کی بعض کتب پر حواشی اور افادات قلمبند کئے ہیں۔

کتابیات

- ۱- ابوالکلام کی کہانی، مرتبہ: عبد الرزاق بیچ آبادی، مطبوعات چٹان لاہور ۱۹۶۶ء
- ۲- آثار العنادید - سید احمد خاں - نزل کشور پریس لکھنؤ ۱۸۵۶ء
- ۳- آثار رحمت - امداد صابری - دہلی ۱۹۳۶ء
- ۴- اخراج النافقین - مولانا نبی بخش حلوانی - مطبع کریمی لاہور ۱۳۵۲ھ
- ۵- ارشاد رحمانی - مولانا محمد علی مونگیری - لکھنؤ ۱۳۰۵ھ
- ۶- ادرار ثلاثہ - مولانا اشرف علی تھانوی - لاہور ۱۹۴۳ء
- ۷- اسکات المعتدی - محمد رفیع حسن درجنگوی، کتب خانہ امدادیہ دیوبند ۱۳۲۶ھ
- ۸- اسوۃ رسولؐ - مولانا عبدالاحد علی بیٹی، قرک ایماے سنت کراچی ۱۹۶۷ء
- ۹- انسانی کلوسپیڈیا آف برٹانیکا جلد ۲۱ - مطبوعہ ۱۹۶۰ء
- ۱۰- جلد ۲۶ - ۱۹۱۱ء
- ۱۱- اظہار شریعت - مولانا وصی احمد مدنی سورتی - پیلی بیت ۱۳۰۶ھ
- ۱۲- اعتقاد السنہ - عبداللہ محمدی - لاہور ۱۸۸۶ء
- ۱۳- علی حضرت کی سیاسی بصیرت - سید نور احمد قادری، مکتبہ رضویہ گجرات ۱۹۴۵ء
- ۱۴- افضل رحمانی - افضل الرحمن - مطبوعہ مراد آباد ۱۹۶۰ء
- ۱۵- افادات مہدی - مہدی افادی - سارف پریس عظیم گڑھ ۱۹۳۹ء
- ۱۶- اكمال فی اسما الرجال - ترجمہ حکیم قاری احمد - محمد سید اینڈ سنز کراچی ۱۹۶۶ء
- ۱۷- المعتقد المنتقد - مولانا محمد رضا خاں، مکتبہ حامد لاہور
- ۱۸- الابر تحریک پاکستان - محمد صادق قصوری، مکتبہ رضویہ گجرات ۱۹۶۶ء
- ۱۹- الاستملا - مولانا احمد رضا خاں - مطبوعہ مظہر فیضی رضا لاہور ۱۳۹۶ھ
- ۲۰- التعلیق الجلی - مولانا وصی احمد مدنی سورتی، مکتبہ یوسفی لکھنؤ ۱۳۱۳ھ
- ۲۱- امام احمد رضا اور علم حدیث - مولانا فیض احمد اویسی - مرکزی مجلس رضا لاہور ۱۳۹۸ھ
- ۲۲- برہان پور کے سندھ ادیباء - سید محمد طبع اللہ - سندھی ادبی بورڈ کراچی ۱۹۵۴ء
- ۲۳- پاکستان میں ہجرت کے آٹھ سال - ڈاکٹر عبدالغفور پبلی بیٹی - کوئٹہ ۱۹۵۸ء

- ۲۴- تاریخ بھارت - منشی نجم الدین سندھوی، مطبع شوکت اسلام لکھنؤ ۱۳۰۸ھ
- ۲۵- تاریخ ہندو پاک - مولانا قاری احمد پبلی بیٹی، قرآن محل کراچی ۱۹۶۶ء
- ۲۶- تذکرۃ المحدثین - ملا غلام رسول سعیدی، مکتبہ قادریہ لاہور ۱۹۶۶ء
- ۲۷- تذکرۃ علمائے ہند - مولانا رحمان علی (ترجمہ) پاکستان بٹساریکل سوسائٹی کراچی ۱۹۶۶ء
- ۲۸- تذکرۃ الرشید - عاشق الہی میرٹھی - میسرٹھ
- ۲۹- تذکرہ اکابر اہلسنت - مولانا عبدالکلیم شرف قادری، مکتبہ قادریہ لاہور ۱۹۶۶ء
- ۳۰- تذکرہ شاہ فضل الرحمن گنج مرآد بادی - ابوالحسن علی ندوی - کراچی ۱۹۶۶ء
- ۳۱- تذکرہ مشاہیر کاکوری - محمد علی حیدر - اصح المطابع لکھنؤ ۱۹۲۶ء
- ۳۲- تعلیقات سنن نائی - مولانا وصی احمد مدنی سورتی - مطبع نظامی کانپور ۱۲۹۵ھ
- ۳۳- تقویم ہجری و عیسوی - ابوالنصر محمد خالدی - انجمن ترقی اردو کراچی ۱۹۵۲ء
- ۳۴- تنبیہ الوہابیتیں - مولانا عبدالعلی آسی مدراسی - مطبع آسی لکھنؤ ۱۳۰۸ھ
- ۳۵- جامع الشواہد - مولانا وصی احمد - مدنی سورتی - پیلی بیت ۱۹۰۱ء
- ۳۶- تذکرہ علماء اہلسنت - مولانا محمود احمد قادری - کانپور ۱۳۹۱ھ
- ۳۷- تذکرہ علماء اہلسنت (بخاری) - اقبال احمد فاروقی - مکتبہ نبویہ ۱۹۶۶ء
- ۳۸- جنگ آزادی ۱۸۵۷-۱۸۵۸ - محمد ایوب قادری - کراچی ۱۹۶۶ء
- ۳۹- حادثہ جانکاہ - سید اغلاص حسین سہوانی - بریلی ۱۳۱۳ھ
- ۴۰- حدائق الخفیہ - فقیر محمد جمیلی - مطبع نامی لکھنؤ ۱۸۸۶ء
- ۴۱- حصن حصین - (ترجمہ) حبیب الرحمن - کلام کینی کراچی ۱۹۶۶ء
- ۴۲- حیاۃ المصطفیٰ - مولانا حفیظ الدین بہاری - مکتبہ رضویہ کراچی ۱۹۵۵ء
- ۴۳- حیات بعد الماتہ - فضل حسین بہاری - مکتبہ شیب کراچی ۱۹۵۹ء
- ۴۴- حیات نبلی - سید سلیمان ندوی - عظیم گڑھ ۱۹۲۳ء
- ۴۵- حیات عبدالحی - ابوالحسن علی ندوی - ندوۃ المصنفین دہلی ۱۹۶۰ء
- ۴۶- خزائن کرامت - منشی محمد لعل خاں دیپوری - مطبع سننہ پٹنہ ۱۳۲۳ھ
- ۴۷- خطبات سنی کانفرنس - محمد جلال الدین قادری - مکتبہ رضویہ گجرات ۱۹۶۸ء
- ۴۸- دربار حق و ہدایت - قاضی عبدالوہید عظیم آبادی - مطبع حنیفہ پٹنہ ۱۳۱۹ھ

- ۴۱ - دو قومی نظریہ - ایڈوکیٹ محمد عرفان پٹیل بمبئی - پشاور ۱۹۶۷ء
- ۵۰ - ذکر رحمانی - قاضی محمد ابرار احمد - مطبع العلوم مراد آباد ۱۸۹۹ء
- ۵۱ - رجال السنۃ - شاہ حسین گردیزی - سورتی اکیڈمی کراچی ۱۹۷۷ء
- ۵۲ - رموز الاطباء - حکیم محمد فیر دین الدین - مطبوعہ لاہور ۱۹۶۷ء
- ۵۳ - روداد جلسہ اہلسنت امرتسر - مولانا منیا الدین پٹیل بمبئی - مطبع حنفیہ پٹنہ ۱۳۳۳ھ
- ۵۴ - روئیداد جلسہ عید میلاد النبی - مولانا عبدالجبار بدایونی - کراچی ۱۹۵۵ء
- ۵۵ - ریزہ ذکر خیر - مولانا عتیق احمد پٹیل بمبئی، مطبع نظامی کراچی ۱۳۲۷ھ
- ۵۶ - سالانہ رپورٹ جامعہ امدادیہ کشور گنج سابق مشرقی پاکستان، مطبوعہ ۱۹۶۲ء
- ۵۷ - سرگزشت دماغ کے تدریج - مولانا عبدالحق پٹیل بمبئی - مطبع نادری بریلی ۱۳۱۳ھ
- ۵۸ - سفرنامہ حرمین - مولانا رفیع الدین مراد آبادی - مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۶۱ء
- ۵۹ - سوانح علیحضرت - شاہ مانا میاں پٹیل بمبئی - امین برادرس کراچی ۱۹۷۲ء
- ۶۰ - سوانح قاسمی - مناظر حسن گیلانی - دارالعلوم دیوبند ۱۳۷۲ھ
- ۶۱ - سنت رسول ﷺ - فضل احمد صوفی - تحریک احیائے سنت کراچی ۱۹۶۳ء
- ۶۲ - سیرت امیر ملت - پردیس طاہر فاروقی - علی پور تیداں سیالکوٹ ۱۳۹۴ھ
- ۶۳ - سیرت کمیٹی کے حال و حال - مولانا نعیم الدین مراد آبادی - اہلسنت برقی پریس مراد آباد ۱۳۵۶ھ
- ۶۴ - سیرت مولانا محمد علی مونگیری - محمد عبدالملک الحسینی - ندوۃ العلماء لکھنؤ
- ۶۵ - سیوت السنوۃ علی ذمائم الندوۃ - سید امیر احمد رحمانی - بریلی ۱۳۱۵ھ
- ۶۶ - شاہجہاں نامہ - محمد صالح کنبوہ (ترجمہ) مرکزی اردو بورڈ لاہور ۱۹۷۲ء
- ۶۷ - شرح اربعہ ترمذی - حاشیہ محدث سورتی - مطبع نظامی کراچی ۱۳۹۶ھ
- ۶۸ - شرح معانی الآثار - حاشیہ محدث سورتی - مطبع اسلامیہ لاہور ۱۳۲۸ھ
- ۶۹ - عقد الجواہر فی احوال البواہر - ابو ظفر ندوی - کتب خانہ عباسی کراچی
- ۷۰ - غرر شریک - حکیم مومن سجاد کراچی پوری - مطبع اہلسنت بریلی ۱۳۱۶ھ
- ۷۱ - فتاویٰ السنۃ لاجم الفتنہ - مولانا عبدالرزاق اکملی حیدرآبادی - مطبع اہلسنت بریلی ۱۳۱۴ھ
- ۷۲ - فتاویٰ القدوہ لکشف دین الندوہ - مطبع نادری بریلی ۱۳۱۳ھ
- ۷۳ - فتاویٰ رضویہ - مولانا احمد رضا خاں بریلوی - دارالاشاعت مبارکپور اعظم گڑھ ۱۹۶۱ء

- ۷۴ - فتح المبین - مولانا منصور علی مراد آبادی - دارالعلم والعمل فرنگی محل لکھنؤ ۱۳۰۱ھ
- ۷۵ - قاضی بریلوی اور ترک موالات - پروفیسر محمد مسعود احمد مرکزی مجلس رضا لاہور ۱۳۹۱ھ
- ۷۶ - گلستانہ مصححانے صورت - شیخ بہادر عرف شیخونیاں مطبع شہابی بمبئی ۱۳۱۵ھ
- ۷۷ - قلمی یادداشتیں - حکیم قاری احمد علی بھیتی (غیر مطبوعہ) مملوکہ ولی حیدر ذاکر کراچی
- ۷۸ - مخزن برکات - رضوان المصطفیٰ چشتی، لاہور ۱۳۹۸ھ
- ۷۹ - مراسلات سنت و تدوین - مرتبہ مولانا حامد رضا خاں - مطبع نظامی بریلی ۱۳۱۳ھ
- ۸۰ - مشاہدات حرمین - مولانا حکیم قاری احمد - مطبوعہ کراچی ۱۹۵۲ء
- ۸۱ - مکتوبات علماء - مرتبہ محمد عبدالکریم قادری - بریلی ۱۳۱۳ھ
- ۸۲ - ملفوظات مہربہ - مولانا گل فقیر احمد پشاور، ارادالپنڈی
- ۸۳ - مہر گنگوہ در رد عمدہ - فتویٰ مولانا رشید احمد گنگوہی - بریلی ۱۳۱۳ھ
- ۸۴ - مہر منیر - مولانا نیفن احمد نیفن - گولڑہ شریف ۱۹۴۳ء
- ۸۵ - نزہتہ الخواطر - حکیم عبدالحمید - تدوین العلماء لکھنؤ ۱۹۷۶ء
- ۸۶ - نصر المقلدین - حافظ احمد علی بنالوی - مطبع آسی مدراسی لکھنؤ ۱۳۲۰ھ
- ۸۷ - یاد علی حضرت - مولانا عبدالحکیم شرف قادری - مکتبہ قادری لاہور ۱۹۷۷ء
- ۸۸ - یادگار شبلی - شیخ محمد اکرام - ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۷۱ء

اخبارات و رسائل

روزنامہ سعادت (ائمہ اہلسنت) نمبر لاہور، روزنامہ حریت کراچی، ٹائمز آف انڈیا
 دہلی، ڈیلی اسٹار بمبئی، اخبار دہلیہ سکند گرام پور، ہفت روزہ الفقیہہ ارتسہ، ہفت روزہ انق
 کراچی، ہفت روزہ بیداری بمبئی، ہفت روزہ بیداری مالنگاؤں، ہفت روزہ پردیس
 بمبئی، ہفت روزہ جمہور بمبئی، ہفت روزہ رندو دچین پبلی بھیت، ویکی مارنگ میرالد بمبئی،
 ہفت روزہ نظام بمبئی، ہفت روزہ ہمدرد دہلی، ماہنامہ البلاغ کراچی، ماہنامہ انجمن
 دہلی کا ماہوار رسالہ، لاہور، ماہنامہ میزان بمبئی، ماہنامہ انوار الصوفیہ لاہور، ماہنامہ پیانق
 کراچی، ماہنامہ تحفہ حنفیہ، پٹنہ بھارت، ماہنامہ ترجمان اہلسنت کراچی، ماہنامہ معارف اعظم گڑھ
 بھارت، ماہنامہ نگار لکھنؤ، ماہنامہ بصائر کراچی۔

العالم الكامل لمحدث الفاضل
جبل الاستقامه

علامہ حضرت شاہ وصی احمد محدث سوئی قدس
کی

فقہ حنفی میں نادر و نایاب تصنیف

التعلیق المجلد المانی المصنوع

پندرہویں صدی ہجری کے آغاز پر

مکتبہ قادریہ لاہور سے نوٹو آفسٹ پر ایک مرتبہ پھر

اہل علم کے لئے طبع ہو گئی ہے۔

لئے کاپیہ: مکتبہ جامعہ میاں
کا: قادریہ کا نظر کا رضویہ

اندرون لوہاری دروازہ لاہور (پاکستان)

پہلے صدی ہجری ایک طرف سے طیبتہ نفسیات کی صدی ہے خاص طور پر ہندوستان میں قدر بڑے لوگ اس صدی نے پیدا کئے شاید ہی کسی سے پہلے ایسا ہوا ہو۔ مذہب سیاست معاشرت سماعت فرسید ہر شعبے میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ علماء و مشائخ میں بھی ایسی ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جن کی عظمت کا اعتراف حتیٰ دنیا تک رہا۔
 مولانا امی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی ہی شخصیت تھے جن پر ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔
 مولانا شاہ فضل الرحمن گنج آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص مولانا احمد علی مبارز پوری اور مولانا مظف اللہ علی گڑھی کے شاگرد مولانا میر ہرمل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم جہاں سے جو بعد میں محدث سورتی کے نام سے متعارف ہوئے اور جن کی علمی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سید یحییٰ اشرف ایسے زاہد و زکاہ لوگوں نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ مولانا امی احمد سورتی کے علمی کارنامے تاریخ کا حصہ ہیں۔ اگر وہ مسلمانوں کے زمانہ عروج میں پیدا ہوتے تو یقیناً احمد بن حنبل اور امام بخاری کے ہم قدم قرار پاتے لیکن افسوس کہ دروزوال میں ہندوستان ان کی صلاحیتوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکا۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کے شاگرد عقیدت مند اور متعلمین آپ کے علمی کارناموں سے قوم کو متعارف کرائیں یہ ایک علمی اور ذہنی خدمت بھی ہوگی اور احسانِ شناسی بھی۔
 والسلام

حضرت مولانا مفتی
 عبد القیوم ہزاروی
 ناظم اعلیٰ
 جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

عسزائی دوران
 حضرت علامہ احمد سعید کاظمی
 شیخ الحدیث
 مدرسۃ النوار العلوم - ملتان

حضرت مولانا امی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے اکابر علماء میں عظیم ترین عالم تھے۔ علوم آئیہ کے علاوہ علوم دینیہ میں بھی آپ کو یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ بالخصوص علم حدیث میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور اپنے دور کے عظیم محدث تھے۔ آپ نے تدریس و تصنیف کے ذریعہ علوم حدیث کی زترین خدمات انجام دیں۔ سنن نسائی پر نہایت نفیس مکمل حاشیہ تحریر فرمایا اور طحاوی شریف پر عمدہ تعلیقات تحریر فرمائیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے متعدد حواشی اور شروح لکھیں مگر انہوں نے کہ حضرت مدور کا بہت سا علمی سرمایہ آج ہمارے سامنے موجود نہیں بلکہ آپ کے سوانح حیات سے بھی عام طور پر اجہل علم بے خبر ہیں۔
 ضرورت ہے کہ آپ کے علمی مؤلفات اور زندگی کے حالات کو منظر عام پر لایا جائے۔ اس ضمن میں محترم رضی حمید صاحب کی کاوش قابل تحسین ہے۔
 زبردست کتاب کے مطالعہ سے محدث سورتی کی علمی شخصیت اور علم کے سامنے آجیاگر ہوگی اور ایسی مفید معلومات حاصل ہوں گی جنکی اس زمانہ میں ضرورت ہے۔

تذکرہ

حدیث سورتی
 آئیف: خواجہ رضی حمید

سورتی
 اکیڈمی
 ۲- ڈی ۱۶
 ناظم آباد